

فصل
ہفت مسئلہ

مصنف

حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر مکی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

مسلم کتابوی لاہور



رسالہ ہدایت قبیلہ

فیصلہ یافتہ مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ الحداد صاحب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

— مع: —

توضیحات و تشریحات

— از: —

مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی ماہری

مہتمم و صدر المدینہ العلمیہ حسن البرکات (ٹرسٹ)

حیدرآباد (سندھ) پاکستان

مہم اُردو بازار

لاہور — ۲

نزدیک رسالہ

فیصلہ یافتہ مسائل

ان سات مسائل سے اختلاف رکھنے والے اگر غور و انصاف سے
اس کتاب کو پڑھیں گے تو امید و اتق ہے کہ ان کا دل ان کی غلط روی
پر انہیں تنبیہ کرے گا اور وہ حق کی طرف واپس آئیں گے۔
مفتی محمد خلیل برکاتی علیہ الرحمۃ

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

مُسْلِم بکسٹ ایبوی • لاہور

جملہ حقوق بحق رومی پبلیکیشنز لاہور محفوظ ہیں

نام کتاب _____ فیصلہ ہفت مسئلہ
مصنف _____ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ
ناشر _____ رومی پبلیکیشنز لاہور اردو بازار لاہور
تقریب _____ مولانا طفیل احمد جالندھری
کتابت _____ فضل الہی کیدانی
تعداد _____ ایک ہزار
بار _____ ۱۹۸۶ء - ۱۴۰۶ھ
مطبع _____ حامد اینڈ پبلسٹی پرنٹرز لاہور

قیمت - / ۶۹ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جملہ حقوق محفوظ

فیصلہ ہفت مسئلہ
حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر مکی علیہ الرحمۃ
اول محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
۱۹۹۹ء

کتاب
مصنف
بار اشاعت

۴۰
اشتیاق پرنٹرز لاہور
مسلم کتابوی لاہور
۱۵ روپے

صفحات
طابع
ناشر
قیمت

ملنے کا پتا

دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ لاہور
فون نمبر ۷۲۲۵۶۰۵

○ مسلم کتابوی

انتساب

حضور پر نور، سید الافراد، قطب الارشاد، محی الدین محبوب سبحانی
 سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الرہانی کی بارگاہ بیکس پناہ
 میں، اُمہتیں کے غلام غلامان برکات کا پروردہ، ایک نابکار و سیکار
 بندہ، اپنی عقیدت و محبت کے خوان میں، خلوص و لگن سے
 سجایا ہوا یہ گلہ ستم، اس توفیح پر نذر کرنے کی جسارت کر رہا ہے
 کہ وہ کریم بن کریم محروم تو جہ نہ فرمائیں گے کہ ہے

وَلِلْأَرْضِ مِنَ كَأْسِ الْكِرَامِ لَضِيبٌ

ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا
 ترے فقیروں میں اے شہریار! ہم بھی ہیں

العبد محمد خلیل خاں قادری البرکاتی عفی عنہ

حیدرآباد (پاکستان)

۱۵ جمادی الاول ۱۴۰۴ھ

۱۸ فروری ۱۹۸۴ء شنبہ

فہرست

عنوانات

صفحہ نمبر

۱۷	ابستدائیہ
۲۲	مولد شریف
۲۹	فاتحہ مروجہ
۳۲	عرس و سماع
۳۵	غیر اللہ کو پکارنا
۳۷	جماعتِ ثانیہ
۳۸	امکانِ نظیر و امکانِ کذب

نعت شریف

ذرا چہرے سے پرشے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ
مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
شیخ عاصیاں ہو تم وسیلہ بیکیاں ہو تم
تمہیں چھوڑا اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ
لگے گا جوش کھانے خود بخود دریائے بخشائش
کہ حرف شفاعت لب پہ لاؤ یا رسول اللہ
اگر چہ نیک ہوں یا بد تمہارا سوچکا ہوں میں
تم اب چاہو ہنسناؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ
جہاز امت کا حق لے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
پھنسا ہے بے طرح گروا ب غم میں ناخدا ہو کر
میری کشتی کٹا ہے پہ لگاؤ یا رسول اللہ

مولانا شاہ امداد اللہ صاحب از کلیات

اہلیہ مضامین و مباحث

مضمون و بحث	نمبر شمار	صفحہ	مضمون و بحث	نمبر شمار	صفحہ
نزاع لفظی کی حقیقت۔	۱۴		افتتاحیہ		
اتباع عبدالوہاب علامہ شامی کی نظر میں۔	۱۵		برادرانِ اسلام سے التماس چند گزارشات	۱۳	
تقویت الایمان اکابر دیوبند کی نگاہوں میں۔	۱۶		ایک حقیقت ثابتہ	۱۵	۱
شاہ صاحب کے ذکر کردہ مسائل اختلافیہ۔	۱۷		تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ۔	۱۷	۲
			ناقابلِ قبول تاویلیں۔	۱۸	۳
			علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ مسائل کا حکم	۱۹	۴
			اختلاف اُمتی رحمتہ۔	۲۲	۵
			ایک فتویٰ دافع طغویٰ	۲۶	۶
			ضروری عرض واجب اللحاظ	۳۱	۸
			شرع مطہرہ کا ایک ضابطہ کلیہ	۳۳	۹
			ایک حدیث طویل کا خلاصہ	۳۹	۱۰
			حقیقت الامر یہ ہے کہ۔	۴۱	۱۱
			توجہ طلب گزارش	۴۱	۱۲
			فیصلہ ہفت مسئلہ	۴۲	
			نااتفاقی کی مضرتیں۔		۱۳
تذکرہ میلاد، قرآن حدیث میں مجلس میلاد مبارک کی حقیقت	۱۸				
ذکر ولادت کے وقت قیام	۱۹				
یہ قیام، شعارِ اہلسنت ہے۔	۲۰				
چند بنیادی امور۔	۲۱				
قرن و زمانہ، حاکم شرعی نہیں	۲۲	۵۹			
کسی فعل کے جائز و ناجائز ہونے کا معیار	۲۳				
	۲۴				

مُصَنَّفِ كِتَابِ هَذَا

حضرت امداد حسین علیہ الرحمۃ جو علمی دنیا میں حضرت
امداد اللہ صاحب مکئی علیہ الرحمۃ کے لقب سے جانے
پہچانے جاتے ہیں، ۲۲ صفر المنظر ۱۲۳۳ھ (مطابق ۱۸۱۷ء) کو
ہندوستان کے ضلع بہار نپور کے ایک نانوتہ نامی قصبہ میں پیدا ہوئے
سات سال کی عمر میں والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں۔ چونکہ والدہ کی
وصیت تھی کہ بچہ کو لاڈ و پیار سے رکھا جائے اور کسی معاملہ میں اس
کو ہاتھ وغیرہ نہ لگایا جائے اس لیے ابتداً دینی تعلیم کی طرف بھی کوئی
باقاعدہ توجہ نہ دی جاسکی۔ مشیت الہی میں چونکہ آپ کے وسیلہ
سے لوگوں کی اصلاح مقصود تھی اس لیے آپ نے اپنے ذاتی
شوق کے باعث قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا اور ان حفظ
بعض موانع ایسے پیش آئے کہ اپنے گاؤں میں اس کی تکمیل نہ ہو سکی
بہر حال مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اس کی تکمیل ہو گئی۔
سولہ سال کی عمر میں وہلی تشریف لے آئے یہاں پر اساتذہ وقت
سے چند محققات فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں
شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی تکمیل الایمان کی قوت
اخذ فرمائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکئی علیہ الرحمۃ سلسلہ
نقشبندی مجددیہ میں حضرت مولانا نصیر الدین حنفی نقشبندی مجددی

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
مسلمانوں کی رسوم و عادات میں موافقت مطلوب ہے۔	۳۹	۲۵	مانعین کو خود اپنی خبر ہے کہ نہیں۔		
رسم صالحین کا ترک کرنا بھی وجہ ملامت ہے۔	۴۰	۲۶	باندازِ دیگر عوز		
امورِ مستحبہ پر دوام عمل شرعاً مطلوب ہے۔	۴۱	۲۸	ذکرِ ولادت کے وقت قیام، ذکرِ خدا کے لیے ہے۔		
رحمتِ قہقریٰ کی تشریح پیشہ ور و اعظین کا وبال۔	۴۲	۲۹	بدعت کی تعریف و تقسیم		
مجلسِ میلادِ النور میں تشریف آوری کا اعتقاد	۴۳	۳۰	تعظیم و توقیرِ نبوی، مسلمان کا ایمان ہے۔		
بجالتِ بیداری، زیارتِ اقدس کے واقعات	۴۴	۳۱	مجلس و قیام کی خوبی قرآن سے ثابت ہے۔		
یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا و سوسہ شیطانی ہے۔	۴۵	۳۲	وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ كِي وَسَعَتِينَ۔		
قبر میں رٹے زیبا کی زیارت النور	۴۶	۳۳	تخصیصاتِ میلادِ اقدس		
روحِ کریم ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔	۴۷	۳۴	ضرورت و حاجتِ شرعی		
قدرتِ الہی کے بارے میں ایک پاکیزہ قانون	۴۸	۳۵	بہت جگہ تخصیصات پر برکات موقوف ہیں۔		
ایک اور قریب الفہم تہنہ و تقریب علم کا ذاتی و عطائی ہونا یقینی ہے۔	۴۹	۳۶	میلادِ شریف کی تخصیصات موجبِ حسنات ہیں		
علمِ عنیب نبی کا بیان	۵۰	۳۷	نیک بات کا ایجاد کرنا سنی ہے		
	۵۱	۳۸	بدگمانی اس سے بڑی جھوٹی بات ہے		
	۵۲		نیک بات کو جاری و دائم رکھنا چاہیے۔		

دہلوی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت میاں نجیو صاحبِ چشتی علیہ الرحمۃ سے بیعت ہوئے، ایک طویل عرصہ تک پیر و مرشد کی صحبت میں رہے اور طریقہ چشتیہ صابریہ میں خرقہ و خلافت و اجازتِ خاصہ سے نوازے گئے۔

۱۲۶۰ھ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم ہمارے پاس آؤ“ اس کے بعد دل میں درجیب کی حاضری کا شوق اس قدر بڑھ گیا کہ بغیر کسی ساز و سامان اور زادِ راہ کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ دورانِ سفر ایک گاؤں میں قیام کیا۔ اس دوران بھائیوں نے زادِ راہ پہنچایا جس کو بخوشی قبول کر لیا اور اپنے سفر مقدس پر روانہ ہوئے یہاں تک کہ ۱۲۶۱ھ کو بذریعہ جہاز مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد اسحاق محدث حنفی دہلوی ثم مالکی اور حضرت عارف باللہ سید قدرت اللہ حنفی بنارسی ثم مالکی سے مستفیض ہوئے۔ دونوں حضرات اپنے وقت میں بڑے صاحبِ کشف و کرامت بزرگ مشہور تھے۔

چونکہ مقصود سفر، حاضری بارگاہِ رسالت تھی۔ اس لیے دونوں مذکورہ بزرگوں نے اپنے چند بدوی مریدین کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت کو بحفاظت تمام مدینہ منورہ لے جاؤ اور انہیں متنبہ کیا کہ دورانِ سفر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
آسمان قبلہ دعا ہے۔		۶۶	منکرینِ علمِ غیب کی اونچی ارمان	۱۰۹	۵۳
امواتِ مسلمین کو ایصالِ ثواب		۶۷	وہابیہ کا محفل میلاد کو جنم کنھیا		۵۴
شرعاً مطلوب ہے۔			کی طرح سمجھنا		
تعیین تاریخ و یوم عرفی ہے		۶۸	وہابیہ کا منتہائے علم		۵۵
عوام کے غلو کا علاج		۶۹	"تقویۃ الایمان" ہے۔		
وہابیہ کے نزدیک فاتحہ فعلِ منور		۷۰	وہابیہ مسلمانوں میں افتراق		۵۶
سے مشابہ ہے۔			پھیلاتے ہیں۔		
فاتحہ سے متعلق چند نفیس معلومات		۷۱	ذکر ولادت شافعِ امت	۱۲۰	۵۷
اجتماعِ طعام و قرآن خوانی		۷۲	مدح و ثنائے مصطفیٰ اہلِ ولا	۱۲۴	۵۸
یاد رکھنا چاہیے کہ	۱۴۶	۷۳	کی شان ہے۔		
قصہ تطہیر اہلِ قبا		۷۴	حجتن و جلاوس عید میلاد النبیؐ	۱۲۵	۵۹
عام مسلمانوں اور کاطلین کے		۷۵	عوام صرف علمائے اہلسنت		۶۰
ایصالِ ثواب میں فرق			سے رابطہ رکھیں۔		
مغضبانِ دین کی نیاز تبرک ہے۔		۷۶	اکابریت کا قول و فعل حجت		۶۱
ثواب صرف فقرا رہی پر تصدق		۷۷	کسی خصوصیت سے شرعِ مطہرہ		۶۲
پر موقوف نہیں۔			کو کوئی غرض نہیں۔		
تنبیہ جلیل	۱۵۲	۷۸	مصافحہ و معانقہ صدیوں سے		۶۳
سوم، تیسرے دن بھی ہوتا ہے		۷۹	متواتر ہے۔		
اور دوسرے دن بھی۔			دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ	۱۳۴	
شبِ برأت کی اہمیت		۸۰			
مونہ میٹھا کرنا اور کرانا،		۸۱	فاتحہ ایصالِ ثواب کا نام ہے۔		۶۴
ایک فطری فعل ہے۔			فاتحہ کے تین طریقے مروج ہیں		۶۵

میں ہدیہ صلوات و سلام پیش کیا اور دل میں خیال آیا اگر کوئی عارف
 کامل میری طلب کے بغیر درودِ پنجینا پڑھنے کی اجازت دے تو
 بہت بہتر ہو۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا حضرت مولانا شاہ
 گل محمد خان صاحب رحمہ اللہ جو کہ عرصہ تیس سال سے روضہ
 شریف پر مجاور تھے، ملاقات کی اور دیگر کئی فوائد کے علاوہ
 حضرت خان صاحب موصوف نے بغیر طلب کے درودِ پنجینا کے
 وِزوں کی اجازت دی اور فرمایا کہ ہر روز اگر ممکن ہو ایک ہزار بار،
 ورنہ تین سو ساٹھ بار پڑھا کر و اور اگر وقت کی کمی ہو تو اکتالیس
 بار تو ضرور پڑھا کر ولیکن ناغہ نہ ہونے دیا کرو کیونکہ اس درود
 پاک کے بہت فوائد ہیں۔

حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمۃ بڑے صاحبِ کرامت بزرگ
 تھے معمولاتِ اہل سنت، اور درودِ پنجینا کے بڑے عامل تھے۔ دینی و
 دنیوی کاموں کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنے مریدوں سے درج
 ذیل عملیات کی بڑی پابندی کراتے فرماتے ”کوئی مہم (مشکل)
 پیش آئے تو سورہ یٰسین پڑھیں اور ہر مہین پر پنج کرسات بار سورہ
 فاتحہ مع تسمیہ پڑھیں اور اول و آخر سورہ کے درود شریف پڑھیں
 درود شریف مثل صندوق کے ہے کہ اپنے اندر لپیٹ کر (وظیفہ
 دُعا کو) لے جاتا ہے۔

امداد المشاق میں ایک جگہ پر حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کا اپنا
 واقعہ لکھا ہے کہ جب اول اول مکہ مکرمہ آیا فقر و فاقہ کی یہاں
 تک نوبت پہنچی کہ نوروز تک بجز زمزم شریف کے کچھ نہ ملا۔ تین

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
تعیین پر بنوع دیگر کلام	۹۶	۹۶	ایک دوسرے کو ہدیہ کرنا،		۸۲
امور خیر کے لیے تعین کا	۹۷	۹۷	محبت کا موجب ہے۔		
ثبوت شرعی			ایصالِ ثواب کے دیگر طریقے		۸۳
مشائخ کرام سے تعین متواتر ہے۔	۹۸	۹۸	یوم عاشوراء پر ایصالِ ثواب		۸۴
علمائے بہت نوپید امور کو	۹۹	۹۹	ستی مسلمان اور مظلوم کر بلا	۱۶۰	۸۵
جائز مانا			جہال کا ایک اعتراض اور	۱۶۳	۸۶
تقلید شخصی خیر القرون میں نہ تھی	۱۰۰	۱۰۰	اُس کا جواب		
ہر کام، وقت مقرر پر بخوبی انجام	۱۰۱	۱۰۱	ضروری ضروری نہایت ضروری	۱۶۴	۸۷
پاتا ہے۔			فاتحہ کا طریقہ، مروجہ	۱۶۵	۸۸
منکرین ذرا اپنی بھی خبر لیں۔	۱۰۲	۱۰۲	مسئلہ ضروریہ واجب الحفظ	۱۶۶	۸۹
سماع، عرس کا لازمی جز، نہیں	۱۰۳	۱۰۳	چند اور واجب اللحاظ مسئلے	۱۶۸	۹۰
”لا تجعلوا قبری عیداً“	۱۰۴	۱۰۴	تیسرا مسئلہ		
کی توجیہات			عرس و سماع کا	۱۶۰	
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ ہیں	۱۰۵	۱۰۵			
عرس پر ایک اعتراض کا جواب	۱۰۶	۱۰۶	عرس اور جشن عروسی		۹۱
با صواب			مزاراتِ اولیاء پر حاضری		۹۲
عرس میں رقص و سرود حرام و	۱۰۷	۱۰۷	سعادت ہے۔		
نا جائز ہے۔			مجمع مسلمین، اوقاتِ لجاہت		۹۳
سجدہ تحیت گناہ کبیرہ ہے	۱۰۸	۱۰۸	سے ہے۔		
کفر نہیں			بیعت دنیا و آخرت میں		۹۴
مسئلہ سماع پر نفیس کلام	۱۰۹	۱۰۹	بکار آمد ہے۔		
موجودہ قوالی پر ایک نظر	۱۱۰	۱۱۰	بیعت کے لیے چار شرطیں ہیں		۹۵

چار دن کے بعد بعض اجباب سے قرض مانگا۔ انہوں نے باوجود وسعت انکار کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ امتحان ہے پس عہد کر لیا کہ یہ قرض بھی نہ لوں گا، اور ضعف سے یہ حالت تھی کہ نشست پر سخت دشوار تھی۔ آخر نویں دن حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم واقعہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امداد اللہ! تم کو بہت تکالیف اٹھانی پڑیں۔ اب تیرے ہاتھوں لاکھوں روپیہ کا خرچ مقرر کیا جاتا ہے۔ میں نے انکار کیا کہ یہ امانت بہت سخت ہے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تمہاری مرضی مگر اب مایحتاج خرچ تمہیں ملا کرے گا۔ تب بلا منت و بگرے مصارف روزمرہ چلتے رہے۔

ایک دوسری جگہ لکھا ہے۔ اس وقت سے خرچ ماہانہ اقل مرتبہ سو روپیہ ہے۔ خدا اپنے خزانہ رحمت سے پہنچاتا ہے (امداد المشتاق) حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کے مکتوبات بنام مکتوبات امداد یہ کے علاوہ درج ذیل تالیفات مشہور و معروف ہیں۔ — غذائے روح، جہاد اکبر، مثنوی تحفۃ العشاق، ضیاء القلوب فارسی، درد نامہ غمناک، گلزار معرفت، رسالہ وحدۃ الوجود اور ارشاد مرشد (امداد المشتاق)

وصال کے بارے میں امداد المشتاق میں لکھا ہے کہ ایام غدر میں قصہ فساد و الزام بغاوت کے زمانہ میں مکہ معظمہ ہجرت فرما ہوئے اور کل چوراسی سال تین مہینہ بیس روز گوشہائے عالم دنیا کو منور فرما کر بارہ یا تیرہ جمادی الآخر ۱۳۱۷ھ بروز چہار شنبہ بوقت اذان صبح اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہوئے اور جنت المعلیٰ و

مضمون و مبحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و مبحث	صفحہ	نمبر شمار
غسل مزارات	۲۲۲	۱۲۹	امام اہلسنت کا ایک فتویٰ		۱۱۱
تنبیہ جلیل	=	۱۳۰	سماع مباح ہونے کے لیے		۱۱۲
انبیاء کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام ہیں۔		۱۳۱	چند چیزیں ضروری ہیں اس باب میں چند اور ارشادِ الٰہی		۱۱۳
چوتھا مسئلہ			وحدِ صادق و حالِ غالب		۱۱۴
ندائے غیر اللہ	۲۲۴		عرض عرس مجموعہ ہے امور مستحسنہ کا۔		۱۱۵
ندائے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں		۱۳۲	چند اصول شرعیہ	۲۰۶	۱۱۶
التحیات، عمدہ دلائلِ نداء سے ہے		۱۳۳	زیارتِ قبور سے متعلق چند مسائل	۲۰۶	۱۱۷
امت کے تمام اعمال، حضور پر عرض کئے جاتے ہیں۔		۱۳۴	قبر پر چراغ جلانا، خود و لوہان سدکانا	=	۱۱۸
وہابیہ کا تجاہل عارفانہ		۱۳۵	تربت اولیاء کرام پر خلافِ ڈالنا	۲۰۹	۱۱۹
حدیث میں نداء کی تعلیم و تلقین		۱۳۶	مچھولوں کی چادر قبور پر ڈالنا	۲۱۱	۱۲۰
وفات کے بعد آلاتِ خاکی، زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔		۱۳۷	مزاراتِ طیبہ پر سفر کر کے جانا	۲۱۲	۱۲۱
اولیائے کرام سے استمداد و التجا		۱۳۸	وہابیہ کا مورثِ اعلیٰ ابنِ تیمیہ	۲۱۴	۱۲۲
وہابیہ کے مذہب میں شاہ ولی اللہ عامۃ المسلمین کی نداء بھی عبث نہیں		۱۳۹	مزاراتِ طیبہ کے قریب مسجد بنانا	۲۱۵	۱۲۳
احادیث میں نداءے غیر اللہ کا ثبوت۔		۱۴۰	اولیاء و صلحا کے لیے منت ماننا	۲۱۶	۱۲۴
		۱۴۱	انتباہِ ضروری	۲۱۷	۱۲۵
			مزارات پر عمارت کی تعمیر	۲۱۸	۱۲۶
			ظاہری تزک و احتشام		۱۲۷
			ایک ضرورت ہے۔		
			زیارتِ تبرکات و آثار	۲۲۱	۱۲۸

مقبرہ مکہ معظمہ میں مولوی رحمت اللہ رحمہ اللہ کی قبر متصل مدفون ہوئے۔
 اسی کتاب مذکورہ کے صفحہ ۲۰۴ پر حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کی ایک
 وصیت لکھی ہے کہ بر روایت معتبر معلوم ہوا کہ حضرت نے مرضِ وفات
 میں مولوی محمد اسماعیل صاحب بن ملا نواب صاحب کو جو بجائے
 خود ایک شیخ ہیں اور حضرت سے ان کو بہت انس تھا، یہ وصیت
 فرمائی کہ میں چاہتا ہوں میرے جنازہ کے ساتھ ذکرِ جہر ہو۔ انہوں
 نے کہا کہ مناسب نہیں۔ آپ نے حسبِ عادت فرمایا۔ اچھا جیسی
 مرضی ہو۔ غرض جب جنازہ لے چلے ایک عرب بولا اذکر اللہ۔
 سب ہمراہیوں نے ذکرِ جہر شروع کر دیا۔

حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمۃ کی ایمان افروز باتیں

● اکثر فرماتے، فقیر وہ ہے کہ حنفی المذہب صوفی المشرک ہو
 جو کوئی میرے یاروں میں سے اس سے بجا و زکرے گا میرے رابطہ و
 واسطہ سے اس کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔

● فرماتے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اب وہ زمانہ
 آیا ہے کہ آدمی کو ضروری ہے کہ اولاً عقائد ضروریہ اہل سنت و جماعت
 یاد کرے۔۔۔۔۔

● اور کسی ایسے درویش سے کہ تتبع کتاب و سنت ہو اور
 عقائد صحیح اہل سنت و جماعت کے رکھتا ہو اور اس کا سلسلہ
 متصل ہو اور کچھ دنوں کسی عارف کامل کی خدمت میں زانوئے
 ادب بھی تہہ کیا۔۔۔۔۔ طریقہ ذکرِ خدا کا اخذ کرے۔

● اور شنوئی شریف حضرت مولانا روم قدس سرہ و کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کمر گوشہ نشینی اختیار کرے اور فقیر نے اپنی عادت کر لی ہے کہ سفر و حضر میں کلام اللہ شریف، دلائل الخیرات و شنوئی معنوی شریف حضرت مولانا کو ضرور پاس رکھا ہوں۔
● ارشاد فرمایا جائے بزرگوں، زیارت آثار بزرگوں میں برکت ہوتی ہے۔

● فرمایا، خوشبو لگاتے وقت سب نیتوں سے عمدہ نیت یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کی نیت کرے، فان اللہ جمیل یحب الجمال۔
● فرمایا، اگر نیت درست ہو تو آدمی آیہ و ہم فی صلواتہم دائمون میں داخل ہو جائے یعنی حضور دائم میسر ہو۔
● فرمایا کہ مولانا شریف (میلاد النبی) تمام اہل عربین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے۔

فرمایا یہ ایک زمانہ صحبتے با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے یا

اس میں زمان عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے جب ان کی مع اللہ وقت میسر ہو۔ وہ وقت مراد ہے۔

● فرمایا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغۃ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے، لہ الخلق والاہد۔ عالم امر مقید بحجت و طرف و قرب و بعد وغیرہ نہیں ہے پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے۔

● فرمایا کہ وظائف میں عدد و طاق عمدہ ہیں ہوں یا ۔

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
حضرت عثمان بن مرزوق کی		۱۶۱	اکابر اولیائے نذاکات ثبوت		۱۴۲
عظیم کرامت			صلوۃ الاسرار یا نماز غوثیہ		۱۴۳
چند معلومات و نتائج		۱۶۲	استعانت کی دو صورتیں		۱۴۴
پانچواں مسئلہ	۲۶۶		استعانت بمعنی وسیلہ غیر		۱۴۵
جماعت ثانیہ			کے لیے ثابت ہے		
جماعت ثانیہ کے لیے قاعدہ کلیہ		۱۶۳	ایک نستعین کی صحیح تعبیر		۱۴۶
تکرار جماعت بلا اختلاف		۱۶۴	وہابیہ کی دھوکہ دہی		۱۴۷
جانتے ہیں اگر			مسلمانوں پر بدگمانی حرام ہے		۱۴۸
تکرار جماعت مکروہ ہے جبکہ		۱۶۵	وہابیہ کو حق کی تلفین		۱۴۹
فائدہ مہتمم	۲۶۰		تبلیغ حق کے طریقے		۱۵۰
امام اہلسنت کا ایک فتویٰ		۱۶۶	رسوم جاہلیت مٹانے کی ضرورت		۱۵۱
تعدیل ارکان کی اہمیت		۱۶۸	شاہ صاحب کے چند اشعار		۱۵۲
طہارت و نماز میں بے احتیاطیاں		۱۶۹	مولوی نانوتوی کی استمداد		۱۵۳
رکوع و سجود کا مسنون طریقہ	۲۶۶	۱۷۰	ناقابل قبول تاویل و اعتذار		۱۵۴
چھٹا و ساتواں مسئلہ			نانوتوی صاحب کا کفر جلی		۱۵۵
امکان نظر و امکان کذب	۲۶۹		ایمان افروز چند حکایات	۲۵۸	۱۵۶
مسئلہ امکان نظیر	۲۸۰		دوسرے حاجت روا تک		
کسی صفت خاصہ میں حضور کا		۱۷۱	رہنمائی کا ثبوت		
مثل ماننا گمراہی ہے		۱۷۲	اولیاء اللہ، عون الہی کے مظاہر ہیں		۱۵۸
حضور کے بعض خصائص جلیلہ		۱۷۳	سیدنا غوث اعظم کی کرامت جلیلہ		۱۵۹
			اولیاء کے لیے ندریں، شرعی		۱۶۰
			ندریں نہیں		

● فرمایا کہ تمام لطائف بالائے عرش ہیں۔ تصور کرنا چاہیے کہ ان کے حقائق سے فیض حاصل ہوتا ہے۔

● اور فرمایا کہ جو کوئی کچھ شنوی میں ہے اس کی تعلیم روحانی مجھ کو مولانا روم نے فرمائی ہے۔

● فرمایا کہ اولیسیہ وہ گروہ ہے کہ کسی بزرگ کی رُوح سے فیض یاب ہوا۔ جیسے حضرت اولیس قرنی، زیارت جناب سالتاب رصلی اللہ علیہ وسلم سے معذور رہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے اسی مناسبت سے اولیسیہ اولیس سے منسوب کیا گیا جیسا حضرت حافظ روحانیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابوالحسن خرقانی روحانیت میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے کہ سو سال بعد حضرت کے پیدا ہوئے تھے، فیض یاب ہوئے اور بیعت عثمانی بھی اسی نوع سے کہ جنگِ حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیبت میں بیعت لی اور یہی توجیہ مشائخ کی کہ مرید کی بیعت غیبت میں کرتے ہیں۔

● فرمایا کہ قلندر یہ وہ گروہ ہے کہ روشِ ملامت اختیار کر لی ہے۔ اور اس زمانہ میں قلندر اس کو کہتے ہیں کہ مختراً و مہملات فرضی کا جواب ان کو دے سکے البتہ ان میں بھی بعض کامل و نیک ہوتے ہیں۔

● فرمایا صورت نیکوں کی اختیار کرنا چاہیے سیرت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا کیونکہ وہ واہب و فیاض ہے۔

مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و بحث	صفحہ	نمبر شمار
تقویۃ الایمانی کفریات سے	۳۰۴	۱۹۲	شان رسالت میں خلاصہ اعتقاد		۱۵۲
رشتے ناتے والے			مسئلہ امکان کذب	۲۸۵	۱۵۵
ناپاک قول کی ناپاک تاویل		۱۹۳	جھوٹ پر قدرت ماننا		۱۵۶
الدین النصیح کا مقتضی		۱۹۴	محال کو ممکن ٹھہرانا ہے۔		
انتباہ ضروری	۳۱۰	۱۹۵	وہابیہ کی بنائے فاسد		۱۵۷
گزارشیں واقعی	۳۱۳	۱۹۶	کذب الہی محال بالذات ہے		۱۵۸
معروض اول	۳۱۴	۱۹۷	ایک حجت ایقانی	۲۸۹	۱۵۹
محبت رسول شرط نجات ہے		=	وہابیہ کا جہل مرکب		۱۸۰
لئذ انصاف انصاف	۳۱۷	۱۹۸	مسئلہ تقدیر پر نفیس تقریر		۱۸۱
یاد رکھنا چاہیے کہ۔	۳۱۸	۱۹۹	انسان صاحب اختیار ہے		۱۸۲
معروض دوم	۳۱۹	"	نہ کہ خود مختار		
وہ شخص حکومت کا باغی ہے		۲۰۰	تدبیر، منافی تقدیر نہیں		۱۸۳
ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ۔	۳۲۲	۲۰۱	والقدر حیرہ و شترہ		۱۸۴
بیگانوں سے دوستی		۲۰۲	من الله تعالى		
منافقین کی حقیقت		۲۰۳	دربارہ خواب ایک ضابطہ کلیہ		۱۸۵
مرتدین، اسلام کے باغی و		۲۰۴	طلب جاہ و شہرت، تباہی کا		۱۸۶
منحرف ہیں۔			ذریعہ ہے۔		
معروض سوم	۳۲۷	۲۰۵	وہابیہ کا گروہ، نجد سے ابھرا		۱۸۷
اصول حفظان صحت			وہابیہ، خارجیوں کی یادگار ہیں		۱۸۸
چند آیات کریمہ	۳۳۰	۲۰۶	تقویۃ الایمان کی دُردمی دید لیری	۲۹۹	۱۸۹
بد مذہبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا		۲۰۷	صاحب تقویۃ الایمان کا اقرار کفر	۳۰۱	۱۹۰
حرام ہے۔			کچھ اور سرزہ سرائیاں	۳۰۲	۱۹۱

● دریافت کیا گیا کہ ساحر ابن موسیٰ علیہ السلام مشرف بہ ایمان ہوئے اور فرعونیان کافر رہے اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ساحر نے صورت موسوی اختیار کی تھی اس کے طفیل میں نیک ہوئے۔
● فرمایا کہ کوئی جگہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے۔۔۔ او
جب اولیاء اللہ باقی نہ رہیں گے قیامت واقع ہوگی۔ اولیاء اللہ
و عالم عالم کے ہیں یعنی ستون۔

● فرمایا کہ صوفیاء نے اذکار اس لیے مقرر کیے ہیں کہ انسان صفات بشریہ سے نکل کر مٹصف بصفات اللہ ہو جائے۔ پس
کوشش کرنی چاہیے۔

● فرمایا اذکار و اشغال کے لیے استعمال مغزیات و مرکبات ضرور رکھنا چاہیے۔۔۔۔۔ بدون مرکبات کے دماغ میں بیوست آ جاتی ہے اور دیوانگی و جنون عارض ہو جاتا ہے اور شیخ کو حکیم ہونا چاہیے تاکہ طالب کے علاج میں نشیب و فراز پر نظر رکھے۔ حرارت (نار) کہ لطیف ہے ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ کثیف میں نہ مل جائے جیسے چراغ کہ بدون تیل و فتیلہ روشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب و جسم کو کہ عناصر سے مرکب ہے قیاس کرنا چاہیے
● فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں، دریافت غیبات کا ان کو ہوتا ہے۔

● فرمایا کہ غیر مقلدین انکار تقلید کرتے ہیں۔ یومنون بالغیب میں (صاف اشارہ بلکہ تصریح) تقلید موجود ہے جنفی شافعی کو

مضمون و مبحث	صفحہ	نمبر شمار	مضمون و مبحث	صفحہ	نمبر شمار
حکم منسوخ کوئی دلیل و سند لزوم نہیں		۲۱۹	قانون شرعی سے انحراف		۲۰۸
احادیث سے غلط استدلال۔	۳۲۹	۲۲۰	جرم عظیم ہے۔		
ضروریات دین کا منکر،		۲۲۱	حق پر ایمان اور عدلے دین		۲۰۹
اصل دین کا منکر ہے۔			کی محبت		
ضروری اللحاظ عرض	۳۵۳	۲۲۲	صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ		۲۱۰
حسن خلق و مدارات			خدا و رسول کی عظمت ماننے پر		۲۱۱
اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں		۲۲۳	خدائی وعدے۔		
اہلسنت کا سفینہ سفینہ نجات ہے	۳۵۸	۲۲۴	معروض چہارم	۳۳۸	
خلاصۃ المرام	۳۵۹	۲۲۵	قرآن و حدیث کے محاور میں مسلمان		۲۱۲
بد مذہبوں پر دوطرفہ اسلامی فریضہ ہے		۲۲۶	علی مرتضیٰ کا مدعیان اسلام سے قتال		۲۱۳
انصاف لہ انصاف	۳۶۲	۲۲۷	صحابہ کرام اور مسلمانان اہلسنت	۳۴۰	۲۱۴
گمراہوں کے گمراہ طریقے	۳۶۲	۲۲۸	حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے		۲۱۵
مسلمان پر فرض ہے کہ		۲۲۹	شرع و عرف میں بغاوت کا اطلاق		۲۱۶
حاشا للہ	۳۶۶	۲۳۰	خلاصۃ کلام یہ ہے کہ۔	۳۴۳	۲۱۷
تَمَّتْ			ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ	۳۴۵	۲۱۸

تقلید سے منع کرتے ہیں اور اپنی تقلید کا حکم کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ تقلید کوئی چیز نہیں ہے ہم تقلید نہیں کرتے تم بھی نہ کرو، مستلزم اس کا ہے کہ ہمارے طریقہ پر چلو اور ہماری پیروی اختیار کرو پس اس میں بھی حکم تقلید کرتے ہیں۔

● جب ثنوی شریف ختم ہو گئی تو بعد ختم حکم شربت بنانے کا

دیا اور ارشاد ہوا کہ اسی پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی، گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا، آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دو معنی ہیں ایک عجز و بندگی اور وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز و شرک ہے اور دوسرے خدا کی نذر اور ثواب، خدا کے بندوں کو پہنچانا، یہ جائز ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے۔

اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے، ایسے امور سے انکار

کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے جیسا قیام مولد شریف، اگر بوجہ آئے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے، جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے

واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر سردار عالم و عالمیان (روحی فداہ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔

● فرمایا کہ حنبلی کے نزدیک جمعرات کے دن کتاب احیاء تیرگا ہوتی تھی، جب ختم ہوئی تیرگا دودھ لایا گیا اور بعد دعا کے کچھ حالات مصنف کے بیان کئے گئے، طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے

ہر دورانِ اسلام سے التماس



اللہ عزوجل ہمیں اور آپ سب کو ہر فتنہ و فتنہ پرداز کے کید و مکر اور فتنہ و فساد سے اب اور ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ اپنے ناموس اپنی عزت اپنے جسم اپنی جان اور اپنے مال و دولت کی حفاظت میں ہر کافر، ہر مسلمان ہمیشہ ساعی و سرگرداں اور سرگرم عمل رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کو یاد کر کے، اپنے عزیز وقت کا ایک حصہ اپنے دین اپنے ایمان اور اپنے عقیدہ و عملِ صحیح کی حفاظت میں بھی صرف کیجئے کہ یہ سب سے اہم و اقدم ہے۔ یعنی بگوش ہوش یہ چند فیصلے سن لیجئے۔ اور انہیں میزانِ عقل و انصاف میں تول کر حق و ناحق کی تمیز کیجئے۔ فضل الہی عزوجل سے امید و اتق ہے کہ دم کے دم میں صبح حق تجلی فرمائے گی اور شبِ ضلالت کی ظلمت دھواں ہو کر اڑ جائے گی۔ مخالفین اگر برسر انصاف آئے فھو المراد۔ ورنہ آپ تو بعنایت الہی راہ حق پر ثابت قدم ہو جائیں گے۔ وباللہ التوفیق۔

میرے عزیز سستی مسلمان بھائیو!

اوروں سے نہیں، تم سے خطاب ہے۔ تم گھنٹوں اپنے قیمتی اوقات کے بخش بہا لمحات ماناؤ لوں، ڈائجسٹوں، اخباروں، افسانوں کے مطالعہ میں گزار دیتے ہو۔ ان اوقات کو وجہ سکونِ قلب، شمار کر لیتے ہو۔ بیشک تم صاحب اختیار ہو۔ اپنے فعل کے مختار ہو۔ مگر اک ذرا، خدا کو مان کر، قیامت کو حق مان کر، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے ایتقان کی خاطر، ان کی حفاظت ان کے تحفظ کی خاطر، اک نظر ادھر بھی مگر اس کے ساتھ کسی کی شہرت، کسی کی شخصیت سے قطع نظر بھی، یہ کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے بہت کام آئے گی۔ دین و ایمان کی بربادی سے بچائے گی۔ صراطِ مستقیم کہ

جاری ہے اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔

● فرمایا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصل بحق ہیں، عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں۔

● فرمایا کہ اوتا و جمع و تدکی ہے۔ بمعنی امیخ چونکہ ان کی بدولت آفات و زلزلات سے حفاظت رہتی ہے لہذا اوتا دیکھتے ہیں اور ابدال کہ سات ہیں اور ہر اقلیم میں مقرر ہیں۔ جب ایک ان میں فوت ہوتا ہے دوسرا قائم کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں میں نے وہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا۔ ایک آن و احسن مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا۔

● فرمایا کہ میرے حضرت یعنی میا جو صاحب باوجود اخفائے احوال کے ایسا تصرف قومی رکھتے تھے کہ جس سے عقل حیران ہو جاتی تھی۔ حافظ محمود صاحب و اما د مولانا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبہ حضرت پیر و مرشد کی خدمت میں بعد بیعت کے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھے تصویرِ شیخ کی اجازت دیجئے تاکہ تصویرِ شیخ کیا کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب محبت و عقیدت غلبہ کرتی ہے تب تصویرِ شیخ کون کرتا ہے۔ غلبہ محبت سے تصویرِ شیخ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ حضرت کے فرمانے سے ایسا تصویرِ شیخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگہ صورتِ شیخ کی نظر آتی تھی۔ چلتے چلتے حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ صورتِ شیخ کی سامنے کھڑی ہے۔ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں بھی صورتِ شیخ موجود ہے۔ نماز میں سجدہ کی جگہ صورتِ شیخ دیکھ کر نماز کی نیت توڑ دیتے تھے۔ حضرت سے عرض

مذہب اہلسنت وجماعت سے عبارت ہے، تمہیں دکھائے گی۔ خدا و رسول جل و
علا اور محبوبانِ بارگاہِ عزت، معظمانِ مذہب و ملت کی پسندیدہ راہ پر چلائے گی۔
اور اس کے مطالعہ سے لازوال دولت ہاتھ آئے گی۔

ومن اللہ الهدایۃ ویر الاعتصام۔

(ناچیز مولف)

۲ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ شنبہ
مطابق ۱۶ اپریل ۲۰۲۲ء آغاز



کیا کہ اب تو نماز پر طہنی مشکل ہو گئی ہے کس کی نماز پر طہنی حضرت
کی ادنیٰ توجہ سے جیسے یہ حالت پیدا ہوئی تھی، جاتی رہی اور دوسری
حالت ہو گئی۔

● فرمایا، حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے ایک گنا سامنے سے
گذرا، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ
شہر کے گتے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سب
کتوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا۔

● اپنے شیخ کے حق میں ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اس
سے بہتر میری کوشش سے ہاتھ نہ آوے گا۔

● فرمایا کہ ایک دفعہ میرے حضرت (پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب)
بعد نماز جمعہ وصیئت کرنے لگے۔۔۔ (فرمایا) میرا ارادہ تھا کہ تم سے
مجاہدہ و ریاضت لوں گا۔ مشیت باری سے چارہ نہیں ہے۔ عمر
نے وفانہ کی۔ جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا۔ میں پٹی (میانہ کی) پکڑ
کر رونے لگا۔ حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مریتا نہیں ہے
صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر
کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہو گا جو زندگی ظاہری میں میری ذات
سے ہوتا تھا فرمایا حضرت حاجی صاحب نے، کہ میں نے حضرت
رپیر و مرشد کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات
میں اٹھایا تھا۔

مرتب
فاروق مصطفوی



اِفْتَاتُ حَيِّهِ

چند گزارشات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدٍ الْسُّطْفٰی وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ ذَوِي الْمَجْدِ وَالْهُدٰی
 وَعَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی - رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اٰذْهَدَيْتَنَا
 وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ بِرَحْمَتِكَ
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَيَا خَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ -

اگر سینم کہ نابینا و چاہ است
 اگر خاموش بنشینم گناہ است

ہر ذمی عقل، صاحب ہوش، صاحب الرائے پر یہ بات ہویدا ہے کہ کسی کو
 کنوئیں میں گرتا، پانی میں ڈوبتا دیکھ کر، بچاؤ کی قدرت، بازوؤں میں قوت رکھتے
 ہوئے، پیچھے کا جسمہ بن جانا، چپکا بیٹھا رہنا، ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یا دوسروں کو اس کی
 مدد پر نہ آکسانا، اگر بے غیرتی، بے حیثی اور جنون و عقل باختگی نہیں تو اور کیا ہے۔ مجاہد
 تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں اور نہ پہنچائیں، غیروں کے کام
 آسکیں اور نہ آئیں تو یہ فعل انسانیت کے منافی، آدمیت کے خلاف اور سراسر خلاف
 تو ہے ہی، شرعاً بھی ایک جرم ہے اور قابل مواخذہ جرم۔

پھر چاہے ہمارے بچاتے بچاتے، اُسے ساحل نجات تک لاتے لاتے وہ ڈوب
 کیوں نہ جائے، ہماری مدد پہنچنے سے پیشتر اس کا کام کیوں نہ تمام ہو چکے، مگر ہم اپنے

حضرت حاجی صاحب کھی اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایک مختصر

تم ہوائے نورِ محمد، خاص سے محبوبِ خدا
ہند میں سے ہونا ہے حضرت محمد مصطفیٰ
تم مددگارِ مددِ امداد کو پھر خوف کیا
عشق کے سین کے باتیں کانتے ہیں دستِ پیا
اے شہ نورِ محمد وقت ہے امداد کا

جامِ الفت سے ترے میں ہی نہیں اک جزوِ نوش
سینکڑوں درپر ترے مدہوش ہیں اے مے فروش
دل میں ہے انکے بھرا اک بادۂ وحدت کا نوش
پر یہی کہہ کر ٹھہریں جب ہے آیا الخ کو نوش
اے شہ نورِ محمد وقت ہے امداد کا

آسمانِ دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا
تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا
بلکہ دنِ محشر کے بھی جو وقتِ قاصی سے ہو خدا
آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا
اے شہ نورِ محمد وقت ہے امداد کا

نوٹ: اس کتاب کے تمام حوالہ جات امداد المشتاق (مصنفہ اشرف علی تھانوی) سے
لیے گئے ہیں جو ۱۹۲۹ء میں تھانہ بھون (انڈیا) سے شائع ہوئی۔

فائدہ رسالہ عزم، اپنی نیک طبیعتی پر عند اللہ ماجور اور عند الناس نیک نامی کے مستحق ہو گئے۔ کم از کم کوئی طعنہ بے جمہیتی تو نہ دے گا ہدف ملامت تو بنائے گا بشرط غیرت تو نہ دلائے گا۔ انسانی قوت میں یہ زبردست تاثیر تو پائی نہیں جاتی کہ جس کام کا وہ قصد کرے، وہ لامحالہ ہر وقت میں پورا ہو کر رہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کامیابی سے ہم کنار کرنا، اور ہماری تگ و دو کو ہماری خواہش کے مطابق ظہور میں لانا، اس قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے جس کی شان رفیع ماشاءکان و مالہمیشالہدین سے آشکارا ہے۔ جی بھی تو نورانی دماغ اور روشن طبیعت حضرت ہمیشہ سے ہر کام کے شروع پر ہی کہتے چلے آئے کہ

السَّعْيُ مُمْتَنٌّ وَلَا تَمَامٌ مِنَ اللَّهِ

غالباً اسی خیال کے پیش نظر، الحاج امداد اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی ۱۳۱۶ھ) نے مختصر رسالہ "فیصلہ ہفت مسئلہ" لکھا۔ اور متنازع فیہا مسائل میں جو حق و صواب جانا، صاف لکھ دیا۔ اور واضح و روشن الفاظ میں اپنا مشرب و معمول بھی بیان کر دیا۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ بادۂ نجدیت کے ہوش رُبانے نے، جمہور اہل اسلام کے مخالفین کے دماغ ایسے معطل نہ کیے تھے کہ ضروریات دین یا ضروریات مذہب اہلسنت سے کسی ضروری کا انکار کر بیٹھیں۔ یا پھر وہ عالم آشکار نہ ہوئے کہ شاہ صاحب ادھر توجہ فرماتے۔ اس لیے آپ نے ان مسائل پر جو لکھا وہ مختصراً لکھا۔ اور اپنی سی ہی کوشش فرمائی کہ بحر ضلالت میں کو دپڑنے والوں کو، اس بلاخیز تلام سے بچا کر ساحل مراد پر زندہ اور صحیح سالم لے آئیں۔ آگے خدا کی مرضی۔

لیکن مشیت ایزدی پر کون سبقت لے جاسکے جس کی موت آگئی ہو اسے کون بچا سکے۔ جس کے نصیب میں اندھیری راتوں کی اندھے غاروں میں موت لکھی ہو اسے کون روشنی کھا سکے جنہیں ڈوبنا تھا وہ ڈوب کر رہے۔ جنہیں بھٹکنا تھا وہ بھٹک کر رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے جیب بڑے دن آتے ہیں تو اسے الٹی ہی سوجھتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الحمد لله العلی المنعم والصلوة
 والسلام علی سید الانبیاء الکرار
 وعلی اله وصحبه کبروۃ الفخار

ابتدائیہ

کتاب "فیصلہ ہفت مسئلہ" کیوں لکھی گئی

وقت کا اہم تر تقاضا اور زمانہ کا بہترین مُقتضیٰ یہی تھا کہ اُمتِ سرکار ابد
 قرار صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآنِ عزیز کے الفاظ میں خیر اُمت اور امرین
 بالمعروف ناہین المنکر کے اوصاف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درحقیقت طول و
 عرض دیارِ اسلام میں اپنے اس ارتقائی منصب پر قائم رہی اَنْتُمْ اَلْاَعْلَوْنَ
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ کا نغمہ پروردگار نے دلوں کو مسرور اور آنکھوں کو منور و مجلی
 کرتا رہتا مگر اس جنتِ ارضی کو حجیم بنانے کی منصوبہ بندی ہونے لگی اور
 شیطانی سیاست ربانی مسلک سے برسرِ پیکار ہو گئی اور زمین ہند میں مسلم
 بحیثیت مسلم غیروں کے لئے ایک رستا ہوا ناسور بن گیا۔ مولیٰ تعالیٰ نے
 مسلمانوں کی اس ذلت و رسوائی اور پیارے رسول علیہ السلام کو ماننے والی
 اس خیر اُمت پر رحم فرمایا اور کفار و مشرکین کے پتھم حملوں سے محفوظ رکھنے
 کا ارادہ فرمایا اور خاص اتحاد بن المسلمین کے لئے ملت کا ایک الوکھا فرد
 سیاسیات میں قائد اعظم بنا کر مسلمانوں کو عظیم تباہی سے بچایا۔ ضرورت ہے
 کہ جس طرح بانی پاکستان نے ایمان، اتحاد، تنظیم کی دعوت دے کر باہم
 رواداری و اتحاد کا ایک خاص سبب مہیا فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان

اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقل پہلے لے لیتا ہے۔ اب یہیں دیکھ لیجئے کہ بادہ نجدیت کے ان سرشاروں کو لاکھ بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو بزرگوں کا نام مت اچھا لو، بدنام ہو جاؤ گے معظمان دین کی پاک جنابوں میں گستاخانہ زبان مت کھولو، ورنہ وادی ضلالت میں کھو جاؤ گے۔ اپنی بد اطواری، بد کرداری یعنی تخریب مذہب اہلسنت و جماعت تائید بدعت و ضلالت سے ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ دنیا کی ہوس میں دین چھوڑ بیٹھو گے۔ تقویت الایمانی کفریات پر لعنت بھیجو اور محبوبانِ خدا کی عزت ووجاہت اور رفعت منزلت پر ایمان لاؤ، ان کے پاک و امنوں سے وابستہ ہو جاؤ، مقامِ محبوبیت پالو گے لیکن بادہ نجدیت نے ان مجنوط الحواس، سر پھروں کو اس ہوش ربانہ نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ خیر و شر میں تمیز اور ہدایت و ضلالت میں امتیاز کر سکیں۔ بلکہ قدم فسق بیشتر بہتر کے ماتحت، ہر ایک نے دوسرے سے پڑھ کر مٹ دھری، کچ فہمی، کہہ مکر فی ہتی پوٹی ناحق کوشی اور دیانت کشی کو اپنا مستند بنا کر، لیلائے نجد کی طرف قدم بڑھایا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ ضروریاتِ مذہب اہلسنت بلکہ ضروریاتِ دین کے انکار تک نوبت پہنچی اور دین و ایمان سے رابطہ و علاقہ صرف برائے نام باقی رہا۔

ایک حقیقت ثابتہ

اہل اسلام بخوبی جانتے ہیں کہ حضور پر نور سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصالِ اقدس کے بعد، حسب معجزہ غیب کوئی، بہ قدر مشیت و حکمت الہی، اگرچہ اسلام میں تفریق و اختلاف واقع ہوا اور یہ امت بہتر فرقوں میں منقسم ہو گئی لیکن مذہبِ حق و محقق اہلسنت و جماعت کو (سوادِ اعظم اسلام سے وہی مراد ہے) تمام بلادِ عرب و دیارِ عجم میں جو مقبولیت عامہ اور شہرتِ تامہ کا شرف حاصل ہوا، وہ شہرت و وسعت کسی اور فرقہ کو نصیب نہ ہوئی۔ اور جمہور اہل علم و فقہ و سوادِ اعظم کے نزدیک یہ فرقہ ناجیہ چار مذہب میں مجتمع قرار پایا۔ حنفی مالکی شافعی حنبلی اب جو ان سے جدا، وہ ان بہتر فرقوں میں داخل و شامل جن کے لیے عذابِ جہنم واجب پھر ہدایاتِ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق، ان گراہ فرقوں میں بعض وہ

یا ہم بحیثیت عقائد بھی متحد و متفق ہو جائیں۔

ہم آج آپ کے سامنے وجوہ اختلاف کے ساتھ ساتھ تمام اکابر و غیر ہم (جو کسی بھی حیثیت سے اپنے کو حنفی کہتے ہیں) کو دعوت عامہ درخدا و رسول پھر پاکستان کے لئے بفرمان تعالیٰ الی کلمۃ تسوایٰ کی بلاتے ہیں۔ احناف میں اختلاف کا دروازہ کب اور کس طرح کھلا اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اکابر علماء دیوبند، سہارنپور، بریلی، لکھنؤ و بدایوں وغیر ہم کے درمیان تاریخ شاہد ہے کہ تیرھویں صدی کے آخر تک کوئی اختلاف نہ تھا اور ان دنوں مقتدا اے عصر حضرت شاہ امداد اللہ صاحب محدث تھانوی مرجع خلاق تھے کہ نجد سے محمد ابن عبدالوہاب کی کتاب التوحید ہندوستان پہنچی اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اس خاص مشن پر تقویۃ الایمان لکھ کر چھاپی۔

مولانا حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر مکی کے اجلہ خلفا مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، مولانا احمد حسین صاحب کانپوری، مولوی لطف اللہ صاحب علیگر ٹھہی، مولوی عبدالسمیع صاحب رامپوری، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، مولوی خلیل احمد صاحب انبیٹھوی سب ہی مندرجہ مسائل فاتحہ و میلاد میں نہ صرف متحد و متفق تھے بلکہ فاضل تھانوی اپنے قیام جامع العلوم کانپور میں خود قیام و میلاد کرتے اور منکر کے خلاف شرعی فتاویٰ شائع فرماتے۔ کتاب تحقیق الحق ص ۲۶ میں میلاد رسول کو حتم کنہیا کہنے والے کے پیچھے نماز نادرست لکھی ہے اور دیگر تصانیف قدیم و جدید میں علماء دیوبند نے جائز لکھا ہے التصدیقاً وغیر ہم صراط مستقیم میں خود مولوی محمد اسماعیل دہلوی نے پہلے عرس فاتحہ، گیارہویں وغیر ہم جائز لکھا ہے ص ۶۳ سے ص ۱۲۲ تک، دیکھیے مطبع ضیائی

ہیں جو منکر ضروریات دین ہیں۔ یہ لوگ باوجود کلمہ گوئی و قبلہ روئی مرتد و کافر اور بالاجماع اسلامی برادری سے خارج ہیں۔ اور جو فرقے دیگر عقائد و مسائل قطعیہ یعنی ضروریات مذہب اہلسنت و جماعت کے منکر ہیں وہ اگرچہ بالاجماع کافر و مرتد نہ سہی، گمراہ و مبتدع تو ضرور ہیں۔

تو ضروریات دین میں سے کسی ضروری دینی کارکنار کرنے والے، یا ضروریات مذہب اہلسنت کے منکر، اگرچہ کلمہ پڑھیں، مسلمان نہیں، ان کا اختلاف جمہور مسلمین سے فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے۔ اور ہرگز کسی طور پر اس اختلاف بلکہ خلافت کو، کہ محض اتباع ہوائے نفس پر مبنی ہے، فروعی اور مسلمانوں کا باہمی اختلاف نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یہ اختلاف ویسا ہی اختلاف ہے جیسا کفر و اسلام میں، وینداری و بے دینی میں، اہل مذاہب اور بد مذہبوں میں۔ راست رووں اور گجروں میں۔

”تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ“

مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں :-

ایک ضروریات دین۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر، یا اجماع قطعی جیسے دلائل سے ہوتا ہے۔ جن کی دلالت اپنی مراد پر ایسی قطعی ہوتی ہے کہ نہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ تاویل کو راہ۔ ضروریات دین اسلام کے، عام و خاص پر روشنی واضح وہ مسائل ہیں جن میں کسی دینی ضروری کارکنار بالاجماع مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے۔ بلکہ ایسا کہ جو جان بوجھ کر، اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اگرچہ وہ منکر، کر و زبار کلمہ پڑھے، پیشانی اس کی، سجدے میں ایک وبق ہو جائے۔ بلکہ اس کارروزیوں میں ایک خاکہ رہ جائے۔ عمر میں ہزار حج کرے۔ لاکھ ہاڑ سونے کے راہ خدا پر دے۔ لاواللہ ہرگز ہرگز کچھ قبول نہیں۔ جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ضروری باتوں میں جو وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تصدیق نہ کرے۔ ضروریات اسلام اگر مثلاً ہزار ہیں، تو ان میں سے ایک کا بھی انکار ایسا ہی ہے

کی چھپی ہوئی وقتِ ضرورت پیش کی جاسکتی ہے۔ لیکن برطانوی سیاست اور شیطانی مکائد اور بیشتر مولوی اسماعیل مذکور کی کتاب تقویۃ الایمان با^{عش} نفاق و شقاق ہوئی اور شاہ صاحب کے مریدوں کے دو گروہ ہو گئے۔ مولوی قاسم صاحب ناتوتوی، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی وغیرہ منکرِ میلاد و فاتحہ اور مولوی لطف اللہ صاحب، مولوی احمد حسین، مولوی محمد حسین صاحب، مولوی عبد السمیع صاحب قائل میلاد و فاتحہ۔

شاہ صاحب نے اپنے مریدوں سے یہ اختلاف دُور کرنے کے لئے فیصلہ ہفت مسئلہ تحریر فرمایا جسے اہل حق نے بکمال محبت قبول کیا اور بعض نے باوجودیکہ بحیثیت حکمِ ارشادِ مرشد اختلاف کو قائم رکھا اور کہہ دیا کہ ہم ان سے شریعت میں بیعت نہیں طریقت میں ہیں حالانکہ یہ دونوں علیحدہ نہیں۔ ایک ہی ہیں۔ شریعت قال رسول، طریقت افعال رسول حقیقت حال رسول، معرفت اسرار رسول علیہ السلام ہے۔ اگر علیحدہ ہوں تو گمراہی ہے۔ اس پر مولوی عبد السمیع صاحب نے کتاب لکھی انوارِ ساطعہ درجواز مولود و فاتحہ۔ مولوی خلیل احمد نے لکھی براہین قاطعہ در رد مولود و فاتحہ اور آپس میں اختلاف ترمی پذیر ہوا۔ اور سرکارِ ابد قرار کی شان میں جملے اہانت آمیز نکالے گئے جس پر دُنیا بھر کے علما بگڑ گئے اور عرب و عجم سے کفر کے فتوے صادر ہو گئے۔ اب ناظرین کے سامنے ہم فیصلہ ہفت مسئلہ کی نقل مطابق اصل پیش کر کے فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔

کہ مذہبی اور سیاسی تفریق کہاں سے پیدا ہوئی؟

اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟

اور اپیل کرتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، تاہم کہ ارشادِ مرشد کو جان کر سلف کے خلف کہلا کر کامیاب ہوں

جیسا نوسونٹا نوے کا۔^{۹۹۹}

آجکل جس طرح بعض بد دینوں نے یہ روش نکالی ہے کہ بات بات پر کفر و شرک کا اطلاق کرتے اور مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہوئے مطلق نہیں ڈرتے، حالانکہ حضور اصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ و الثناء ارشاد فرماتے ہیں فقد باءنا بے احدھا ران دونوں میں سے ایک پر وہ کفر ضرور پلٹے گا تو یہیں بعض مدامنوں صلح کلیوں پر یہ بلا ٹوٹی ہے کہ ایک دشمن خدا سے صریح کلمات توہین آقائے عالمین حضور پر نور سید المرسلین اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یا اور ضروریات دین کا انکار سنتے جائیں اور اسے سچا پکا مسلمان، بلکہ ان میں سے کسی کو افضل العلماء کسی کو امام الاولیاء مانتے جائیں۔ یہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اور نہیں مانتے کہ اگر انکار ضروریات دین بھی کفر نہیں، تو عزیز و اہم پرستی میں کیا نہ گھل گیا ہے۔ وہ بھی آخر اسی لیے کفر ٹھہری کہ اول ضروریات دین یعنی توحید الہی جل و علا کے خلاف ہے۔

ناقابل مقبول تاویلیں

کہتے ہیں وہ کلمہ گو ہے۔ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے۔ ایسے ایسے مجاہدے کرتا ہے۔ ہم کیونکر اسے کافر کہیں؟ ان لوگوں کے سامنے، اگر کوئی کلمہ پڑھے، افعال اسلام ادا کرے۔ یا اپنی ہمہ دو خدا مانے، شاید حیب بھی کافر نہ کہیں گے۔ مگر اس قدر نہیں جانتے کہ اعمال تو تابع ایمان ہیں۔ پہلے ایمان تو ثابت کر لو، تو اعمال سے احتجاج کرو۔ ابلیس کے برابر تو یہ مجاہدے کا ہے کوہوئے۔ پھر اس کے کیا کام آئے جو ان کے کام آئیں گے۔ آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کی کثرت اعمال اس درجہ بیان فرمائی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابل، حقیر و ناچیز جانو گے۔ پھر ان کے دین کا بیان فرمایا کہ "دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔"

اس کے خلاف عمل کر کے ناخلف نہ ہوں اور ذلت اور رسوائی سے بچیں۔ کچھ اشعار مولانا امداد اللہ صاحب اور بالغین کے پیش کرتے ہیں کہ پہلے دیکھئے کہ ان کے کیسے اچھے خیال تھے۔

اب ناظرین اپنے قلب سے فتویٰ لیں کہ مخالفین کے مسئلہ پر و مرشد جن کو انہوں نے شریعت و طریقت کا پیشوا لکھا۔ علاوہ اس کے مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، مولانا شاہ رفیع الدین جیسے محدثین بھی میلاد و فاتحہ کے قائل تھے جن کو انہوں نے بھی اپنا امام مانا ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے یا ان سے قابلیت میں کم تھے۔ خدا تعالیٰ ہمیں کورانہ تقلید سے بچائے اور صراطِ مستقیم پر چلائے۔ آمین!

ضروری گزارش

زیر نظر رسالہ ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ کی اشاعت میں اُس نسخہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ امیر مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور پاکستان کی زیر سرپرستی ایک طویل عرصہ ہوا، حزب الاحناف کی طرف سے مطبوعہ پنجاب پریس لاہور شائع ہوا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسَيْنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ
نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ
اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔

اَمَّا بَعْدُ! فقیر امداد اللہ المحضی اچھٹی، عموماً سب مسلمانوں کی خدمت
میں، خصوصاً جو اس فقیر سے ربط و تعلق (اور سلسلہ بعیت) رکھتے ہیں، عرضِ رُسا
ہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ باہمی اتفاق، باعثِ برکات دنیوی و دینی
اور نا اتفاقی موجبِ مُضرتِ دنیوی و دینی ہے اور آج کل بعض مسائلِ فرعیہ
میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شر و دقتیں پیدا
ہو رہی ہیں اور خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو رہا ہے حالانکہ اکثر
اُمور میں محض نزاعِ لفظی ہے اور مقصود متحد چونکہ مسلمانوں کی عموماً اور اپنے
تعلق والوں کی خصوصاً یہ حالت دیکھ کر نہایت صدمہ ہوتا ہے اس لئے
فقیر کے دل میں یہ آیا کہ مسائلِ مذکورہ کے متعلق مختصراً مضمون قلمبند کر کے
شائع کر دیا جائے۔ اُمید قوی ہے کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جاوے ہر چند
کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں مگر فقیر نے
اُن ہی مسائل کو لیا جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تھے دو وجہ سے۔
اول تو کثرتِ اختلافات اس درجہ پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ
مشکل ہے۔

دوسرے ہر شخص سے اُمید قبول نہیں۔

۱۔ الفاظ کے استعمال کا جملگرا

رہی کلمہ گوئی یا قبلہ روئی، تو مجر و زبان سے کہنا، ایمان کے لیے کافی نہیں۔ منافقین
 تو خوب زور شور سے کلمہ اسلام پڑھتے، حالانکہ ان کے لیے فی الدارک الاسبغیل من النار
 (جہنم سے سب سے نیچے کے طبقہ) کا فرمان ہے۔ والعیاذ باللہ۔ مہلا غور تو فرمائیں کہ جو
 قادیانی یا مرزائی یا بابی و بہائی، ختم نبوت کا صریح انکار کریں، نئے نئے نبی تراشیں، اور
 میلہ کذاب کی مانند، ان مدعیان نبوتِ جدیدہ پر ایمان لائیں۔ کیا ان کے اعمال کو ڈھال
 بنا کر، انہیں مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ یوہیں جو رافضی اس قرآن مجید کو جو بفضلہ تعالیٰ
 ہمارے ہاتھوں میں موجود، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، عیاذ باللہ، بیاض عثمانی
 بتلئے، یا اس کے ایک حرف، یا ایک نقطہ کی نسبت، صحابہ یا اہلسنت، یا کسی شخص کے
 گھٹانے بڑھانے کا دعویٰ کرے، یا احتمالاً کہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، اس کے دعویٰ اسلام
 کو تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

مسلمانو! اصل مدارِ ایمان، ضروریاتِ دین ہیں۔ اور ضروریات اپنے ذاتی روشن
 بدیہی ثبوت کے سبب، مطلقاً ہر ثبوت سے غنی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض
 ان پر کوئی نصِ قطعی اصلانہ ہو جب بھی ان کا وہی حکم رہے گا کہ منکر یقیناً کافر۔ مثلاً
 عالم کے مجموع اجزاء (اپنے تمام اجزاء کے ساتھ) حادث ہونے کی تصریح کسی نصِ قطعی میں نہ
 ملے گی۔ غایت یہ کہ آسمان و زمین کا حدوث، ارشاد ہوا ہے۔ مگر باجماع مسلمان کسی غیر خدا کو
 قدیم ماننے والا قطعاً کافر ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ جمیع ماسوی اللہ کا حدوث، کہ ذاتِ صفا
 الہی کے سوا، سب چیزیں حادث و نوپید ہیں، پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، یہ ضروریاتِ
 دین سے ہے کہ اُسے کسی ثبوتِ خاص کی حاجت نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ضروریاتِ دین
 کا انکار، اگرچہ کسی تاویل کے پردہ میں ہو، آدمی کو اسلامی برادری سے خارج کر دیتا ہے۔
 ضروریاتِ دین کے مقابل، نہ جمل و ناپاک ایسی تاویلیں، قابلِ اعتبار و سموع اور نہ ایسی نازیبا
 تاویلات سے منکر کافر و ارتداد اصلاً مدفوع کہ ہٹایا اٹھایا جاسکے۔

ان کی حالت وہی ہے جیسے نیچر لوں نے آسمان کو بلندی، جبرئیل اور فرشتوں کو نیکی
 کی قوت، ابلیس اور شیطانوں کو قوتِ بدی بتا دیا۔ اور حشر و نشر و جنت و دوزخ کو ان کے

اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاً معدودہ دوسرے اُمید قبول غالب۔ پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیل و قال ہے ساتھ ہیں۔ پانچ عملیہ، دو علمیہ۔ ترتیب بیان میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے زیادہ گفتگو ہے اُن کو مقدم رکھا جس میں اُس سے کم ہے اس کے بعد علیٰ ہذا القیاس اور اپنا مشرب اور ایسے مسائل میں جو عملدرآمد مناسب ہے نیز لکھ دیا۔

حق تعالیٰ سے اُمید ہے کہ یہ تحریر باعثِ رفعِ فسادِ باہمی ہو جائے۔ اور حضرات بھی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعا سے یاد فرمائیں اور کوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصود میرا مناظرہ کرنا نہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

پہلا مسئلہ: مولود شریف

اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفسِ ذکرِ ولادتِ شریفِ حضرت فخرِ آدم، سرورِ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم موجبِ خیرات و برکاتِ دنیوی و آخروی ہے۔ صرف کلام بعض تعینات و تخصیصات و تقیدات میں ہے۔ جن میں بڑا امر قیام ہے، بعض علما ان امور کو منع کرتے ہیں لقولہ علیہ السلام کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور اکثر علما اجازت دیتے ہیں علی اطلاقِ دلائلِ فضیلتہ الذکر۔

۱۔ میلاد شریف۔ ۲۔ فاتحہ مروجہ۔ ۳۔ عرس و سماع۔ ۴۔ ندائے غیر اللہ اور۔ ۵۔ جماعتِ ثانیہ۔ ۶۔

امکانِ نظیر و امکانِ کذب۔ ۷۔ کوئی خاص وقت یا تاریخ مقرر کرنا، ۸۔ کسی کام کے لئے مخصوص طریقہ ایجاد

کرنا۔ ۹۔ کسی کام کے لئے مختلف قسم کی پابندیاں لگانا۔

اُن معنی سے ہٹا کر، جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، محض روحانی اجتماع یا روحانی خوشی و الم ٹھہرا لیا، یا ثواب کے معنی، اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی، اپنے بُرے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا بنا لیا۔ قادیانی مرتد نے خاتم النبیین کو افضل المرسلین سے بدل دیا۔ اسی تاویل میں سن لی جائیں تو اسلام و ایمان قطعاً درہم برہم ہو جائیں۔ بت پرست لا الہ الا اللہ کی تاویل کر لیں گے کہ یہ افضل و اعلیٰ میں حصر ہے۔ یعنی خدا کے برابر۔ دوسرا خدا نہیں۔ وہ سب خداؤں سے بڑھ کر خدا ہے نہ یہ کہ دوسرا خدا ہی نہیں۔ جیسے لافتی الاعلیٰ لا سیف الا ذوالفقار۔ وغیرہ محاورات عرب سے روشن ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے۔ کہ مدعیان اسلام کے مکر سے نجات و شفا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ (افادارضا) یا کوئی نیچری، نئی روشنی کا مدعی، معجزات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انکار کرے۔ یا نیل کے شق ہونے کو جوار مچھاٹا بتائے، عصا کے اڑدہا بن کر حرکت کرنے کو سیلاب وغیرہ کا شعبہ ٹھہرائے۔ یا مسلمانوں کی جنت کو معاذ اللہ، رنڈیوں کا چکلا کہے۔ یا نار جہنم کو، الم نسانی سے تاویل کرے۔ یا وجود ملکہ کا منکر ہو۔ یا کہے شیطان کو ٹی چیز نہیں، فقط قوت بدی کا نام ہے۔ وغیرہ خرافات بچے۔ کیا اس کی کلمہ گوئی اُسے کفر سے بچا سکے گی۔ اور کیا اس کے اس خلاف کو، مسلمانوں کے باہمی اختلاف، فروعی نزاع سے تعبیر کرنا، صحیح و درست ہوگا۔ لاواللہ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کا خسران و وبال، خسر الدنیا والآخرۃ کی ایک مثال ہے۔ ان کے خائب و خاسر ہونے کے لیے کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے احوال، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کی وضع، ان کی طرح، ان کی ولی کیفیت پر شاہد عدل۔ تو ان کے دعویٰ اسلام کا کیا لحاظ، اور ان کی قبلہ روئی کی کیا رعایت۔ اور کلمہ گوئی کا کیا پاس۔

دوم ضروریات عقائد اہلسنت۔ ثبوت ان کا بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ مگر جواز خلاف تاویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی کے منکر کو کافر، خارج از اسلام نہیں کہا جاتا۔ البتہ گمراہ بد مذہب بد دین قرار پاتا ہے۔ اور بد مذہبوں، بے دینوں کا اختلاف اگرچہ انہیں حکم کفر سے بچا لے لیکن ان کے ساتھ اختلاف کو بھی مسلمانوں کا باہمی اختلاف نہیں

میلاد میں قیام کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں

اور اگر ان امور کو ضروری بمعنی واجب شرعی نہیں سمجھتا بلکہ ضروری بمعنی مؤثوث علیہ بعض البرکات جانتا ہے جیسے بعض اعمال میں ہتخصیص ہوا کرتی ہے کہ ان کی رعایت نہ کرنے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں اگر بیٹھ کر پڑھیں وہ اثر خاص نہ ہو گا۔ اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دلیل اس توقف کی موجودان اعمال کا تجربہ یا کشف والہام ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عمل مؤولہ کو بہیئت کذاتیہ موجب بعض برکات یا آثار کا اپنے تجربہ سے یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے اور اس معنی کے قیام کو ضروری سمجھے کہ یہ اثر خاص بدوں قیام نہ ہوگا اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں اور اعتقاد ایک امر باطن ہے اس کا حال بدوں دریافت کئے ہوئے یقیناً معلوم نہیں ہو سکتا محض قرائن تجربی سے کسی پر بدگمانی کرنی اچھی نہیں مثلاً بعض لوگ تارکین قیام پر ملامت کرتے ہیں تو ہر چند کہ یہ ملامت بیجا ہے کیونکہ قیام شرعاً واجب نہیں پھر ملامت کیوں بلکہ اس ملامت سے شبہ اصرار کا پیدا ہوتا ہے جس کی نسبت فقہانے فرمایا ہے کہ اصرار سے مستحب بھی معصیت ہو جاتا ہے مگر ہر ملامت سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ شخص معتقد و خوب قیام کا ہے درست نہیں کیونکہ ملامت کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں کبھی اعتقاد و خوب ہوتا ہے کبھی محض مخالفت رسم و عادات خواہ عادت دنیوی ہو یا دینی کسی سبب دینی پر ہو۔ کبھی وجہ ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل اس لائم کے زعم میں خواہ زعم صحیح ہو

لے موجودہ شکل کے ساتھ قیام کے بغیر صرف اندازے اور خود ساختہ قیاس سے۔ لہذا ملامت کرنے والا۔

کہا جاسکتا۔ اور جو ایسا کہے وہ نہ احکام شرع مطہر سے واقف ہے۔ نہ اسلام و مسلمین کا خیر خواہ۔ حکم ان کا وہ ہے جو شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں ارشاد فرمایا کہ مرد صحیح الایمان را باید کہ باید عتیاں انس نہ گیرد۔ وہم مجلس وہم کاسہ وہم نوالہ نہ شود۔ ہر کہ باید عتیاں دوستی پیدا کند، نور ایمان و علاوت از دے برگیزند۔ یعنی صحیح العقیدہ مسلمان کو چاہیے کہ ان کو پیدا گمراہ فرقوں سے انس و محبت اختیار نہ کرے۔ ان کا ہم نشین اور ہم پیالہ وہم نوالہ نہ ہو۔ اور یاد رکھے کہ جو مسلمان ان بد مذہبوں سے دوستی پیدا کرتا، اور ان سے بارانہ کاٹتا ہے، اُس سے ایمان کا نور اور چاشنی سلب کر لی جاتی ہے۔ سوم وہ مسائل کہ خود علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں۔ ان کا ثبوت دلائل ظنیہ سے ہوتا ہے۔ جس میں اختلاف و تاویل کی راہ تنگ نہیں ہوتی۔ اہل علم کسی ایک پہلو کو بعد تحقیق اختیار کر لیتے ہیں کہ دلیل سے انہیں وہی راجح نظر آتا ہے۔ اور ان کے متبعین ان کی تحقیق کو دوسروں کی تحقیقات پر ترجیح دیتے ہیں اور تقلیداً اسے اپنا طریق کار بنا لیتے ہیں لیکن باہیں ہمہ ان میں سے کسی طرف تکفیر و تضلیل تو درکنار تفسیق کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور نہ ایک جماعت، دوسری جماعت کو فاسق کہہ سکتی ہے۔ یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے اور اس اختلاف کو مسلمانوں کا باہمی اختلاف کہا جاسکتا ہے۔

ہم ایک ہی مسئلہ کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں جن میں تینوں قسم کے مسائل موجود ہیں

(۱) اللہ عزوجل ہی عالم بالذات ہے۔ بے اُس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بگراہیلے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے اپنے بعض غیب کا علم دیا۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے۔ ابلیس کا علم معاذ اللہ، علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔

(۴) جو علم اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے۔ جس میں اُس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا مانے قطعاً مشرک کافر ملعون بندہ ابلیس ہے۔

(۵) زید و عمرو، ہرنکے پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کر لیا جائے کما یظہر من التأمل فی قولہ علیہ السلام مَنْ أَحْدَثَ فِی أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ الْحَدِيثُ۔ پس ان تخصیصات کو، اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور ہیئت مُسَبَّب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں۔ مثلاً قیام کو لہذا تہا عبادت نہیں اعتقاد کرتا مگر تعظیم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اس کی یہ ہیئت معین کر لی اور مثلاً تعظیم ذکر کو بہ وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر کسی مصلحت سے خاص کر، ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیا اور مثلاً ذکر ولادت کو بہ وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر مصلحت بہت دوام یا اور کسی مصلحت سے ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی اور کلام تفصیل مصلح میں از بس طویل ہے۔ بہر حال میں جب مصلحت ہے۔ رسائل مولدیں بعض مصلح مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع نہ ہو تو مصلحت اندیشان پیشین کی اقتدا ہے اُس کے نزدیک یہ مصلحت کافی ہے ایسی حالت میں تخصیص مذموم نہیں۔ تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم مدارس و خانقاہات اسی قبیل سے ہیں اور اگر ان تخصیصات کو قربت مقصودہ جانتا ہے مثلاً نماز روزہ کے تو بیشک اُس وقت یہ امور بدعت ہیں مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے اگر تاریخ معین پر مولود نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا یا بخور و شربنی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا تو بیشک یہ اعتقاد مذموم ہے۔ کیونکہ حدود شرعیہ سے تجاوز ہے جیسے عمل مباح کو حرام اور ضلالت سمجھنا بھی مذموم ہے غرض دونوں صورتوں میں تعدی حدود ہے۔

اے وہ چیزیں جو خوشبو کے لئے سلگائی جاتی ہیں (لوبان وغیرہ)

عمائل کہنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے۔
یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں۔ اور ان کا منکر، ان میں ادنیٰ اشک لانے والا،
قطعاً یقیناً کافر ہے۔ یہ قسم اول ہوئی۔

(۶) اولیائے کرام (اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں دارین میں فیضیاب کرے) کو
بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔ مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت
سے، ان کے واسطہ و عطا سے ہے۔ بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب
پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ اور اب ان کے نقش قدم پر گامزن، وہابیہ نجدیہ خذلم
اللہ تعالیٰ کہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیائے کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کا علوم غیب میں اصلاً حصہ نہیں جانتے، گمراہ و مبتدع ہیں۔ بلکہ امام الوہاب نے
اپنی تقویت الایمان میں صاف لکھا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیوار پیچھے کے حال کی بھی خبر نہیں"۔ والعیاذ باللہ۔

اور اس بے ایمانی کو دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں تو بخاری و مسلم
کی صحیح حدیثیں بھی مردود۔ اور فضیلت کی نفی کے لیے، محض بے اصل و بے سند
روایت پیش کر دی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث و محقق کے سر اسکی روایت
دھرو دی۔ طرفہ یہ کہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے روایت نہ کیا بلکہ
رد کیا گیا تھا۔ ایسی خیانتیں اور فریب کاری و دھوکہ دہی و تلبیس مسلمان کے لیے جھوٹی
روایتیں، وہابیہ کے مذہب باطل کی جان ہیں۔ اور اسی پر ان کا مذہب قائم۔
کہنا یہ ہے کہ جب وہابیہ کے نزدیک رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں تو وہ اولیائے
کرام کے لیے کیسے اسے ثابت مائیں۔ تو آپ ہی گمراہ و مبتدع ہوئے۔

(۷) اللہ عزوجل نے اپنے محبوبوں، خصوصاً اپنے سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کو
غیب خمسہ (کہ قیامت کب آئے گی۔ مینہ کب اور کہاں اور کتنا برسے گا۔ مادہ
کے پیٹ میں کیا ہے۔ کل کیا ہوگا۔ فلاں کب مرے گا۔ یہ پانچوں غیب جو آئیہ کریمہ
میں مذکور ہیں۔ ان میں سے بہت جزئیات کا علم بچتا۔ جو یہ کہے کہ ان پانچوں

یا فاسد کسی قوم بد عقیدہ کا شعار ٹھہر گیا ہے اس فعل سے وہ استدلال کرتا ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں ہے اس لئے ملامت کرتا ہے۔ مثلاً کوئی بزرگ مجلس میں تشریف لاویں اور سب لوگ تعظیم کو کھڑے ہو جاویں ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی نہیں کرتا کہ تو نے واجب شرعی ترک کیا بلکہ اس وجہ سے کہ وضع مجلس کی مخالفت کی یا مثلاً ہندوستان میں عموماً عادت ہے کہ تراویح میں جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں شیرینی تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی شیرینی تقسیم نہ کرے تو ملامت کریں گے مگر صرف اسی وجہ سے کہ ایک رسم صالح کو ترک کیا۔

یا مثلاً بحق کہنا کسی زمانہ میں مخصوص معتزکہ کے ساتھ تھا کوئی ناواقف کسی شخص کو بحق کہتا ہوا سن کر اس خیال سے ملامت کرتا کہ یہ شخص بھی اس قسم کا ہے اور اُس سے اُس کے دوسرے عقائد پر استدلال کر کے مخالفت کرتا بہر حال صرف ملامت کو دلیل اعتقاد و جوب ٹھہرانا مشکل ہے اور فرضاً کسی عامی کا یہی عقیدہ ہو کہ قیام فرض واجب ہے تو اس سے صرف اُس کے حق میں بدعت ہو جائے گا۔ جن جن لوگوں کا یہ اعتقاد نہیں ان کے حق میں مباح و مستحسن رہے گا۔ مثلاً بعض مُتشدِّدین رَجَعَتِ قَهْقَرٰی کو ضروری سمجھتے ہیں تو کیا یہ رَجَعَتِ سب کے حق میں بدعت ہو جائیں۔

لہ ایک پُرانا فرقہ جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن نہیں۔ لٹے پاؤں لوٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حاجی لوگ طوافِ ودع سے فارغ ہو کر مسجد حرام سے لٹے پاؤں باہر آنے کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں تاکہ منہ کعبہ معظمہ کی طرف رہے حالانکہ مسجد سے نکلتے وقت یہ بھی جائز ہے کہ آدمی سیدھا چلے مگر بار بار پھر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھتا رہے بعض لوگ تشدد پسندی سے پہلی حالت کو ضروری قرار دیتے ہیں حضرت حاجی صاحب کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو لوگ اس حالت کو جائز تو سمجھتے ہیں لیکن ضروری قرار نہیں دیتے۔ کیا ان کے اس فعل کو بھی بدعت قرار دیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔

غیب میں سے، کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا، ہزار ہا احادیث متواترۃ المعنیٰ رکہ معنوی اعتبار سے متواتر ہیں) کا منکر اور بد مذہب خاص ہے۔ بد دینی اُس کا نصیب وبالِ آخرت اس کا مقدر۔ یہ قسم دوم ہوئی کہ ضروریات مذہبِ اہلسنت وجماعت سے ہے۔

(۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالیقین وقتِ قیامت کا بھی علم ملا۔ مگر اُس کے چھپانے کا حکم تھا۔ اس لیے واشکاف الفاظ میں اُسے ظاہر نہ کیا۔ علامات بیان فرمادیں۔

(۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء، جمیع جزئیاتِ علومِ خمسہ کا علم ہے۔

(۱۰) روزِ اقل سے روزِ آخر تک، تمام ماکان و مایکون، مندرجہ لوجِ محفوظ اور اس سے بہت زائد کا علم، جس میں علم ماورائے قیامت بھی داخل ہے۔ اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا۔

(۱۱) حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتِ روح کا بھی علم ہے۔

(۱۲) اور جملہ متشابہاتِ قرآنیہ کا بھی علم ہے۔

۵ تا ۱۲ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں۔ کہ ان میں خود علماء و ائمہ اہلسنت میں، ان تمام جماعات کے بعد جو ۵ تا ۱۲ مذکور ہوئے، اختلاف ہوا کہ بے شمار علومِ غیب، جو مولیٰ عزوجل نے اپنے محبوبِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آیادہ روزِ اول سے یومِ آخر تک، تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ آیات و احادیث کے عموم کا مفاد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر، جانبِ خصوص گئے کسی نے کہا روح کا علم غیر خدا کو نہیں۔ کسی نے کہا متشابہات کا۔ کسی نے کہا خمس کا۔ کثیر نے کہا بالیقین قیامت کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں۔

اختلافِ اہلِ رحمت

تو کہنا یہ ہے کہ تیسری قسم کے مسائل میں اختلاف، خود ہمارے علمائے اہلسنت

اور بعض اہل علم صرف جاہلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر جیسے موضوع روایات پڑھنا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ مجالس چہلا میں واقع ہوتا ہے۔ عموماً سب موالید پر ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ مثلاً بعض واعظین موضوع روایات بیان کرتے ہیں یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلاف مردوں عورتوں کے کوئی فتنہ ہو جاتا ہے تو کیا تمام مجالس وعظ ممنوع ہو جاویں گے۔

ع۔ بہر کیلئے تو گلے را مسوز

مسئلہ حاضر و ناظر اور حاجی صاحب کی ایمان افروز تحریر

رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولدین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں، اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ ضعیف شبہ ہے۔ آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے۔ اس کے آگے یہ ایک ادنیٰ اسی بات سے علاوہ اس کے اللہ کی قدرت، تو محل کلام نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جاویں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے۔

اور اس سے آپ کی نسبت، اعتقاد علم غیب لازم نہیں آتا جو کہ خصائص ذات حق سے ہے کیونکہ علم غیب وہ ہے جو مقتضائے ذات کا ہے اور جو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں بالسبب ہے وہ مخلوق کے حق میں ممکن بلکہ واقع ہے اور امر ممکن کا اعتقاد شرک و کفر کیونکہ

ایس واثر ہے اور اشاعرہ و ماثریدیہ کے مابین مسائل خلافیہ کے مثل ہے کہ طعن و لوم کا اصلاح محل نہیں۔ اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تابع ہیں۔ اور ماثریدیہ کہ امام علم المدنی حضرت ابو منصور ماثریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع ہوئے۔ یہ دونوں جماعتیں اہلسنت ہی کی ہیں۔ اور دونوں حقیقی ہیں۔ آپس میں صرف بعض فروع عقائد کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سلب ہے کہ دونوں اہل حق ہیں۔ کوئی کسی کی تفصیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کو گمراہ تو گمراہ فاسق و خاصر بھی نہیں کہہ سکتا۔ یوہیں مسئلہ علم غیب میں، آخری پانچوں مسائل میں، انہیں ثابت ماننے والے، یا ثبوت کی نفی کرنے والے، کسی پر معاذ اللہ، کفر کیا معنی، ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ پہلے سات مسئلوں پر ایمان رکھتا ہو۔ اور ان پانچ کا انکار، اُس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو، جو وہاں بیہ قائلہم اللہ تعالیٰ کے جس دلوں کو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے جلتے، اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو کہ اس مذہب کا رکن اعظم ہی محبوبانِ خدا کی توہین و تذلیل ہے۔ لہذا ان مسائل میں بھی ان کا یا ان جیسوں کا اختلاف، فروعی، اور شافعی و حنفی کا سا اختلاف کہلا سکا۔ فروعی اختلاف اسی وقت تک فروعی اختلاف اور مسلمانوں کا باہمی نزاع کہلاتا ہے۔ جب تک بجانب خلاف چلنے والے، ضروریاتِ دین یا ضروریاتِ مذہب اہلسنت میں سے کسی ضروری کا انکار نہ کریں۔ کہ ضروری دینی یا ضروری سنی کے انکار کے ظہور کے بعد اب یہ اختلاف عقائد و اصول کا اختلاف ہو گیا۔ فروعی و جزئی نہ رہا۔ تو وہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اِخْتِلَافُ اُمَّتِي رَحْمَةٌ، اس کا ماہصل یہ ہرگز نہیں کہ آدمی ضروریاتِ دین کا انکار کر جائے۔ اسلامیات اور اسلامی عقائد و نظریات کے صریح ابطال، یا تاویل کے پردہ میں استیصال کو اصل دین و ایمان بتانا جائے اور ہم اُسے اختلاف اہلی رحمتہ کا مصداق اور اس کے کمر توڑوں کو عین اسلام یا مزاج اسلام کے موافق ٹھہرتے رہیں۔ ایسا ہوتو نہ قرآن رہے نہ ایمان، نہ اسلام بچے نہ فرقان۔ آخر ختم نبوت کے منکرین اور

ہو سکتا ہے! البتہ ہر ممکن کے لئے وقوع ضروری نہیں ایسا اعتقاد کرنا محتاج دلیل ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جاوے مثلاً خود کشف ہو جائے یا کوئی صاحب کشف خبر دے تو اعتقاد جائزہ ورنہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے۔ غلطی سے رجوع کرنا اس کو ضرور ہے مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ پس تحقیق مختصر اس مسئلے میں یہ ہے جو مذکور ہوئی اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہونا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ بارہا عمل درآمد جو اس مسئلہ میں رکھنا چاہتے وہ یہ ہے کہ ہر گاہ یہ مسئلہ اختلافی اور ہر فریق کے پاس دلائل شرعی بھی ہیں گو قوت و ضعف کا فرق ہو جیسا اکثر مسائل اختلافیہ فرعیہ میں ہوا کرتا ہے۔ پس خواص کو تو یہ چاہیے کہ جو ان کو تحقیق ہوا ہو اس پر عمل رکھیں اور دوسرے فریق کے ساتھ بغض و کینہ نہ رکھیں نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، نہ تفسیق و تضلیل کریں بلکہ اس اختلاف کو مثل اختلاف حنفی شافعی کے سمجھیں اور باہم ملاقات و مکاتبت و سلام و موافقت و محبت کی رسوم جاری رکھیں اور تردید و مباحثہ سے خصوصاً بازاروں کی ہدایات سے کہ منصب اہل علم کے خلاف ہے، پرہیز رکھیں۔ بلکہ ایسے مسائل میں نہ فتویٰ لکھیں۔ نہ مہر نہ دستخط کریں کہ فضول ہے۔ اور ایک دوسرے کی رعایت رکھے مثلاً اگر مانع قیام، عامل قیام کی محفل میں شریک ہو جائے تو بہتر ہو کہ اس محفل میں قیام نہ کریں بشرطیکہ کسی فتنہ کا برپا ہونا متحمل نہ ہو اور جو قیام ہو تو مانع قیام بھی اس وقت قیام میں شریک ہو جاوے اور عوام نے جو غلو اور زیادتیاں کر لی ہیں ان کو نرمی سے منع کریں اور یہ منع کرنا ان کا زیادہ مفید ہو گا جو خود مولد قیام میں شریک ہوتے ہیں اور جو مانع اصل کے ہیں ان کو سکوت مناسب ہے۔ ایسے امور میں مخاطبت ہی نہ کریں اور جہاں ان امور کی عادت ہو وہاں مخالفت

ادائے زکوٰۃ سے مانعین پر صحابہ کرام نے جہاد کیوں فرمایا۔ کیوں ان کی کلمہ گوئی اور قبہ رونی کا پاس و لحاظ نہ فرمایا۔ امیر المؤمنین مولیٰ المسلمین بشیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنیٰ کے زمانہ اقدس میں خوارج نے ظہور کیا۔ وہ علماء تھے۔ عباد تھے، قرآن کہلاتے، راتیں شب بیداری اور دن تلاوت قرآن و ذکر باری میں گزارتے۔ مگر گمراہ تھے۔ اہلسنت کے مخالف و بدخواہ تھے۔ امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نہ ان کے علم و فضل پر نظر فرمائی۔ نہ ان سے اخوت اسلامی کی ٹھہرائی۔ بلکہ ان پر شکر کشی فرمائی۔ سر اشرار پر بربق بار ذوالفقار چمکائی۔ اور سرگردن کشیدہ کی عزت خاک مذلت میں ملائی۔ کسی نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے زمین کو ان کی نجاست سے پاک کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ واللہ وہ ابھی مردوں کی پیٹھ میں ہیں۔ عورتوں کے پیٹ میں ہیں۔ وہ قرن قرن ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جب ان کی ایک سنگت کاٹ دی جائے گی، دوسری سر اٹھائے گی۔ یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال ملعون کے ساتھ نکلے گا۔

اس وعدہ صادقہ کے مطابق ایسے گمراہوں کی سنگت، ہر زمانہ ہر قرن میں، مختلف نام، مختلف صورت میں ظاہر ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ بارہویں صدی میں ایک نیا گروہ پیدا ہوا۔ اور اس کے لطن سے ایک نئے مذہب نے جنم لیا۔ بلکہ درحقیقت انہیں خارجیوں نے نئے رنگ نئے لباس میں شلوغ کیا۔ کہ ان کے بھی وہی عقائد وہی مکائد، وہی دھوکے، وہی تلبیس اور وہی عمل قرآن و حدیث کے دعوے ہیں، جو خارجیوں کے ایمان کی جان اور بد مذہبی و گمراہی کی پہچان ہیں۔ اور بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیا فرقہ بھی، ان پہلے گمراہ فرقوں کی مانند، ائمہ بدعی و اکابر محبوبان خدا کا دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ اختلاف و نزاع کو، اگرچہ بظاہر فروعات و جزئیات میں ہو، فرعی و جزئی اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں۔ تیرے دشمن تین ہیں۔ ایک تو آپ تیرا دشمن۔ دوسرا تیرے دوست کا دشمن اور تیسرا تیرے دشمن کا دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں کے قسم اول کے دشمن تو کھلے کفار ہیں۔ اور قسم دوم کے دشمن یہی قادیانی مرزائی رافضی ناصبی خارجی وہابی ہیں کہ محبوبان خدا

نہ کریں جہاں عادت نہ ہو وہاں ایجاد نہ کریں غرض فتنہ سے بچیں۔ قصہ
حطیم اس کی دلیل کافی ہے۔

اور مجوزین مانعین کے منع کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو یہی تحقیق ہوا ہو گا یا
انتظاماً منع کرتے ہوں گے کہ بعض موقع پر اصل عمل سے منع کرتے ہیں تب
غلو سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت میں اکثر یہ تدبیر غیر مفید ہوتی ہے اور جو مانع
ہیں وہ مجوزین کی تجویز کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کو تحقیق یہی ہوا ہے یا
غلبہ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں اور حسن ظن بالمسلمین کی وجہ سے لوگوں
کو بھی اجازت دیتے ہیں۔

اور عوام کو چاہیے کہ جس عالم کو متدین و محقق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں
اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تعارض نہ کریں نہ خصوصاً دوسرے فریق کے
علما کی شان میں گستاخی کرنا چھوٹا مٹہ بڑی بات کا مصداق ہے۔ غیبت
اور حسد سے اعمالِ حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں اور تعصب
اور عداوت سے بچیں اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا
کریں کہ یہ کام علما کا ہے۔ عوام کو علما پر بدگمانی اور مسائل پر شبہ پیدا ہوتا
ہے اور اس مسئلہ میں جو تحقیق اور عمل درآمد کیا گیا ہے، کچھ اس مسئلے کے ہی
ساتھ مخصوص نہیں رہنا ہیست مفید اور کارآمد مضمون ہے جو اکثر مسائل اختلافیہ
خصوصاً جن کا یہاں ذکر ہے اور جو اس کے امثال ہیں، مثل مصافحہ یا معانقہ

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ کفر کے قریب نہ ہوتے (جو نئے مسلمان ہوتے تھے) تو کعبہ
کی عمارت منہدم کر کے نئی عمارت بنواتا اور اس میں حطیم کو بھی شامل کر لیتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے بنوایا تھا جس میں حطیم کو بھی شامل کر لیا تھا۔ مگر آپ کے شہید ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے
اسے منہدم کر کے کعبہ اللہ کو سالقہ طرز پر بنوایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بعض
موقع پختہ سے بچنے کے لئے فعل مستحسن بھی ترک کرنا مناسب ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ اللؤلؤ والمرجان کتاب الحج)

دائمہ ہدیٰ کے اعداء ہیں۔ اور قسم سوم کے دشمن وہ ریفارمر اور قوم کے مصلح ہیں کہ ان دشمنوں کے یہ کرتوت دیکھتے جاہلیں۔ کہہ مکریناں سنتے جاہلیں۔ اور پھر اسلام کا استیصال کرنے والوں کی حمایت میں، ان کے خرافات پر پردہ ڈال کر، عامۃ المسلمین کو ان سے اتحاد و یگانگت کا درس دیتے جاہلیں کہ بھائیو یہ اختلاف، فروعات میں ہے۔ یہ آپس میں افتراق و انتشار کیا۔ یہ بات بات میں سر پھٹول کیسی۔ یہ قدم قدم پر بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔ وغیرہا من الخرافات۔ ایسی حالت میں حمایت اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہر ذی انصاف خود فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے سب دشمنوں سے کامل عداوت عطا فرمائے۔ اور اسی حُب و بغض کہ اسے محبوب و مقبول ہے، دنیا سے اٹھائے۔ آمین

یہ فقیر بے نوا، اپنی معروضات کی تائید و حمایت اور پشت پناہی کی نیت سے امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ العزیز کا

”ایک فتویٰ دافع طغویٰ“

ہدیہ ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ امید کہ سنی مسلمانوں کا اس سے بھلا ہوگا۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین پرور و فقہائے نامور کہ اس ملک کا ٹھیاوار میں ایک مجلس بنام ”کاٹھیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ قائم ہوئی ہے۔ جن کے محرک و مختار متبعین و متعلقین اعلیٰ گڑھ کالج ہیں۔ اس کانفرنس کا بلا رعایت شتی، ہر کلمہ گورافضی و ہابی نیچر ہی قادیانی چکڑ الوہی و غیر ہم رکن ہو سکتا ہے۔ آیا سنیوں کو ایسی کانفرنس کا قائم کرنا، اور جان و مال سے اس کی مدد کرنا، اس کے جلسہ میں شریک ہونا، بددین مرتدوں کو مسلمان سمجھنا، اور ان سے میل جول پیدا کرنا، اور ان سے ترقی کی امید رکھنا۔ شرع شریف میں کیا حکم رکھتا ہے؟ وہ ہمارے ائمہ دین و صناعت سے بیان کر کے، ان سیدھے سادے

عیدین یا مصافحہ بعد و غلط و بعد نماز فجر و عصر یا نمازی رہائی پنجگانہ و تکرار تہلیل بعد نماز پنجگانہ، دست بوسی و پا بوسی اور ان کے سوا بہت امور ہیں جن میں اس وقت شور و شر پھیل رہا ہے۔ ان سب امور میں اس مضمون کا لحاظ رکھنا مفید ہو گا کہ سب اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ فاحفظ تشفع الشا ما للہ تعالیٰ۔

دوسرا مسئلہ: فاتحہ مروّجہ

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصالِ ثواب بار و اح میں کسی کو کلام نہیں اس میں بھی تحقیق و تعین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھنا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت یا عیبت تقلید ہیئت کذا ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا بمصلحت نماز میں سورۃ خاصہ معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔

اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت بھی کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی بتاخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے مگر موفقتِ قلب و لسان کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ ”یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے“ تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ ”اُس“ کا مُشارِ الیہ اگر رُو برو موجود ہو تو زیادہ اِستحضار (و حضوری) قلب ہو، کھانا رُو برو دلانے لگے۔ کسی کو خیال ہوا کہ یہ ایک دُعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلامِ الہی بھی پڑھا جاوے تو قبولِ لیّت دُعا کی بھی اُمید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا کہ جمع بین العبادتین ہے، عرّیہ و شوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار لہ

قرآن شریف کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑھی جانے لگیں، کسی نے خیال کیا کہ دُعَا کے لئے رفع یدین سنت ہے، ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو مسکین کو دیا جاوے گا، اُس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پلانا بھی بڑا ثواب ہے، اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ ہیئت کذا یتہ حاصل ہو گئی۔ رہا تعین تاریخ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو اُس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے اور نہیں تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے محض بطور نمونہ تھوڑا سا بیان کیا گیا۔ ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے اور قطع نظر مصلح مذکورہ کے ان میں بعض اسرار بھی ہیں۔ پس اگر یہی مصلح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

رہا عوام کا غلو، اولاً اُس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس عمل سے کیوں منع کیا جاتے۔ ثانیاً اُن کا غلو اہل فہم کے فعل میں موثر نہیں ہو سکتا۔ لَمَّا اَعْمَلْنَا وَ لَكُمُ اَعْمَالُكُمْ دیکھ رہا شبہ تشبیہ کا، اس میں بحث از بس طویل ہے۔ مختصر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبیہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادت اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہو کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جاوے یا اس پر حیرت ہو اور جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبیہ جاتا رہتا ہے۔ ورنہ اکثر امور متعلق عادات و ریاضات جو غیر قوموں سے ماخوذ ہیں مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے کہ کسی عام درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں۔

۱۔ ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال۔

یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے۔ قصۃ تطہیر اہل قبا کا اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو ہیئت عام نہیں ہوئی، وہ موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔

پس یہ ہیئت مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی۔ دسواں۔ بیسواں چہلم ششہای سالانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سرمنی حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حلوائے شب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اس قاعدے پر مبنی ہیں اور مشرب فقیر اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر پابند اس ہیئت کا نہیں ہے مگر کرنے والوں پر

لہ اہل قبا کی طہارت کے قصے سے اس آیت کا مضمون مراد ہے۔ **فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِلَّهِ حُجَّةً** المُنَافِقِينَ۔ ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۸ اس میں مسجد قبا، ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ مندرجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مسجد کے بیان میں تمہاری طہارت کی جو تعریف کی ہے تو سبلاؤ تو کہ تمہاری طہارت کیسے ہے؟ یعنی تم طہارت کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کچھ معلوم نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی یہودیوں کی نسبت جب یہ معلوم کیا کہ وہ پاخانہ سے نکل کر پانی سے پاکی کرتے ہیں۔ ہم نے اس وقت سے پناہ و طہیرہ ہی بنا لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ سوال عدیم بن عدی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ طبرانی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی تقریباً یہی مضمون ملتا ہے۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث کی عبارت بھی درج ہے۔ **قَالَ فَمَوْءَاظٌ تَعْلِيكُنَّ**؛ یعنی انصار کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس وہ یہی بات ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ تم ایسا کرو۔ یعنی پانی سے استنجا ضرور کیا کرو۔ عرض متعدد روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنے کی عادت انصار کی تھی جسے جماعت انصار نے اپنایا اور چونکہ یہ عادت انصار میں عام ہو گئی تھی لہذا کوئی تشبہ کا باقی نہیں رہا۔ بلکہ ان کے اس فعل کو پسند کیا گیا۔ حالانکہ استنجا کیلئے صرف دھیلوں کے استعمال کا حکم تھا۔ یہ ہے تشریح اہل قبا کی طہارت کے قصہ کی۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ سب چیزیں اصولی طور پر منع نہیں ہیں۔ ہاں ضرورت سے زیادہ پابندی بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں ریا اور تصنع پیدا ہو جائے یا بے جا اصراف کیا جائے تو اصلاح ضروری ہے

مسلمانوں کو گمراہی سے بچا کر، نغمائے دارین حاصل کریں۔ (ملخصاً)
 راقم آئٹم قاسم میاں علی۔ گونڈل۔ کاٹھیاوار

الجواب :-

ایسی مجلس مقرر کرنا، گمراہی ہے اور اُس میں شرکت حرام، اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اُس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے
 وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور
 اگر تجھے شیطان مھلا دے تو یاد آئے پر پاس نہ بیٹھو ظالموں کے، تفسیرات احمدیہ
 میں ہے۔ دَخَلَ فِيهِ الْكَافِرُ وَالْمُبْتَدِعُ وَالْفَاسِقُ وَالْقَعُودُ مَعَ كَلِمَةٍ مُّتَمَتِّعٍ۔
 اس آیت کے حکم میں ہر کافر و مبتدع اور فاسق داخل ہے۔ ان میں سے کسی کے
 پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
 السَّارُ" ظالموں کی طرف میل نہ کرو کہ تمہیں آگ پھوٹے گی۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 أَيَاكُمْ وَإِيَاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ ان سے دُور رہو اور انہیں اپنے
 سے دُور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
 مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری مھلائی چاہنے والا
 نہیں۔ جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس چیز کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں
 جہاں کا اس میں مھلا ہے۔ اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ ہمارا ضرر و بلا ہے
 مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر، جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے۔ یقین جان
 لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس کی تار بلیوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہن جو جماعت سے باہر نکال
 کر، کسی کو لے جانا چاہتا ہے۔ ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا۔ اور جب یہ دھوکے میں
 آیا اور ساتھ ہولیا، تو گردن مارے گا۔ مال لوٹے گا۔ شامت اُس بجرمی کی کہ اپنے راہی
 کا ارشاد نہ سنے، اور بھڑیا جو کسی بھڑیر کی اون پہن کر آیا۔ اُس کے ساتھ ہولے۔ لے

انکار نہیں کرتا اور جو عمل در آمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے یعنی دونوں فریقوں کا باہم مل جل کر رہنا اور مباحثہ و قبیل و قال نہ کرنا اور ایک دوسرے کو وہابی بدعتی نہ کہنا اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بحث مولد میں گزر چکا۔

تیسرا مسئلہ: عرس اور سماع

لفظ عرس ماخوذ اس حدیث سے ہے، نَمُوْكُمْ مَوْتِ الْعُرُوسِ یعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے کہ عروس کی طرح آرام کر کیونکہ موت مقبول الہی کے حق میں وصال محبوب حقیقی ہے اس سے بڑھ کر کون عروسی ہو گی چونکہ ایصالِ ثواب بروح اموات مستحسن ہے خصوصاً جن بزرگوں سے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ پھر اپنے پیر مہجابتوں سے ملنا موجب ازدیادِ محبت و تزاؤدِ برکات ہے اور نیز طالبوں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں مشقت نہیں ہوتی۔ بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے ہیں۔ ان میں جس سے عقیدت ہو اس کی غلامی اختیار کر لے۔ اس لئے مقصود، ایجادِ رسمِ عرس سے یہ تھا کہ سب سلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں۔ باہم ملاقات بھی ہو جائے اور صاحبِ قبر کی رُوح کو قرآن و طعام کا ثواب بھی پہنچایا جائے۔ یہ مصلحت ہے تعینِ یوم میں۔

رہا خاص یومِ وفات کو مقرر کرنا اس میں اسرارِ مخفیہ سے۔ ان کا اظہار ضروری نہیں، چونکہ بعض طریقوں میں سماع کی عادت ہے اس لئے تجدیدِ حال اور ازدیادِ ذوق و شوق کے لئے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ پس اصل عرس کی اس قدر ہے اور اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔

مطابق اصلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے
 فیروز خواہ ہیں حریص و عینک۔ تمہارا مشقت میں پڑنا۔ اُن کے قلبِ اقدس پر گراں
 ہے۔ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے
 نہایت چہیتی ماں، اکلوتے بیٹے پر، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ۔ ارے ان کی
 سلو۔ اُن کا دامن تھام لو۔ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں اَيَّاكُمْ وَا
 اَيَّاكُمْ لَا يُضَلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتَنُونَكُمْ۔ ان سے دُور رہو اور ان کو اپنے
 سے دور کرو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
 ابن حبان و طبرانی و عقیلی کی حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 لَا تَوَأْكُلُوهُمْ وَلَا تُشَامِرُ بُوَهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُمْ وَلَا
 وَاذَا مَرَرْتُمْ بِمَنْ لَا تَعُدُّوهُمْ۔ وَاذَا مَا تَوَأَّفَا تَشَاهَدُوا لَهُمْ وَلَا
 تَصَلُّوْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَصَلُّوْا مَعَهُمْ۔ اُن کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ اُن کے ساتھ
 پانی نہ پیو۔ ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اُن سے رشتہ نہ کرو۔ وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ۔
 مر جائیں تو جنازہ پر نہ جاؤ۔ نہ ان کی نماز پڑھو۔ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔
 امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدِ اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میں، نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو کھجور کا پاپا۔ اپنے ساتھ کاشا، اقدسِ خلافت میں
 لے آئے۔ اُس کے لیے کھانا منگایا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، کوئی بات بد مذہبی
 کی اس سے ظاہر ہوئی۔ فوراً حکم ہوا کہ کھانا اٹھالیا جائے اور اُسے باہر نکال دیا جائے۔
 سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اُسے نکلوا دیا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے آکر عرض کی "فلاں شخص
 نے آپ کو سلام کہا ہے۔" فرمایا لا تقراہ منی السلام فانی سمعتُ انہ احدثاً۔
 میری طرف سے اُسے سلام نہ کہنا کہ میں نے سنا ہے اُس نے کچھ بد مذہبی نکالی۔
 سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راستہ
 میں ایک بد مذہب ملا۔ کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔

بعض علمائے بعض حدیثوں سے بھی اس کا استنباط کیا ہے۔ رہ گیا شبہ حدیث لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِیْ عِیْدًا کَا، سو اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا اور خوشیاں کرنا، زینت اور آراستگی و دھوم دھام کا اہتمام، یہ ممنوع ہے کیونکہ زیاراتِ مقابر واسطے عبرت اور تذکرہ آخرت کے ہے۔ نہ عفت اور زینت کے لئے۔ اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ مدینہ طیبہ میں قافلوں کا جانا واسطے زیارتِ روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا وَهَذَا بَاطِلٌ لیس حق یہ ہے کہ زیاراتِ مقابر انفراداً و اجتماعاً دونوں طرح جائز و ایصالِ ثواب، قرأت و طعام بھی جائز اور تعین تاریخ بمصلحت جائز سب مل کر بھی جائز۔ رہا یہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب قرآن شریف پڑھتے ہیں اور آیه وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَلْسِنُوْا کی مخالفت ہوتی ہے۔ سو اولاً تو علمائے لکھا ہے کہ خارج نماز کے یہ امر مستحبات کے لئے ہے۔ ترک مستحب پر اتنا شور و غل نامناسب ہے۔ ورنہ لوگوں کا مکاتیب میں پڑھنا بھی ممنوع ہوگا۔ دوسرے کسی کو یہی تحقیق ہو کہ یہ وجوبِ عام ہے تو اصل عمل کے منع کرنے سے یہ بہتر ہے کہ یہ امر تعلیم کر دیا جائے یہی جواب ہے۔ سو ہم میں قرآن پکار کر پڑھنے کا البتہ جس مجلس میں امور منکرہ مثل رقص مروج و سجدہ قبور وغیرہ ہوں اس میں شریک نہ ہونا چاہیئے۔

رہا مسئلہ سماع کا یہ بحث از بس طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے۔ سماع محض میں بھی اختلاف ہے جس میں تحقیق کا یہ قول ہے کہ اگر شرائط جواز مجتمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہوں تو جائز

عرض کی، ایک کلمہ۔ اپنا انگوٹھا چھنگیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا۔ "وَلَا نَصْفَ كَلِمَةٍ"۔
 آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ از ایشاں منہم ہے۔
 امام محمد بن سیرین، شاگرد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بد مذہب آئے۔
 عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی
 کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے
 اصرار کیا۔ فرمایا "یا تو تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھا جاتا ہوں"۔ آخر وہ تائب و خاسر
 چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی۔ "اے امام آپ کا کیا عرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے"۔
 فرمایا۔ "میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ، اپنی کچھ تاویلیں لگائیں اور وہ
 میرے دل میں رہ جائیں تو ہلاک ہو جاؤں"۔

ائمہ کو یہ خوف تھا اور اب عوام کو یہ جرأت ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 العلی العظیم اور ایسی جگہ مال دینا وہی پسند کرے گا جو دین نہیں رکھتا یا عقل سے
 بہرہ ور نہیں۔ یکے نقصان پایہ، دگر شمتا تہم سایہ۔ ہم سایہ کون؟ وہ بنس القربین
 شیطان لعین، کیسا خوش ہو گا کہ ایک ہی کرمہ میں، دونوں جہاں کا نقصان پہنچایا۔
 مال بھی گیا اور آخرت میں عذاب کا بھی مستحق ہوا۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكُمْ
 هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔

دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بتائی۔ اِيَّاكُمْ وَايَاهُمْ لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ ان سے دور رہو۔
 انہیں اپنے سے دور کرو۔ کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں یہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔
 دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے رب عزوجل نے بتائی۔ فَلَا
 تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مجھو لے سے ان میں سے کسی کے پاس
 بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔

ان مضامین کی تفصیل میں تمام اکابر علمائے حرمین شریفین کا فتویٰ مسمیٰ بہ فتاویٰ
 الحرمین برحف ندوة المین۔ اور عامہ علمائے ہند کا فتویٰ مسمیٰ بہ فتاویٰ السنۃ

ہے ورنہ ناجائز۔ کما فضلہ الامام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سماع بالآت میں بھی اختلاف ہے بعض لوگوں نے احادیث منع کی تاویلیں کی ہیں اور نظائر فقہیہ پیش کئے ہیں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے مگر آداب و شرائط کا ہونا باجماع ضروری ہے جو اس وقت میں اکثر مجالس میں مفقود ہے مگر تاہم، ع

خدا بیخ انگشت یکساں نہ کر دے

بہر حال وہ حدیث خیر و احد ہے اور محتمل تاویل۔ گویا تاویل بعید ہے اور غلبتہ کمال کا بھی احتمال موجود۔ ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا از بس دشوار ہے۔ بشرط فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرومرشد کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہوتی تو مولد پڑھا جاتا ہے۔ پھر حاضر کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے اور زوائد امور فقیر کی عادت نہیں۔ نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا نہ خالی، نہ بالآت۔ مگر دل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں جو شخص ریاکار مدعی ہو وہ بڑا گمراہ یقین اس کی کہ فلاں شخص ریاکار ہے بلا حجت شرعیہ نادرست ہے اس میں بھی عملدرآمد فریقین کا یہی ہونا چاہیے جو اوپر مذکور ہوا کہ جو لوگ نہ کریں ان کو کمال اتباع سنت کا شائق سمجھیں جو کریں ان کو اہل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں جو عوام کے غلو والے ہوں ان کا لطف و نرمی سے التماس کریں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں بنائیں۔

للاجام اهل الفتنة " اور فتاویٰ القدوة " اور النذیر الاحمد " اور النذیر المبین وغیرھا
پچاس سے زائد کتابیں چھپ کر شائع ہو چکیں۔ اور ہدایت اللہ عزوجل کے ہاتھ
واللہ یقول الحق ویهدی السبیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل وصلى الله تعالى
على سيدنا و مولانا محمد وآله وصحبه بالتجلیل والله تعالى اعلم۔

فقیر احمد رضا قادری

یہ مبارک فتویٰ اکابر علمائے اہلسنت کثرہم اللہ تعالیٰ کی تائیدات و
تصدیقات و تقریحات سے مہذب و مذہب و مزین ہو کر زیور طبع سے بارہا راستہ
ہو کر مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ اور بچہ تعالیٰ مسلمانان اہلسنت نے اسے اپنا لائحہ
عمل بنایا۔

ضروری عرض واجب اللحاظ

مسلمانو! یہ خلاصہ ہے ان احکام شرعیہ کا جو قرآن و حدیث نے تمہیں بتائے
ہے، لکھائے اور تاکید پر تاکید کی کہ انہیں اپنا نصب العین بنائیں اور ہرگز کسی کی بات
میں نہ آئیں مگر یہ پیچیدان و پیچ میرز، کہ خاکِ نعال علماء کی برابری کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا،
جانتا ہے کہ یہ تلخ لوائیاں "ان خیر خواہان اسلام و مسلمین" کو ضرور چراغ پاکر دیں گی۔ جن کا
کام ہی، شرع متین کے صاف صریح روشن احکام کو دیدہ و دانستہ پامال کرنا اور
مسلمانوں کا ہمدردین کرنا، ان کے دین و عقیدہ کو چھلنا ہے تو جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے،
مسلمان ہی نہیں۔ اور وہ جب تک اسلام کو گند چھری سے ذبح کر کے، ختم کر دینے
کی کھال پہنا کر حلال نہ کریں، ایمان ہی نہیں۔ ولہذا حسب معمول تحقیق حق اور احکام
رب الانام کے اظہار و اشاعت کو وہ گالیوں کا نام دیں گے۔ دشنام طرازیوں کا
لبادہ انہیں پہنائیں گے۔ انتشار و افتراق سے اسے تعبیر کریں گے۔ کہ ہمیشہ حاضرین
نے اپنے عجز کو یونہی چھپایا ہے۔ اور احکام حق کو سختی بنا کر، گالیاں ٹھہرا کر، جواب
گر نہ فرار کا حیلہ بنایا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

پوچھا مسئلہ: نداء غیر اللہ

اس میں تحقیق یہ ہے کہ نداء سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہارِ شوق، کبھی تحسّر، کبھی منادی کو سنانا، کبھی اس کو پیغام پہنچانا، سو مخلوق غائب کو پکارنا اگر محض واسطے تذکر اور شوق وصال اور حسرتِ فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ مجنوں کا قصہ مثنوی میں مذکور ہے :-

دید مجنوں را کے صحرا نورد : در بیابان غمش بنشستہ فرد
 رنگ کاغذ لودنگشاں قلم : می نمودے بہ کس نامہ رقم
 گفت اے مجنوں شیدا چسبیت ایسا : می نویسی نامہ بہر کیست ایس
 گفت مشق نام لیلی میکنم : خاطر خود را تسلی می دہم
 ایسی نداء صحابہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے۔ کمالا نحفی علی
 المتجر المتسع النظر۔ اور اگر مخاطب کا اسم یعنی سنانا مقصود ہے تو اگر
 تصنیف باطن سے منادی کا مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ
 نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو یہ خبر پہنچ جاوے گی اور
 وہ ذریعہ ثابت بالدلیل ہو تب بھی جائز ہے مثلاً ملائکہ کا درود بشر لیف
 حضورا قدس میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی
 شخص الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر

۱۔ ترجمہ۔ کسی صحرا نورد نے مجنوں کو دیکھا کہ اپنے غم و حزن کی ویران دنیا میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ ریت کاغذ
 ہے اور انگلیاں قلم۔ کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے مجنوں شیدا! یہ سب کیا ہے۔ کس کے لئے یہ
 خط نویسی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو لیلیٰ کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس طرح اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوں۔

ہاں ہم اتنا کہتے ہیں اور بہ بانگِ دہل کہتے ہیں کہ اگر کسی منکر شرعی پر، گمراہانِ گمراہ گر، اسلام میں تفرقہ اندازی اور جماعتِ مسلمین میں فرقہ بندی، و فتنہ انگیزی اختیار کریں، کسی مخالفِ شرع امر کو، بزورِ زبان، زور و بہتان کے سہارے اور افتراء و ہمت تراشی کے آسارے پر، معروف شرعی کا جامہ پہنائیں، اس کا رونا پکار کے لیے آیات و احادیث و اقوالِ ائمہ کی تحریف و تصحیف متنائیں، اور احکامِ الہیہ کو کاپاپلٹ کر کے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دکھائیں جیسا کہ اب بہت کلمہ گو بیانِ اسلام سے آئے دن ظہور میں آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں ایسے منکراتِ شرعیہ کا ازالہ فرضِ اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

” جب فتنے، یا فرمایا، بد مذہبیاں، ظاہریوں تو فرض ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے، اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں، سب کی لعنت۔ اللہ نے اس کا فرض قبول کر کے نہ نفل۔“ (خطیب بغدادی فی الجامع)

تو ہماری یہ سچی اُن معاندوں کے لیے نہیں جو دیدہ و دانستہ کلامِ اللہ و احکامِ شریعتِ اسلامیہ میں تغیر و تبدیل کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصود، اُن شبہات کا کشف و ازالہ ہے۔ جن سے وہ احکامِ الہیہ کو بدلنے اور عوامِ مسلمین کو پھلتے ہیں۔ اس امید پر کہ مولیٰ عزوجل، چاہے تو جو اُن کے دھوکے میں آگئے۔ حتیٰ کی طرف واپس آئیں۔ اور جن پر مہروز اُن کا فریب نہ چلا، بعونہ تعالیٰ حفظ و پناہ پائیں۔ و ذلک علی اللہ یسیر۔ مولیٰ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے احباب کو، باطل و اعانتِ باطل و احتلاطِ اہلِ باطل سے بچائے اور حتیٰ پر استقامتِ تامہ عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔

نہ مشہود ہو۔ نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو۔ نہ پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ دلیل سے موجود ہو، وہ ندامت ممنوع ہے۔ مثلاً کسی ولی کو دُور سے ندا کرنا، اس طرح اس کو سنانا منظور ہے اور روبرو نہیں۔ نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہوا کہ ان کو کسی ذریعہ سے خبر پہنچے گی یا ذریعہ متعین کیا مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں یہ اعتقاد افتراء علی اللہ اور دعویٰ علم غیب ہے بلکہ مشابہ شرک کے ہے۔ مگر بے دھڑک اس کو کفر و شرک کہنا جبراً است ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس بزرگ کو خبر پہنچا دے، ممکن ہے اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں اگرچہ نہ امکان کو وقوع لازم نہیں اس لئے ایسی ندا یعنی کی اجازت نہیں ہے۔

البتہ جو ندا نص میں وارد ہے مثلاً يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعْيُنُؤُنِي ذر۔ وہ بالاتفاق جائز ہے اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے اور جو اہل خصوصیت ہیں اُن کا حال جُدا ہے اور حکم بھی جُدا کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے۔ جو خواص میں سے ہو گا خود سمجھ لے گا بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا حکم و طیفہ ”یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ“ کا لیکن اگر شیخ کو متصرفت حقیقی سمجھے تو مُنْجَرِ الْاِلٰی الشَّرْکِ ہے۔ ہاں اگر وسیلہ و ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے، کچھ حرج نہیں یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں۔

اب بعض علماء اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے اس ندا سے منع کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (المحدث) مگر مصلحت یوں ہے کہ ندا کرنے والا سمجھ دار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جاوے اور جو محض عامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جاوے۔ اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو، بالکل روک دیا جائے لیکن

شرعِ مطہر کا ایک ضابطہ کلیہ

رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے :-
 وَمَا تَقَدَّرَ هُوَ إِلَّا نَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

” اور اپنی جانوں کے لیے جو مہلانی آگے بھجوں گے، اُسے اللہ کے
 یہاں پاؤ گے۔ بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“
 اور فرماتا ہے :-

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ
 ” اور تم جو مہلانی کرم و اللہ اُسے جانتا ہے۔“

یہ آیات کریمہ صاف ارشاد فرماتی ہیں کہ نیکی نہ صرف نماز و زکوٰۃ میں منحصر ہے
 نہ جہاد و قتال پر موقوف۔ بلکہ اعمالِ صالحہ، جن کی بنیاد تقویٰ و پرہیزگاری،
 خدا ترستی و حق پرستی پر ہو۔ جو کچھ بھی میسر آجائیں، سب جیساں مقبولیت رکھتے
 ہیں۔ مسلمان کو چاہئے، کہ ان سے غافل نہ رہے اور اپنی عمر عزیز کے قیمتی لمحات
 غفلت میں نہ گزارے۔ اور چھوٹی یا بڑھی، جو بھی نیکی کہہ سکتا ہے، اس میں دریغ
 نہ کرے۔ ہر کارِ خیر مقبول ہے جبکہ خلوص نیت سے انجام پائے۔ اور ہر کارِ خیر باعث
 برکت و نجات اور موجب اجر و ثواب ہے جبکہ صدق نیت سے ظہور میں آئے۔
 اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات موجود رہے، کہ حنفی سے حنفی، بارکیت سے
 بارکیت، نیکی بھی عالم الغیب کی نظر سے محنتی نہیں۔ اور اصل شے اور مدارِ کارِ تمام
 احکام و مسائل میں یہی خلوص و تقویٰ اور خوفِ خدا ہے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ خیر و
 کارِ ثواب، بدنی مالی، بڑھی چھوٹی، ہر قسم اور ہر درجہ کی نیکی کو شامل ہے۔

ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔
بہت یاد رکھنے کی بات | یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اگر

کوئی شخص کسی عملِ فاسد میں مبتلا ہو اور یہ قرآنِ قویہ سے یقین ہو کہ یہ شخص اصل عمل کو ترک نہ کرے گا۔ تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک کرنے پر اس کو مجبور کرے کہ بجز فساد و عناد کوئی ٹمڑہ نہیں۔ نہ اس کو بالکل مہمل و مطلق العنان چھوڑ دے کہ شفقت اور اخوتِ اسلامی کے خلاف ہے بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کر، اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کر دے کہ اس میں اُمید قبولِ اَغْلِب ہے حق سُبْحَانَهُ تَعَالٰی کا حکم ہے اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْاٰیة اور رسومِ جاہلیت کے شیوع کے جو احکام شرعیہ مقرر ہوئے ہیں ان میں غور کرنے سے اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے۔ مشرب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندامتِ امیر معمول نہیں ہاں بعض اشعار میں ذوق و شوق سے صیغہ ندامت لیا گیا اور عمل درآمد وہی رکھنا چاہیے جو اوپر تین مسئلوں میں مذکور ہوا۔

پانچواں مسئلہ: جماعتِ ثانیہ

مسجدوں میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعتیں کرنا یہ مسئلہ سلف سے مختلف فیہ ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کراہت و امام ابو یوسف سے بعض بشرائط کے ساتھ جواز منقول ہے اور تریح و تصحیح دونوں جانب موجود ہے۔ اس میں بھی گفتگو کو طول دینا، نازیبا ہے کیونکہ جانبین کو گنجائش عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ

۱۔ سورہ نحل، آیت نمبر ۱۲۵ ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اے اشاعت

نیز ارشاد فرماتا ہے :-

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ ۝

” اور جو کوئی بھلی بات ہے، اپنی طرف سے کرے، تو اللہ اس کا صلہ

دینے والا خبردار ہے۔“

آیہ کریمہ میں لفظ تطوع استعمال ہوا ہے۔ اس کا مصدر ہے تطوع۔ اور تطوع ہر وہ چیز ہے، جو نہ فرض و واجب ہے کہ بے اس کے کئے آدمی پر ہی الزم نہ ہو۔ اور نہ شرعاً ایسی مطلوب، کہ اس کے ترک کو عید آئی ہو یا اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ یعنی ہر وہ عمل صالح، ہر وہ کار خیر اور ہر وہ نیکی، جو انسان اپنی خوشی سے انجام دے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سا بھی نیک کام ہو، کسی نوعیت اور کسی درجے کا بھی، جو بھی مسلمان اُسے اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے انجام دے گا۔ اس کا اجر اُس کا صلہ اور اُس پر اجر و ثواب، حسب وعدہ الہی اُسے مل کر رہے گا۔ شاکر کا لفظ جو یہاں وارد ہوا ہے۔ وہ اسی بشارت کا مشعر ہے کہ شکر کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بندے کی کسی طاعت و کار بندگی کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم سے ٹھوڑی سی طاعت پر معاوضہ بہت دیتا ہے۔ بشرطیکہ بندہ اس کا اہل ہو اور اس کی نیت میں خلوص ہو کہ وہ بندے کی نیت سے خوب واقف ہے۔ تو کسی کار خیر کی بجا آوری میں جس قدر نیت میں صدق و خلوص ہوگا، رب کریم کی جانب سے اتنا ہی اُس پر اجر و ثواب مترتب ہوگا۔

کلمہ گویانِ اسلام میں ایک فرقہ، قرآن کریم کے عطا فرمودہ اس ضابطہ کلیہ سے یا تو واقف نہیں۔ یا اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی خاطر اس سے دامن بچاتا ہے۔ اور جب کسی کج فہم کی نگاہوں سے حقیقت کا یہ پہلو اوجھل ہو تو ظاہر ہے کہ دلائل کا مقابلہ، دلائل سے نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ سے کرے گا۔ جو دلیل شکست و عجز ہے۔ آخر یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگرچہ قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے جسے جتنا علم، اتنا ہی فہم۔ اور جسے جتنی فہم اسی قدر علم سے وہ بہرہ مند، اور اگرچہ کلام الہی میں ہر چیز

دونوں قول میں یوں تطبیق دے دی جاوے کہ اگر جماعت اولیٰ کا پہلی اور سستی سے فوت ہو گئی ہے اور جماعت ثانیہ میں شرکت سے منع کرنا اس شخص کے لئے موجب زجر و تنبیہ ہو گا تو اس کے لئے جماعت ثانیہ کی کہہ بیت کا حکم کیا جائے اور قائلین بالکراہیت کی تعلیل، تعلیل جماعت اولیٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے اور اگر کسی معقول عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا، تنہا پڑھنے سے بہتر ہے یا کوئی شخص ایسا لا ابالی ہے کہ جماعت ثانیہ سے منع کرنا اس کے حق میں کچھ بھی موجب زجر نہ ہو گا بلکہ تنہا پڑھنے کو غنیمت سمجھے گا کہ جلدی سے چار ٹکریں مار کر رخصت ہو گا، ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ۔ بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعدیل و اطمینان سے ادا کرے گا۔ عملدرآمد اس مسئلہ میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو عمل بالدلیل کی وجہ سے محبوب رکھے اور جہاں جماعت ثانیہ نہ ہوتی ہو وہاں تنہا پڑھ لے خواہ مخواہ جماعت نہ کرے اور جہاں ہوتی ہو وہاں شریک ہو جاوے مخالفت نہ کرے۔ یہ پانچ مسئلے عملی تھے۔ اب دو مسئلے علمی باقی رہ گئے ہیں وہ مرقوم ہیں۔

چھٹا و ساتواں مسئلہ: امکان نظیر و امکان کذب

ان دونوں مسئلوں کی تحقیق تفصیلی کا سمجھنا، موقوف علم حقائق پر ہے اور اذیس دقیق ہے۔ مگر مجملاً دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے ایک اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لِّعِنِّي اللّٰهُ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے مثل خلف القول و اخبار غیر واقع و غیر ہما، ان سب سے پاک ہے۔ رہا یہ تحقیق کرنا کہ کون

کاروشن بیان اور ہر شے کی کامل شرح موجود، لیکن عملی زندگی کے ایک ایک پہلو سے متعلق تفصیلی ضابطے اور قوانین، صاف صریح الفاظ و عبارات میں اور ہر ایک کی فہم میں آجائیں، نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہر ایک کی نگاہ میں نہیں سما سکتے۔

ہاں قرآن کریم میں مولیٰ جل و علا اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے طریق و روش پر چلنے کی ہدایت فرماتا، نبی کا حکم بعینہ اپنا حکم، اور نبی کی اطاعت بعینہ اپنی اطاعت بتاتا ہے۔ تو تمام احکام کہ حدیث میں ارشاد ہوئے، سب قرآن عظیم سے ثابت ہیں۔ اور وہ جزئی احکام جو احادیث میں ہیں، کتاب اللہ ہرگز اس سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ حکم، جو کچھ رائے، جو کچھ طریقہ، جو کچھ ارشاد ہے سب قرآن عظیم سے ہے۔ سب قرآن عظیم میں ہے۔ انہو الا وحی یوحی۔

تو کلمہ گو بیان اسلام سے جو فرقہ حدیث کو چھوڑ کر، صرف قرآن مجید سے ثبوت لینا چاہتے ہیں، وہ ادنیٰ ضلالت میں پیا سامرے گا۔ پہلے گا اور گرے گا۔ جن سیٹ بھرے بے فکرے نیچر لوں نے حدیثوں کو یکسر رد ہی کر دیا اور بزور زبان صرف قرآن عظیم پر وار و مدار رکھا، حالانکہ واللہ وہ قرآن کے دشمن اور قرآن ان کا دشمن، وہ قرآن کو بدلنا، اور مراد الہی کے خلاف، اپنی ہوائے نفس کے موافق اس کے معنی گڑھنا چاہتے ہیں۔ جب ضروریات دین ہی کے ہر جزئیہ کی تصریح صریح، قرآن میں ضروری نہیں، تو ان سے اتر کر اور کسی درجے کی بات پر یہ مڑھراپن کہ ہمیں تو قرآن ہی میں دکھاؤ ورنہ ہم نہ مانیں گے نہ ہی جہالت ہے یا صریح ضلالت۔

مگر رونا اس بات کا ہے کہ ایمان بالقرآن کے مدعی، احادیث کریمہ کی تصدیق و تعمیل کے دعویدار، بلکہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کو حق اور امر ضروری جاننے ماننے والے بھی، اپنی خواہشات نفس کے دام میں ایسے گرفتار ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، صاف صریح ہر عمل صالح اور ہر کار خیر کی بجا آوری کی وسعتیں دیکھتے جائیں، کہ ہر عمل صالح، ہر کار خیر، ہر نیکی، جس کا صدور و ظہور، صدق نیت اور خلوص قلب سے ہو، وہ بارگاہ الہی میں مقبول اور باعث برکت و موجب اجر و ثواب آخرت ہے، مگر کل بدعتہ ضلالتہ کے

چیز مفہوم شے میں داخل ہے کہ اس پر قادر کہا جائے اور کون چیز عیب و نقصان سے ہے کہ اس سے تنزیہ کیا جائے۔ سو جس جگہ دلائل متعارض ہوں، وہاں اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں بلکہ بوجہ نازک ہونے ایسے مسائل کے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قیل و قال اور زیادہ تفتیش کرنا، عجب نہیں کہ منع ہو۔ دیکھئے تقدیر کا مسئلہ چونکہ پیچیدہ و مجمع اشکالات تھا اس میں گفتگو کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت ممانعت فرمائی۔ سو اس ممانعت کی علت یہی وقت و اشکال ہے سو ان دو مسئلوں میں بھی جب بوجہ تعارض ظاہری اولاً عقلیہ و نقلیہ کے اشکال شدید ہے تو قیل و قال کرنے کی کیسے اجازت ہوگی۔ اسی مضمون کا خواب فقیر کے ایک متعلق نے دیکھا جس کو فقیر نے بہت پسند کیا اس سے بہتر کوئی عمل درآمد نہیں اور جو طبع آزمائی کے لئے گفتگو ہی کرنا ضرور ہے تو زبانی خلوت میں ہو اور اگر تحریر کی حاجت ہو تو خط کافی ہے نہ کہ رسالے اور کتابیں اور اگر اسی کا شوق ہے تو عربی عبارت ہونی چاہیے تاکہ عوام خراب نہ ہوں اور عوام کے لئے تو بالیقین سکوت ہی ضروری ہے۔ الحمد للہ جو کچھ لکھنا تھا۔

مہر
حضرت حاجی صاحب

جو معنی و مفہوم، اُن کے دل و دماغ میں جاگزیں ہے، اُسے کسی طور ترک کرنے پر راضی نہیں۔ عامۃ المسلمین کو بدعتی و جہنمی اور اولیائے کرام و مشائخ عظام کو شرک پسند، بائی ضلالت اور گمراہ و گمراہ گمراہ کہنا گوارا۔ مگر اپنے گریبان میں جھانک کر، اپن و آل کی بے جا طرفداری و حمایت سے باز آنا، ایسا ناگوار ہے کہ حق کو دیکھنے سننے اور سمجھنے سے گویا سمع و بصر اور دل و دماغ پر مہر لگا دی گئی ہے۔

معمولی علم و واقفیت رکھنے والا مسلمان بھی اتنی بات خوب جانتا ہے کہ علماء کرام اور ائمہ اعلام نے امور تعظیم و محبت میں ایجادوں کو پسند فرمایا اور انھیں ایجاد کنندہ کی منقبت میں شمار کیا۔ اور تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء اور شوکت اسلام کے اظہار و بقاء میں جتنے طریقے نئے ایجاد کئے جائیں سب جائز و مستحسن ہیں۔ سب موجب خیرات و برکات ہیں، جب تک شرعاً ان کی ممانعت نہ ہو۔

ان فتنہ پردازان نجد کی بڑھی دوڑی ہے کہ فلاں کام بدعت ہے۔ حادث ہے۔ صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں۔ اس کا ثبوت، قرآن و حدیث اور صحابہ و تابعین سے لاؤ۔ سب کا جواب یہی ہے کہ تم کو چشم، کچھ لٹے، کچھ فہم ہو، دو باتوں میں سے ایک کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے۔ یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شرع ہے۔ یا یہ کہ شرع مطہر نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جب نہ شرع سے منع، نہ کام میں شرع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن عظیم کے ارشاد سے جائز۔

یہ مباحث ان شاء اللہ تعالیٰ، مسائل نزاعیہ کی تشریح کے ضمن میں بالتفصیل آئیں گے لیکن ہم ان تمام مباحث کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک حدیث طویل کے خلاصہ پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عوام سے احتجاب فرمایا اور خلافت خلیفہ برحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ واقع ہوئی جس میں بہ کثرت صحابہ کرام، حافظان قرآن شہید ہوئے تو قرآن کریم کے حافظ حقیقی، جامع ازلی جل جلالہ نے اپنا وعدہ صادقہ و انا لہ لحافظون پورا فرمانے کو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کریم میں یہ کریم داعیہ ڈالا کہ قرآن کریم کو اصل لغت قریش پر

قصیدہ قاسمی

ثناء کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا جائے
 فلک سب سہی پر ہے نہ ثانی احمد
 فلک پر عیسیٰ و ادریس ہیں تو تیر ہی
 گناہ کیا ہے اگر کچھ گنہ گئے ہیں نے
 ترے محاذ سے اتنی تو ہو گئی تحریف
 یہ ہے اجابت حق کو تری دعا کا لحاظ
 اگر جواب دیا بکیسوں کو تونے بھی
 جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
 رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ
 تو اس سے کہہ اگر اللہ سے ہے کچھ درکار
 زمین پر کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار
 زمین پر جلوہ نما ہیں محمد مختار
 تجھے شفع کہے کون اگر نہ ہوں بدر
 بشر گناہ کریں اور ملائک استغفا
 قضائے مبروم و شرط کی سنیں نہ پکار
 تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
 بنے گا کون ہمارا ترے سوا غمخوار
 جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار

مدد کرے کرم احمدی کہ تیرے سوا
 نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند

یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول صفحہ ۸۸

مصنف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یکجا جمع ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہِ صدیقی میں عرض کی کہ جنگِ یمامہ میں بہت صحابہ حاملانِ قرآن شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر یونہی قرآن متفرق پرچوں میں رہا اور حُفاظِ یونہی لڑائیوں میں شہید ہوتے گئے تو بہت قرآن جاتا رہے گا۔ میری رائے ہے کہ حضرت جمع قرآن کا حکم فرمائیں۔ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداءً اس میں تامل ہوا اور فرمایا کہ جو فعل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا، ہم کیونکر کریں۔

فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، مگر واللہ وہ کام خیر کا ہے۔ بالآخر رائے صدیقی بھی موافق ہوئی۔ پھر حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، جمع قرآن کا حکم دیا۔ انہیں بھی وہی شبہ گنہرا اور عرض کیا کہ کیونکر کیجئے گا وہ کام جو حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے نہ کیا۔ صدیقِ اکبر نے وہی جواب دیا کہ خدا کی قسم، بات تو جھلائی کی ہے، کام تو خیر کا ہے۔ پھر دونوں صاحبوں میں بحث ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ان کی رائے بھی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کے ساتھ موافق ہوئی۔ یہاں تک کہ جملہ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآنِ عظیم متفرق مواضع سے یکجا جمع کر لیا گیا۔ اور نجد یہ کا یہ شبہ، جس پر آدمی وہاں بیت کا دار و مدار ہے، کہ جو فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، دوسرا کیا ان سے زیادہ، مصالحِ دین چاہتا ہے کہ اسے کرے گا، باجماع صحابہ مردود قرار پایا۔ والحمد للہ رب العالمین دیکھئے حیب زید بن ثابت نے صدیقِ اکبر پر، اور صدیقِ اکبر نے فاروقِ اعظم پر اعتراض کیا تو ان حضرات نے یہ جواب نہ دیا کہ نئی بات نکالنے کی اجازت نہ ہونا، تو کھیلے زمانہ میں ہوگا۔ ہم تو صحابہ ہیں اور ہمارا زمانہ خیر القرون سے ہے۔ بلکہ یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، مگر وہ کام تو اپنی جگہ اپنی ذات میں جھلائی کا ہے۔ پس کیونکر ممنوع ہو سکتا ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں چہ نہ ہونے پر مدار نہ تھا

بلکہ نفسِ فعل کو دیکھتے۔ اگر اس میں محذور شرعی نہ ہوتا اجازت دیتے، ورنہ منع فرمادیتے، اور یہی طریقہ تابعین و تبع تابعین میں رائج رہا کہ اپنے زمانے کی بعض نوپیدا چیزوں کو جائز رکھا۔ بعض سے منع فرمایا اور قاعدہ شرعیہ وہی قرار پایا کہ خیر خیر ہے اگرچہ نوپیدا ہو اور شر شر ہے اگرچہ پرانا ہو۔ اتنی واضح ہدایت اور روشن موغظت کے باوجود، شراب نجدیت سے ماؤف ذہن، اب بھی اگر یہی کہے جائیں کہ ہر نوپیدا بات بدعت ہے اور ہر بدعت کفر ہے، اور حدیثِ کریمہ کو اپنی سند میں لائیں تو سولے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا شمار بھی انہیں لوگوں میں کرنا مناسب و لائق تر ہے جو احکامِ شریعت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ طور و طریق ہی کو اختیار کرنا، باعثِ نجات جانتے ہیں اور اپنی کج رائے و کجروی کو ہی دلیلِ راہ سمجھتے ہیں اگرچہ اس کے لیے صحابہ کرام و تابعین و سلف صالحین کو چھوڑنا بلکہ معاذ اللہ انہیں بدعتی و کفرانہ ٹھہرانا پڑے۔ ولاحول ولاقوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔

اور مسلمانانہ توجہ جانتے اور مانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو خدا اور رسول، قرآن و حدیث کے ہر ہر حرف کو بلا چون و چرا اپنالائے عمل اور نصب العین بنائے اور اس پر قائم و دائم رہے۔ اور اللہ و رسول کے کسی قانون کا مقابلہ نہ کرے۔ اپنی کوتاہ عقلی کو کسی حکمِ شرعی کے مقابل نہ لائے۔ اور ہر معاملہ میں خدا اور رسول ہی کے احکام کو اپنا راہبر و رہنما بنائے۔ اور جو لوگ اہل اللہ اور ان کے طور و طریق اور معمولات کے ساتھ متسخر کرتے ہیں، ان سے کنارہ کش رہے۔ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ کے طریق پر گامزن رہے۔ اولیاء اللہ کو، کہ محبوبانِ حق جل و علا ہیں، ان کے ساتھ عقیدت و وابستگی کو باعثِ رضا الہی و موجبِ نجات جانے۔ اور یقین نہ رکھے کہ جو ان سے الگ ہوا۔ اُس کے لیے خسراں و وبال ہے۔ اور جو ان سے وابستہ رہا اُس کے لیے رحمتِ رب و الجلال ہے۔

اور ہم آئندہ صفحات پر یہ بات بھی بتائیں گے کہ یہ کچھ احتیاط نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام یا مکروہ کہہ کر خدا پر افتراء کر دو بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جب تک حرمتِ کرامت پر دلیل قائم نہ ہو اسے جائز و مباح مانا جائے کہ اصل یہی ہے۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ :-

صحابہ و تابعین کو اعلیٰ کلمۃ اللہ محافظتِ اصولِ ایمان، اشاعتِ فرائضِ اسلام وغیرہ امورِ کلیہ ہمہ سے فرصت نہ تھی، لہذا یہ امور جزئیہ مستحبہ تو کیا معنی، قواعدِ اصول کی تائیس اور جزئیات و فروع کی تفریح، اہل حق کے لیے دلائل کی تدوین، اہل بدعت کے شبہات کی تردید وغیرہ امورِ عظیمہ کی طرف بھی توجہ کامل نہ فرما سکے۔ جب بفضل اللہ تعالیٰ ان کے زورِ بازو نے، دینِ الہی کی بنیاد مستحکم کر دی اور دور و نزدیک کے ممالک و بلاد میں ملتِ حقیقہ کی جڑ جم گئی، اُس وقت ائمہ و علمائے مابعد نے، سخت و سخت سازگار پاکر، یخ و بنِ جمانے والوں کی ہمتِ بلند کے قدم لیے، اور باغبانِ حقیقی کے فضل پر تکیہ کر کے اہم فالاہم کاموں میں مشغول ہوئے۔ فکرِ صائب نے زمینِ تدقیق میں نہریں کھودی، ذہنِ رواں نے زلالِ تحقیق کی ندیاں بہائیں۔ یہی خواہانِ دین و ملت نے عطرِ باریاں فرمائیں۔ یہاں تک کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ، ہر امھرا، پھولا پھولا لہلہاتا اور اس کے بھینے پھولوں، سہانے پتوں نے چشم و کام و دماغ پر عجب ناز سے احسان فرمایا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اب اگر کوئی جاہل اعتراض کرے کہ یہ کنجیاں جو اب پھولیں، جب کہاں تھیں۔ یہ پتیاں جو اب نکلیں، پہلے کیوں نہاں تھیں۔ یہ پتلی پتلی ڈالیاں جو اب جھومتی ہیں، نوپیدا ہیں، یہ ننھی ننھی کلیاں جو اب مہکتی ہیں، تازہ جلوہ نما ہیں، اگر ان میں کوئی خوبی پاتے تو اگلے کیوں چھوڑ جاتے؟ تو اس کی حماقت پر اس الہی باغ کا ایک ایک پھول، قہقہہ لگائے گا کہ او جاہل! اگلوں کو جڑ جمانے کی فکر تھی، وہ فرصت پاتے تو یہ سب کچھ کر دکھاتے۔ آخر اس سفاہت کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ نادان اس باغ کے پھل پھول سے محروم رہے گا۔ مہلا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک حکیم فرزانہ عاقل زمانہ کے گھر آگ لگی۔ اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے، مہولے بالے، اندر مکان کے، گھر گئے اور لاکھوں روپوں

کا مال و اسباب بھی تھا۔ اس دانشمند نے مال کی طرف مطلق خیال نہ کیا۔ اپنی جان پر کھیل کر، بچوں کو سلامت نکال لیا۔ یہ واقعہ چند بے ضرر، عقل سے بیگانے، بھی دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً ان کے یہاں بھی آگ لگی۔ یہاں نہ مال ہی مال تھا۔ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ اور سارا مال خاکستر ہو گیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ مہلا تم نے مال و اسباب کیوں جلنے دیا۔ تو بولے کہ تم احمق ہو۔ ہم اُس حکیم و دانشور کی آنکھیں دیکھنے ہوئے ہیں۔ اُس کے گھر آگ لگی تھی تو اُس نے مال کب نکالا تھا جو ہم نکالتے۔ مگر بے وقوف اتنا نہ سمجھے کہ اُس ادلی العزم حکیم کی پوری توجہ بہر طرف مھیلی ہوئی آگ اور بڑھتے ہوئے شعلوں کی طرف تھی۔ بچے خطروں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کی حفاظت اہم تھی۔ اُسے بچوں کے بچانے سے فرصت کہاں تھی کہ مال نکالتا۔ نہ یہ کہ اُس نے مال کی حفاظت اور مال کا نکالنا برا جان کر چھوڑ دیا تھا۔

یہی بد حال اس نوپید فرقہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ قرونِ ثلاثہ میں ہمدرد سالت و زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھا، سب منع ہے، سب بدعت ہے، سب کو چھوڑنا، سب سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ عقل کے پورے، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جب قرآن و حدیث، ہر کارِ خیر کے ایجاد کی اجازت دے رہے ہیں تو تم اُس سے روکنے والے کون ہوتے ہو۔ خصوصاً جب کہ تم خود صبح سے شام ایسے اعمال اور افعال کے از کتاب میں گزارتے ہو جو قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے۔ کیا تمہارے نام کوئی پروانہ رہائی آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سی اوندھی سمجھ کسی کو نہ دے۔



توجہ طلب گزارش

اور اب ہم ان گزارشات کے بعد رجوع ہوتے ہیں۔ "فیصلہ ہفت مسئلہ" کی تشریح و توضیح اور اس کے مضامین عالیہ کی تہذیب و تہذیب کی جانب مگر یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ رسالہ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ جو پہلی مرتبہ ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۹۴ء میں، مطبع نظامی کانپور سے شائع ہوا اور پھر اس کی اشاعت و طباعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت ہمارے روبرو "سعید کمپنی۔ ادب منزل۔ پاکستان چوک کراچی" کا شائع کردہ، اور ایجوکیشنل پریس کراچی کا مطبوعہ، ایک نسخہ موجود ہے۔ جس کا آغاز مندرجہ ذیل کلمات سے ہوا ہے:-

عکسی پہلا سعید کمپنی ایڈیشن۔ جنوری ۱۹۶۶ء۔ تعداد ایک ہزار

فیصلہ ہفت مسئلہ

از افادات منہج الفيوض والبرکات۔ امام العارفين في زمانه۔ مقدم المحققين في اوانه
سيدنا و مولانا الحافظ الحاج الشاه محمد امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ

ہمارا مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ یہ رسالہ صرف شاہ صاحب کی جانب منسوب نہیں کہ ان کے متوسلین اپنا دامن بچا جائیں۔ بلکہ یہ خود انہیں کی تصنیف لطیف ہے جسے ان کے معتقدین بھی تسلیم کرتے آئے ہیں۔ ناظرین کی سہولت کے لیے ہم نے اصل رسالہ "چار خطوط" میں مقید کر دیا ہے۔ اور تشریح و توضیح کو بالترتیب ہندسوں میں محدود۔



فیصلہ ہفت مسئلہ

از افادات

منع الجود والبرکات۔ امام العارفين في زمانہ۔ مقدم المحققين في اوانہ
سیدنا مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ مہاجر کی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔
مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔
وَتَشْهَدَانِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدَانِ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ط

اما بعد فقیر امداد اللہ الحنفی اچشتی، عموماً سب مسلمانوں کی خدمت
میں خصوصاً اپنے متوسلین سے (جو اس فقیر سے ربط و تعلق اور سلسلہ
بیعت رکھتے ہیں، عرض رہا ہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ باہمی
اتفاق، باعث برکات دنیوی و دینی،

۱۔ چنانچہ قرآن کریم گواہ ہے کہ اُمت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت
ہے اور فلاح و اربین کی موجب۔ اور فلاح کے اس عموم میں شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی
ہر قسم کی فلاح داخل ہے۔ اور یہ فلاح اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ مسلمان دو قالب
یک جان ہو کر اقامت دین میں کوشاں رہیں اور تفرقہ و اختلاف سے کلینت پر سہم کریں۔
طریقۃ المسلمین، مذہب اہلسنت و جماعت ہے۔ اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرنا دین

میں تفریق اور ممنوع ہے۔ مسلمان خوب یاد رکھیں کہ اتحاد بین المسلمین ایک عظیم نعمت
بیش بہاد دولت ہے لیکن جس اتحاد کی بنیاد، نفاق اور ذاتی مفاد پر ہو۔ اُس کا حشر معلوم

و مشاہد ہے ۱۲

اور نا اتفاقی، موجب مضرت دنیوی و دینی ہے۔ اور آج کل بعض مسائل^۳
فرعیہ میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شر اور
دقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو
رہا ہے۔ حالانکہ اکثر امور میں محض نزع لفظی ہے اور مقصود متحد۔

۳ قرآن کریم نے ان تمام مضرتوں کو صرف دو لفظوں میں سمودیا ہے۔ فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِجْكَكُمْ۔ پھر تم بزدلی کرو گے۔ کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری بندگی
ہوئی ہو جاتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی تنازع ضعف کمزوری
اور بے وقاری کا سبب ہے۔ انتشارِ قوت اور نا اتفاقی کا لازمی نتیجہ ہمتی ہے
اور حیبِ ہمتی غلبہ پالے تو اُس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رعب و اب
اُن کی یک دلی، یک جہتی اور یک رنگی کی بنا پر چھپا ہوا رہتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔
اور گروہ پیش ہیں ناگوار حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور باہمی نزاع سے محفوظ
رہنے کی تدبیر خدا و رسول کی فرمانبرداری اور دین و شریعت کا سچا اتباع ہے۔ یہی وہ
رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق، اللہ و رسول سے قائم کرتا ہے اور دوسری
طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ دین و شریعت ہی اللہ
کی مضبوط رستی ہے اور اس رستی کو "مضبوط پکڑے رہنے کا جو حکم قرآن نے دیا ہے
اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو۔ اس کی
اقامت میں کوشاں رہیں اور اسی کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں ۱۳

سے جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں، ان سب کو ماننے، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے دائرہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سب کو تصریحات نبوی کے مطابق و ماتحت ہونا ضروری ہے۔ کسی اور راہ سے آیا ہوا علم، اس دائرہ ایمان میں نامقبول ہے۔ ایمان کی کیفیت نفسی، شک، ریب، تردد اور تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ شک و تردد کے برعکس، ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان، قلب کو الشراح، اور روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ ایمان کے بغیر، دل میں بے کلی اور بے چینی ہی رہتی ہے، جب کہ ایمان والے کو سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ کہ وہ ہڑا آسرا اور مضبوط سہارا رکھتا ہے۔

اب اگر کوئی کلمہ گو، شریعت اسلامیہ کی حقانیت اور اس کی عالمگیر روحانیت کا نوزبان سے اقرار کرے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی جو تشریح فرمائی ہے، ان تشریحات کی تصدیق سے دامن بچائے۔ تصریحات نبوی کو ایمان کی جان نہ جانے، یا اس کے دل میں الشراح و انبساط کی بجائے، کدورت و تنگی آئے۔ یا اپنے دل و دماغ میں ایقان و یقین کی جگہ تردد و تذبذب کو جاگزیں پائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے ایمان سے قطعاً محروم ہے۔ تو ایسے منکر اسلام سے مسلمان اپنے دل و دماغ میں نفرت پائیں اور اس سے علی الاعلان اپنی تبری و برائت کا اعلان کریں اور اسے اسلام کا باغی بتائیں تو اس اختلاف کو مسائل فرعیہ کا نام، بہرگز نہ دیا جائے گا۔ بلکہ یہ اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف کہلائے گا۔ ۱۶۔

اسے یوں سمجھئے کہ مثلاً خدائے قدوس کا سچا رسول فرمائے کہ کلمہ گو فرقوں میں صرف ایک ناجی ہے باقی سب نارہی۔ اور ایک فرقہ کہے کہ سب فرقوں سے خدا راضی ہے، سب حق پر ہیں۔ سب حق پرست ہیں۔ یا خدا کا محبوب رسول فرمائے کہ سوادِ اعظم کا اتباع ضرور ہے مگر ایک گروہ کہے کہ ہر شخص اپنی سمجھ پہ مکلف ہے۔ ہر شخص کو خدا اس کی سمجھ پر جواب دے گا۔ یا خدا و رسول فرمائیں کہ

اسلام کے لیے ہمارے تمام ارشادات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مگر ایک طاغفہ، اسلامی اصول، اسلامی ضروریات، کائنات چھانٹ کر صرف کلمہ گوئی یا قبلہ روئی پر بنا رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صراحتہً خدا و رسول کی مخالفت اور اسلام میں رخنہ اندازی ہے۔ تو اسے نزاع لفظی کا نام دینا بالبدایت باطل ہے۔

کون نہیں جانتا کہ محض صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے موافق، صحابہ کرام و تابعین عظام کے دور میں بہت سے نئے نئے فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں میں سے جس نے ضروریات دین کا انکار کیا وہ باوجود کلمہ گوئی کافر و مرتد قرار پائے۔ جیسے فریضیت زکوٰۃ کے منکر۔ اور جس نے ائمہ دین کے عقائد حقہ کا انکار کیا، انہیں اگرچہ کافر نہ کہا گیا، تاہم ان کی گمراہی و ضلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا ان سے مسلمانوں کے اختلاف کو بھی، مسلمانوں میں نزاع لفظی نہیں کہا جاسکتا۔

نزاع لفظی یہ ہے کہ دو متخالف افراد یا فرقوں کا اصل مقصود میں کوئی اختلاف نہیں۔ مقصود دونوں کا ایک بمنزل دونوں کی ایک۔ بمعنی و مفہوم ایک صرف الفاظ، جداگانہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ گمراہ فرقوں کا مقصود، جمہور اہل اسلام کے قطعاً خلاف ہے تو اس اختلاف دینی و ایمانی کو نزاع لفظی سے تعبیر کرنا ہرگز معتبر نہ ہوگا۔ اور یہ شاہ صاحب کا مقصود ہے۔ ۱۲۔

پھر نزاع لفظی کی فی الجملہ توجیہ صرف انہیں مسائل میں دخل انداز ہو سکتی ہے جو خود علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ رہے اور ہم بتا چکے کہ ان میں کسی طرف تکفیر و تضلیل ممکن نہیں۔ فریقین میں سے کسی فریق کو کافر و گمراہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں، کسی قول کو راجح جانے، دوسرے قول پر، دوسرے کے قول پر اسے ترجیح دے۔ خواہ تحقیقاً یعنی دلیل سے اُسے وہی مَرَجَّح و قابل ترجیح نظر آیا اور اُس نے اسے اختیار کیا۔ خواہ تقلیداً کہ اُسے اپنے نزدیک اکثر علماء یا اپنے معتمد علیہم (جن پر اسے اعتماد ہے) اُن کا قول پایا۔ تو ایسے مسائل میں کسی ایک فریق کے قول پر کاربند و عامل قطعاً سستی صحیح العقیدہ ہے۔ مگر لیلائے نجد کے شیدائی، اور اُس کی عشوہ طرازوں کے فدائی، کہ

اس کا نقاب اُلٹتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اُس کے مصنوعی جلوہ زیبائی پر مر مٹے اور جو اُس نے کہا، اُس پر آمنا و صدقنا کر بیٹھے، شاہ صاحب کا دامن، ان کی حمایت سے ہرگز ہرگز ملوث نہیں۔ اور نہ اُس جناب پر کوئی الزام۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متوسلین کا صرف وہ رُخ دیکھا جو بجا ل عقیدت و محبت ان کی جانب اُٹھا۔ اُس رُخ کی جانب توجہ نہ فرمائی جو وہاں بیت و نجدیت کی ترویج و اشاعت میں ادھر پشت کئے، اپنے قبلہ مرادات و کعبہ حاجات معتکفان صمدیہ نجد کو ٹھکھی باندھے غلام بیدام کی مانند تک رہا تھا اور مسلسل تکے جا رہا تھا۔ ورنہ متوسلین کو اپنے شیخ کے خلاف کوئی راہ نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چونکہ عموماً مسلمانوں کی، اور خصوصاً اپنے تعلق والوں کی یہ حالت دیکھ کر نہایت صدمہ ہوتا ہے۔ اس بے فقیر کے دل میں آیا کہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصر سا مضمون قلم بند کر کے شائع کر دیا جائے۔ امید قوی ہے کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جائے۔ ہر چند کہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں۔ مگر فقیر نے ان ہی مسائل کو لیا، جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تھے۔ دو وجہ سے۔ اول تو کثرت اختلاف اس درجہ پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ دوسرے ہر شخص سے امید قبول نہیں۔ اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاً وہ محدود۔ دوسرے امید قبول غالب۔

ہے افسوس صد ہزار افسوس کہ شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے متوسلین نے حضرت شاہ صاحب کی اس خواہش کا ذرا پاس نہ کیا۔ اور انہیں اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کی تقلید میں لیلائے نجد پہ کچھ ایسا پیار آیا کہ اس کی محبت میں سچے مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرایا۔ اور خوارج کی طرح جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بدترین خلق اللہ

جانتے، انہوں نے بھی وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اُتریں اُٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیں۔ علامہ طاہر پرچمت غافر کہ مجمع سجاد الانوار میں قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کر کے فرماتے ہیں قال المذنب تاب الله عليه واشتر منه من يجعل آيات الله في شر امر اليهود على علماء الامم المعصومة والمرحومة طهر الله الارض عن مرجسهم۔ یعنی ان خارجیوں سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ ان شرار یہود کے حق میں جو آیتیں اُتریں، انھیں اُمت محفوظہ مرحومہ کے علماء پر ڈھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ان کی خیانت سے پاک کرے۔ آمین

علامہ فہامہ خاتمہ المحققین مولانا امین الدین محمد بن عابدین شامی قدس سرہ السامی ردالمحتار حاشیہ درمختار کی جلد ثالث، کتاب الجہاد، باب البغاة میں زیر بیان حوارج فرماتے ہیں۔ "كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم هم مشركون واستحبوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علماءهم الخ

یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان عبد الوهاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حرمین طیبین پر تغلب کیا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو جہلی تھے مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت و علمائے اہلسنت کا قتل مباح ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ ان کے شہر ویران کئے اور لشکر مسلمین کو ان پر فتح بخشی ۱۲۳۳ھ میں۔ والحمد لله رب العالمین۔

تقویت الایمان، مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی اسی ابن عبد الوهاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ و خلاصہ بلکہ کہنا چاہیے کہ چرچہ ہے اور یہ کتاب الخوام و خواص دیوبند میں وہ مقام رکھتی ہے کہ باید و شاید۔ خود گنگوہی صاحب نے ٹھنڈے جی سے اس کا مرتبہ گویا قرآن سے بڑھا دیا اور صاف لکھا کہ "تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے۔"

اس کار کھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام ہے۔ مسلمانو! اس غلو شدید کو تو دیکھو کہ بزرگم خود اس ناپاک کتاب کو قرآن عظیم سے بھی بڑھا دیا۔ کہ جو بات عین اسلام ہو، وہ نہ ہوئی تو اسلام نہ رہا۔ کفر ہو گیا۔ کہ عین کی نفی، ضد کا اثبات ہے۔ قرآن کریم کا ماننا عین اسلام ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مگر اُس کا نہ رکھنا، یا نہ پڑھنا، یا عمل نہ کرنا، کفر نہیں۔ لیکن تقویت الایمان میں یہ ساری باتیں کفر ہیں کہ جو اسے پاس نہ رکھے کافر۔ جو نہ پڑھے کافر، جو اس پر عمل نہ کرنے کافر۔ کہ اُس نے عین اسلام چھوڑا۔

مسلمانو! غور کرو کہ جب تک تقویت الایمان تصنیف نہ ہوئی تھی۔ گنگوہی صاحب کے نزدیک صحابہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک کسی کو اسلام نصیب نہ ہوا کہ عین اسلام سے سب محروم تھے۔

یوں نظر دوڑے نہ بڑھی تان کہ

اپنے بیگانے ذرا پہچان کہ

ہر مسلمان اور یہ حضرات خود بھی جانتے ہیں کہ تمام بلادِ اسلامیہ میں امتِ مرحومہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں آدمی اس نئے مذہب سے منترہ و برہی ہیں۔ اس کے نام لیوا پہی معدودے ہندی و نجدی ہیں۔ الحاصل اس باب میں ہم شاہ صاحب پر کوئی بیجا حمایت کا الزام نہیں دیتے۔ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی جماعت کے لیے فرمایا اور یہ کب کے ان کی جماعت سے نکل چکے۔ فالی اللہ المشتکی و علی التکان۔

پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیل قال ہے سات ہیں۔
پانچ عملی، دو علمی۔ ترتیب بیان میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے زیادہ گفتگو ہے، ان کو مقدم رکھا۔ جس میں اُس سے کم ہے اُس کے بعد علیٰ ہذا القیاس۔ اور اپنا مشرب اور ایسے مسائل میں جو عملدرآمد مناسب

نیز لکھ دیا۔ حق تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تحریر باعثِ رفعِ فساد باہمی ہو جاوے اور حضرات بھی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعا سے یاد فرمائیں۔ اور کوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصود میرا مناظرہ کرنا نہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

۱۔ پانچ عملی یعنی میلاد شریف - فائزہ مروجہ - عرس و سماع - ندائے غیر اللہ اور جہاد
ثانیہ - اور دو علمی - امکانِ نظیر و امکانِ کذب -
اور اس فیصلہ ہفت مسئلہ پر یہ حواشی، حاشا و کلام اس تحریر کا جواب نہیں کہ وہ تو ہمارے حق ہیں، ہمارے ہی لیے ہیں۔ پھر کہاں یہ فقیر بے توقیر، پچھداں و پچھیرا، اور کہاں شاہ صاحب کی شخصیت والا منقبت بلکہ مقصود اس وابستہ سلسلہ ساداتِ برکات کا، ان مضامین و عبارات کی توضیح و تشریح ہے جو حضرت شاہ صاحب نے ارقام فرمائے۔ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والے اگر غور و انصاف سے پڑھیں گے تو امید و اثق ہے کہ ان کا دل ان کی غلط روی پر انہیں تپتہ کمرے کا اور وہ حق کی طرف واپس آئیں گے و هو المراد - ورنہ عوام اہلسنت تو اپنے مذہب حق پر گامزن رہیں گے اور کسی کے بہکانے میں نہ آئیں گے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

پہلا سئلہ ○ مولود شریف

اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت
فخر آدم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیوی
و اخروی ہے۔

نعمہ اور کیوں کہ کلام ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعمتہ اللہ میں۔
قرآن کریم نے ان کا نام نعمتہ اللہ رکھا۔ إِنَّ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا
وَلِهَذَا ان کی تشریف آوری کا تذکرہ، امثال امر الہی اور تعمیل ارشاد خداوندی ہے۔
قال تعالیٰ واما بنعمتہ ربک فحدیث۔ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔
یہی تشریف آوری ہے جس کے طفیل دنیا قبر حشر بزدخ آخرت، عرض ہر وقت
بہر چمک، بہر آن، نعمت ظاہر و باطن سے ہمارا ایک ایک رونگٹا متمتع اور پہرہ مند
ہے اور ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا
مجلس میلاد میں ہوتا ہے مجلس میلاد آخر وہی کثے ہے جس کا حکم رب العزت دے
رہا ہے۔ واما بنعمتہ ربک فحدیث۔ اور خود احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ
امام اجل فقیہ محدث ابواللیث سمرقندی تہذیبہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ جب سورہ
اذا جاء نصر اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال شریف میں
نازل ہوئی، حضور فوراً برآمد ہوئے۔ پنجشنبہ کا دن تھا۔ منبر پر جلوس فرمایا۔ بلال رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں نہ آکر دو۔ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت

سننے چلو۔ یہ آواز سنتے ہی سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ گھروں کے دروازے ویسے ہی کھلے چھوڑ دیئے۔ یہاں تک کہ کنواریاں پردوں سے نکل آئیں۔ حدیہ کہ مسجد شریف حاضرین پر تنگ ہوئی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ اپنے پچھلوں کے لیے جگہ وسیع کرو۔ اپنے پچھلوں کے لیے جگہ وسیع کرو۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم منبر اطہر پر قیام فرما کر حمد و ثناۓ الہی بجالائے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجا۔ پھر ارشاد ہوا۔ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، عربی صاحب حرم محترم مکہ معظمہ ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں (مختصراً)

اللہ اللہ ایک وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے۔ زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدا اٹھ گونج رہی ہیں۔ خوشی و شادمانی ہے کہ دیوار و در سے ٹپکی پڑتی ہے۔ مدینے کے ایک ایک بچہ دکھتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے۔ باچھیں کھلی پڑتی ہیں۔ دل میں کہ سینوں میں نہیں سماتے۔ سینوں پر جلمے تنگ۔ جاموں میں قبائے گل رنگ۔ نور ہے کہ جھماجم برس رہا ہے۔ فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے۔ پردہ نشین کنواریاں، شوق و دیدار محبوب کر دگر ہیں گاتی ہوئی باہرائی نہیں کہ:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ !

بنی النجار کی لڑکیاں، کوچے کوچے کو نعمت سہرائی ہیں کہ:

نَحْنُ جَوَارِمٌ مِنْ بَنِي النَّجَارِ
يَا حَبِّبَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ جَارِمِ

ایک دن آج ہے کہ اس محبوب کی رخصت ہے۔ مجلس آخری وصیت ہے۔ مجمع تو آج بھی وہی ہے۔ بچوں سے بوڑھوں تک۔ مردوں سے پردہ نشینوں تک۔ سب کا ہجوم ہے۔ نڈائے بلال سنتے ہی چھوٹے بڑے، سینوں سے دل کی طرح بیتابانہ نکلے ہیں۔ شہر بھرنے مکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ دیئے ہیں۔ دل کلائے چہرے مڑھائے۔ دن کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے۔ کہ آفتاب جہاں تاب کی وداع نزدیک

ہے۔ آسمان پڑمردہ۔ زمین افسردہ۔ جدھر دیکھو سناٹے کا عالم۔ اتنا اڑدھام اور
ہو کا مقام۔ آخری نگاہیں اُس محبوب کے رُوئے حق نما تک، کس حسرت و یاس کے
ساتھ جاتی، اور ضعفِ نومیذی سے ہلکان ہو کر، بچو دانہ قدموں پر گر جاتی ہیں۔ فرط
ادب سے لب بند۔ مگر دل کے دھوئیں سے یہ صدا بلند، کہ

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاطِرِي فَعَمِي عَلَيْكَ النَّاطِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلِمْتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُذَا ذِمَا!

تو میری آنکھ کی پتلی تھا۔ اب تجھ پر آنکھ بند ہوئی، تو جو چاہے تیرے
بعد مر جائے۔ میں تجھ ہی پر ڈرتا تھا۔

اللہ کا محبوب، امت کا راعی، کس پیار کی نظر سے، اپنی پالی ہوئی بکریوں
کو دیکھتا، اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظِ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے۔ شانِ
رحمت کو اُن کی جُدائی کا نم بھی ہے۔ اور فوج فوج امنڈتے ہوئے آنے والوں کی
خوشی بھی۔ کہ محنت ٹھکانے لگی۔ جس خدمت کو ملک العرش نے بھیجا تھا وہ باحسن
الوجہ، انجام کو پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو برس، وہ سخت مشقت
اور صرف پچاس شخصوں کو ہدایت۔ یہاں بائیس تیس ہی سال میں، بچہ اللہ پر روز افزوں
کثرت، کینز و غلام، جوق در جوق آرہے ہیں۔ جگہ بار بار تنگ ہوتی جاتی ہے۔
و فعة ارشاد ہوتا ہے۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ آنے والوں کو جگہ دو۔ اس دعوتِ عام
پر حجب یہ مجمع ہو لیا ہے۔ سلطانِ عالم نے منبرِ اکرم پر قیام کیا ہے۔ بعد حمد و صلوة
اپنے نسب، دنام و قوم و مقام فضائلِ عظام کا بیان ارشاد ہوا ہے۔

مسلمانو! خدارا۔ پھر مجلسِ میلاد اور کیا ہے۔ وہی دعوتِ عام۔ وہی مجمعِ تام۔
وہی منبر و قیام۔ وہی بیانِ فضائلِ سید الانام۔ علیہ و علیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام
مجلسِ میلاد اور کس شے کا نام۔ مگر نجدی صاحبوں کو ذکرِ محبوب مٹانے سے کام،

وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ وَبِالْاِعْتِصَامِ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ

(افادات امام احمد رضا)

مجلس میلاد مبارک کی حقیقت، مجمع المسلمین کو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری و فضائلِ جلیلیہ و کمالاتِ جمیلیہ کا ذکر سنانا ہے۔ بند یارِ رقعہ بانٹنا، یا طعام و شیرینی کی تقسیم اُس کا جزو حقیقت نہیں کہ ان کے بغیر، محفل مبارک کا انعقاد ممکن و متصور ہی نہ ہو۔ ہاں ان میں کوئی چیز حرام بھی نہیں۔ نہ ان میں کچھ حرم۔ نہ دنیا و آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ و گرفت۔ اول دعوت الی الخیر ہے یعنی ایک امر خیر کی دعوت یعنی اُس کا بُلاوا۔ اور دعوت الی الخیر بے شک خیر، اور موجب خیر و برکت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ - اُس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے! اور دوم یعنی اطعام طعام یا تقسیم شیرینی تو بڑا صلہ و احسان و صدقہ نافعہ ہے۔ اور یہ تمام امور نہ صرف یہ کہ شرعاً محمود و محبوب ہیں بلکہ مطلوب ہیں۔

میلاد و تشریف، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سلفِ صالحین سے اب تک ایک ہیئتِ مخصوصہ کے ساتھ باذن اللہ تعالیٰ رائج اور شعارِ اہلسنت ہے۔ پھر حضور اکرم، عالم اعلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و مجد و کرم کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ شفا شریف میں ابن عطاء سے ہے جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِمَّنْ ذَكَرْتَنِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرْتَنِي۔ بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ کی یاد، عینِ خدا کی یاد ہے کہ ان کی یاد ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ معہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان مجالس و محافل میں یونہی ہوتی ہے کہ حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مراتب بخشے۔ یہ کمال عطا فرمائے۔ اب چاہیے اسے نعت سمجھ لو۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جنہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے درجے دیئے۔ اُس وقت یہ کلام آیت کریمہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط کی قبیل سے ہو گا اور بلاشبہ محمود رہے گا۔ چاہے حمد سمجھ لو۔ یعنی ہمارا مالک ایسا ہے جس نے اپنے محبوب کو یہ رتبے بخشے۔ اُس وقت یہ کلام آیت کریمہ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ وَآيَةُ كَرِيمٍ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

کے طور پر ہو جائے گا۔ اور بلا ریب محبوب رہے گا۔ پھر دو صورت یہ سنت الہی کی پیروی اور آیات قرآنیہ کے احکام کی تعمیل ہوگی۔

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ذکر الہی ہے۔ اور ذکر الہی سے زیادہ باعث خیر و برکت اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اہل دل کا ایمان، ایمان کی جان، جان کی روح رواں یہی مبارک ذکر سید الانس و الجن ہے اور شرعاً محمود و محبوب و مطلوب۔ اور جب ایک بات شرعاً محمود ہے تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود رہے گی تا وقتیکہ کسی صورت خاصہ کی ممانعت، خاص شرع سے نہ آجائے مثلاً پاخانہ میں بیٹھ کر زبان سے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کرنا ممنوع ہوگا۔ کہ اس خاص صورت کی بُرائی شرع سے ثابت ہے۔

اور چونکہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس تمام نعمتوں کی اصل ہے تو اس کے خوب بیان اور اظہار کا نص قطعاً قرآن سے ہیں حکم ہوا۔ اور بیان و اظہار مجمع مسلمان میں بخوبی، اور زیادہ موجب خیرات و برکات ہوگا۔ تو تقاضائے محبت اور مصلحت شرعی یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے لوگ جمع کئے جائیں اور انہیں ذکر ولادت باسعادت سنایا جائے۔ اسی کا نام مجلس میلاد ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جہاں مجلس ذکر شریف ہوتی ہے ملائکہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مطلوب ہے۔ پھر وہاں سے آسمان تک چھا جاتے ہیں مسلمان دنیا کی مٹھائی بانٹتے ہیں ادھر سے رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی ایسی عام کہ ناستحق کو بھی حصہ دیتے ہیں۔ **هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ** ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت و ناصراد نہیں رہتا۔

اور یہ حدیث مبارک وہ حدیث مبارک ہے جسے مانعین ذکر ولادت شریف بھی اپنی محفلوں اپنی مجلسوں اور اپنی نشستوں میں عوام المسلمین کو بلانے کے لیے پڑھتے اور سناتے ہیں۔ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ان پر رحمت چھا جاتی

ہے۔ اور فرشتے انہیں اپنے گہرے میں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ملائکہ مقربین میں فرماتا ہے:

مسلمانو! تمہیں اور کیا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات - بڑھو اور اپنی
خالی جھولیاں بھرو۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

صرف کلام بعض تعینیات و تخصیصات و تقیدات میں ہے۔ جن میں
بڑا امر قیام ہے۔ بعض علماء ان امور کو منع کرتے ہیں لقولہ علیہ
السلام کل بدعتا منلالۃ۔ اور اکثر علماء اجازت دیتے ہیں
علی اطلاق دلائل فضیلتہ الذکر

یہ فعل مبارک اعنی قیام، وقت ذکر و لاوت حضور خیر الانام علیہ و علی آلہ افضل
الصلوٰۃ والسلام، صدہا سال سے ممالک اسلامیہ میں رائج و معمول اور اکابر ائمہ و
علمائے مقرر و مقبول ہے اور شرع میں خاص اس فعل سے ممانعت منقودہ اور
جب تک شرع ممانعت نہ فرمائے کسی اور کا اس سے منع کرنا مردود ہے خصوصاً
جیکہ عربین طیبین، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے مبداء و مرجع دین و ایمان ہیں۔ وہاں کے
اکابر علماء کرام اور چاروں مذاہب کے مفتیان ذوی الاحترام، مدتہا مدت سے اس
فعل کے فاعل و عامل اور قائل و قابل رہے ہیں اور ائمہ معتدین نے اسے حرام
و ناجائز و بدعت ثبوتیہ کیسا؟ بلاشبہ مستحب و مستحسن ٹھہرایا۔ اور جب اس
مجلس و قیام کو عرب و عجم، مصر و شام، روم و اندلس اور دوسرے دیار و ممالک
اسلام کے علماء معتدین نے سلف سے آج تک مستحسن جانا، تو اس کے جواز و استحباب
پر اجماع ہو گیا۔ اور جو امر اجماع امت سے ثابت ہو وہ حق ہے۔ گمراہی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں
کرتی۔ نیز ارشاد فرمایا اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا کہ

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

”جس چیز کو مسلمان نیک اعتقاد کریں وہ خدا کے نزدیک نیک ہے“
اسی لیے علمائے کرام نے محفل میلاد شریف میں قیام کے اثبات کے بعد ارشاد فرمایا
کہ ان امور کا انکار وہی کرے گا جو بدعتی ہوگا۔ اس کی بات سننا نہ چاہیے۔ بلکہ
حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اُسے سزا دے۔“

اگر تھوڑی دیر ہم ان تقریحات جلیلہ سے جو علمائے اعلام کثر ہم اللہ تعالیٰ نے
اپنی اپنی کتابوں اور فتاویٰ میں تحریر فرمائیں اور جسے علمائے مابعد نے مقبول و معتبر
جانا مانا، صرف نظر کر لیں۔ اور سمجھ لیں کہ یہ فعل قیام، ازمنہ ماضیہ، ادوار گذشتہ
میں رائج و معمول نہ تھا۔ اب رائج ہوا، تو بھی اس کے ممنوع نہ جاننا ہونے پر دلیل
شرعی پیش کرنا، معترضین و مانعین کے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ مسلمانان اہلسنت
و جماعت تو خوب جانتے ہیں کہ ہر فعل مباح، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ادب و تعظیم، اجلال و تکریم کا مشعر ہو۔ اور اس کے مراد مقصود، تعظیم و تکریم ہو،
حضور اقدس سید اکرم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضرورت مستحسن ہے۔
مستحب ہے۔ موجب خیر و بہ کات اور ثواب اخروی کا باعث ہے۔ ہاں ہمارا
عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ احکام قرآن و حدیث پر مبنی ہے کہ نبی اکرم و اعظم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعظیم، ان تمام طرق و انواع تعظیم کے ساتھ، جن میں خدا سے، خدائی
میں شرکت نہ پائی جائے۔ بشرعاً محمود و محبوب اور مستحسن و مطلوب ہے۔ مگر
یہ مرتبہ اہل بصارت و بصیرت کا ہے۔ اور جو دیدہ بینا و گوش شنوا سے محروم ہیں
وہ اس جلالت شان روح ایمان و جان ایمان کو کیا جانیں۔

الحاصل یہ کہ ہر سال سے جمہور علماء کرام و فقہاء اعلام اور محدثین دائم
مستعدین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر ولادت نبی اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت
قیام فرمایا، اسے مقبول رکھا۔ اسے مستحسن جاننا اور اسے باعث خیر و بہ کات سمجھنا
اور سال ہا سال سے دنیا کے اسلام میں، بلاد عرب و عجم میں، خواص و عوام کا یہی

معمول چلا آ رہا ہے۔ اور بنا بریں اسے شعارِ اہلسنت و جماعت سمجھا اور مانا جاتا ہے جس نے اہلسنت و جماعت کو، دوسرے گمراہ فرقوں سے ممتاز کیا اور کوئی مخالفت اس پر کوئی ممانعت شرعی کی کوئی سند پیش نہ کر سکا، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جسے خیارِ اہل اسلام نے حسن جانا اور مستحسن مانا۔ اور کوئی ممانعت شرعی چونکہ اس پر وارد نہیں۔ اس لیے وہ اللہ عزوجل کے نزدیک بھی حسن ہے۔ جیسا کہ مسند ابی داؤد طیالسی اور مقاصد حسنہ اور شیخ الاسلام علامہ سیدی احمد زینی دھلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرۃ النبویہ میں فرمایا۔ و کفی بدار و دوة کہ جرات العادة ان الناس اذا سمعوا ذکره و ضیوعہ صلی اللہ علیہ وسلم یقومون تعظیماً لہ صلی اللہ علیہ وسلم و قد فعل ذلك کثیر من علماء الامت الذین یقتدی بہم۔ یعنی عادت جاری ہو گئی ہے کہ لوگ جب ذکر ولادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضور اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قیام بہت بہتر و مستحسن ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اور بے شک امت کے عظیم رہنماؤں نے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ خود بھی ایسا کیا ہے۔ مگر وادی بدعت و ضلالت میں گم گشتہ راہوں کی نشروں میں نہ ان عظیم رہنماؤں کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ نہ ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم

محبت ۱۲۰

۹ یعنی ذکر ولادت نہ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کے وقت قیام کے جائز ہونے کی ایک دلیل، دوسرے اور دلائل کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت ہی مخصوصہ کے ساتھ ذکر خدا ہے۔ اور ذکر کی فضیلت پر کسی تعین و قید کے بغیر دلائل قائم ہیں۔ اور ذکر الہی کی خوبی شرع مطہر سے مطلقاً ثابت ہے۔ اور ہم ابھی ناظرین کو بتا چکے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بعینہ خدا کی یاد ہے۔ پس حکم اطلاق جس جس طریقہ سے ان کی یاد کی جائے گی۔ حسن و محمود ہی رہے گی۔ اور مجلس میلاد و صلوة

قبل اذان و بعد اذان، اور فراغ نماز کے بعد آیہ کریمہ کی قرأت سورہ فاتحہ کی تلاوت وغیرہ معمولاتِ مسلمین میں کسی خاص طریقے کے لیے ثبوتِ مطلق کے سوا، کسی نئے ثبوت کسی نئی سند، کسی نئی دلیل، کی ہرگز حاجت نہ ہوگی۔

اور اب سنئے ذکر الہی کی خوبی شرعِ مطہر سے کیونکہ مطلقاً ثابت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اذکروا اللہ ذکراً کثیراً۔ (خدا کو یاد کرو بہت یاد کرنا)۔ آیتِ کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ یہ یاد الہی کسی خاص وقت، کسی خاص ہیئت اور کسی خاص مقام کے ساتھ محدود و مقید اور مخصوص نہیں۔ لکھتے پڑھتے، بولتے چلتے، سوتے جاگتے، کھڑے بیٹھے، رضائے الہی کے حصول کے لیے، یاد الہی میں مصروف و مشغول رہنا، اور زندگی کے ہر معاملہ میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام زبان پر آتے رہنا، یہ سب ذکر الہی ہی کی صورتیں ہیں اور یہ چیز درحقیقت اسلامی زندگی کی جان بجا عبادتوں طاعتوں اور تمام دینی کاموں میں جان اسی ذکر سے پڑتی ہے۔ حیرت ہے کہ نجد یہ رسولِ خدا کے ذکر کو، ذکر الہی سے علیحدہ کرنے میں رات دن مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا دین و مذہب ہے۔ ۱۲

سنئے میلاد شریف اور بوقتِ ذکرِ ولادتِ حضور النور و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم قیام پر رد و انکار کرنے والوں کے اصاغرو اکابر، چھوٹے بڑے بیک زبان، قریب قریب یہی دلیل لاتے اور اسے اپنے نزدیک سندِ ممانعت ٹھہراتے ہیں کہ یہ فعلِ قرونِ ثلاثہ، یعنی صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں نہ تھا تو بدعتِ صنادلت ٹھہرا۔ کہ اس میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو وہی کہتے: "اس فعل اور اس کے سوا، ایسے ہی دوسرے امور نیز اعیب ہیں، ان منکرین و مانعین کی غایت سعی، انتہائی رسائی، اسی قدر، اسی حد تک ہے جس کی بنا پر اہلسنت و جماعت سوادِ اعظم ملت اور ہزاروں ائمہ شریعت و اجملہ طریقت کو معاذ اللہ بدعتی گمراہ ٹھہراتے ہیں اور مطلقاً خوفِ خدا و ترسِ روزِ جزا، دل میں نہیں لاتے۔ ان کی اس کج روی کا جواب خود شاہ صاحب کے کلام میں موجود ہے اور ان کے متوسلین کو خصوصاً اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلام ان کے شیخ کا ہے کہ یہ

ان کے ہم مذہب ہم مسلک اور ہم مشرب ہیں۔ اب بھی اپنے شیخ کی رنہ ماننا اور اپنے ہی گن گائے جانا، دنیا و آخرت دونوں میں تباہی و بربادی لانا اور دارین میں ذلیل و رسوا بنانا ہے۔

چند بنیادی امور

ہم اس مقام کی توضیح و تشریح میں چند امور بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔

۱۔ حضرات مانعین کا تمام طائفہ اس مرض میں گرفتار ہے کہ قرن و زمانہ حاکم شرعی ہے۔ یعنی جو نئی بات قرآن و حدیث میں باہیں ہیئت کذائی (اس صورت و ہیئت میں) مذکور نہیں، صراحتاً کہیں اُس کا ذکر نہیں، جب فلاں زمانہ میں ہو تو کچھ بُری نہیں اور فلاں زمانہ میں ہو تو ضلالت و گمراہی۔ حالانکہ شرعاً و عقلاً، کسی مرح زمانہ کو احکام شرعیات، یا کسی فعل کے حسن و قبح، اُس کے اچھا یا بُرا ہونے پر قابو نہیں۔ نیک بات کسی وقت میں ہو نیک ہے۔ اور بُرا کام کسی زمانے میں ہو بُرا ہے۔ آخر مصر کے بلوایتوں کا حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، میدانِ کربے بلا میں، قرأت کے کنارے نواسہ سول کا مہو کا پیاسا، ناخدا ترسوں کے نیزوں سے شہادت پانا۔ یزید پلید و غیرہ کے دور اقتدار میں مدینہ طیبہ و مکہ معظمہ میں الرزہ دینے والے واقعات کا روکنا ہونا، مارجیوں کی بدعتوں، رافضیوں کی شناختوں، ناصبیوں کی جہانتوں اور معتزلہ کی فرافتوں کا ظہور میں آنا۔ اسی طرح اور دوسرے امور شیعہ کے زمانہ صحابہ و تابعین میں حادث ہوئے۔ معاذ اللہ اس وجہ سے نیک و حسن نہیں ٹھہر سکتے کہ وہ قرون لائے ہیں حادث ہوئے۔ اور ہزار ہا امور حسنة کہ ان کے بعد شائع ہوئے وہ اس وجہ سے قبح و بد، نہیں کہے جاسکتے کہ قرون ثلاثہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ مثلاً خطبہ میں چاروں خلفائے کرام اور دونوں عم کریم کا ذکر فرمانا اور اذان کے بعد سید عالم

صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا۔ وغیرہا۔ تو اس کا مدار نفسِ فعل کے حُسن و قبح پر ہے۔ جس کام کی خوبی صراحتاً یا اشارتاً قرآن و حدیث سے ثابت وہ بے شک حُسن ہوگا۔ چاہے کہیں اور کسی دور میں واقع ہو۔ اور جس کام کی بُرائی تصریحاً یا تلویحاً شرع میں وارد ہو وہ بے شک قبیح ٹھہرے گا۔ خواہ کسی وقت کسی زمانہ میں حادث ہو۔ جمہور محققین ائمہ و علمائے اس قاعدہ کی تصریح فرمائی۔ اگرچہ منکرین براہِ سیدنہ زوری اسے نہ مانتیں۔

حکیم الامت حجتہ الحق والا سلام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمیائے سعادت میں یہ ارشاد ہی مصنف کے لیے کافی کہ ارشاد فرماتے ہیں اس ہمہ اگرچہ بدعت است و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اند، لیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید، کہ بسیاری بدعت نیکو باشد۔ بس بدعتیکہ مذموم است آنکہ مخالف سنت باشد۔ الحاصل صحابہ سے منقول نہ ہونا باعثِ ممانعت نہیں۔ بڑی تو وہ بدعت ہے جو کسی سنت مامور بہا کا رد کرے۔

اب مجلس میلاد و قیام بوقتِ ولادت وغیرہا میں تنازع ہوا، کی نسبت یہ کہنا کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے لہذا ممنوع ہیں۔ باطل ہو گیا۔ ہاں اس وقت ممنوع ہو سکتے ہیں۔ جب وہ کافی ثبوت دیں کہ خاص ان افعال میں شرعاً کوئی خرابی، کوئی بُرائی ہے۔ ورنہ اگر کسی مستحسن شرعی کے نیچے داخل ہیں تو محمود ہیں۔ اور کسی منکر شرعی کے تحت آتے ہیں تو مذموم و مذموم ہیں۔ اور بالقرض کسی کے نیچے داخل نہ ہوئے، کہ ہم نہ انہیں محمود کہہ سکتے ہیں اور نہ مذموم ٹھہرا سکتے ہیں تو مباح ہو کر محمود ٹھہریں گے کہ جو مباح، بہ نیت نیک کیا جائے وہ شرعاً محمود ہو جاتا ہے۔ کما فی البحر الرائق۔ وغیرہ

غرض ایسے افعال کی سند زمانہ صحابہ و تابعین سے مانگنا نادانی و جہالت ہے۔ یا وہی وہابیت کی لت۔ جس نے امتِ مرحومہ کو انتشار و افتراق کے فتنوں میں ڈال دیا ہے اور محبت و یگانگت، دلداری و یک رنگی کو خاک میں

اعلا دیا ہے۔
۲۔ بہت سی نئی باتیں کہ زمانہ پاک حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھیں۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں پیدا ہوئیں وہ انہیں برا کہتے اور نہایت شدت سے انکار فرماتے۔ اور بہت نازہ باتیں حادث ہوئیں کہ وہ ان کو بدعتِ محدث (نو پیدا) مانتے ہوئے خود کرتے اور لوگوں کو اجازت دیتے اور خیر و حسن بتاتے امیر المؤمنین فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں نعمت البدعة هذه۔ کیا اچھی بدعت ہے یہ۔

اور یہی طریقہ بعینہ زمانہ تابعین و تبع تابعین میں رائج رہا ہے کہ اپنے زمانے کی بعض نو پیدا چیزوں کو جائز رکھتے۔ بعض کو رد فرماتے۔ اور اس اجازت و منع کے لیے آخر کوئی معیار تھی۔ اور وہ نہ تھی مگر نفسِ فعل کی بھلائی بُرائی۔ تو باتفاق صحابہ و تابعین و تبع تابعین، قاعدہ شرعیہ وہی قرار پایا کہ حسنِ حسن ہے اگرچہ نیا ہو۔ اور قبیح قبیح ہے گو کہ پرانا ہو۔ پھر ان کے بعد یہ اصل کیوں کہ بدل سکتی ہے۔ ہماری شرع بجز اللہ ابدی ہے۔ جو قاعدے اُس کے پہلے تھے قیامت تک رہیں گے۔ معاذ اللہ یہ زید و عمر کا قانون تو ہے نہیں کہ تیسرے سال بدل جائے۔ اور تعمیر و تبدیل کے نام پر اُسے مسخ کر دیا جائے۔

۳۔ اور اگر مان لیا جائے کہ جو کچھ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا سب منع ہے تو فوراً حضراتِ تابعین اپنی خبر لیں۔ یہ مدرسے جاری کرنا۔ لوگوں سے ماہوار چندہ لینا۔ طلبہ کے لیے کتب خانوں سے کمیشن لے کر کتابیں منگانا۔ بہ تخصیص روزِ جمعہ، بعد نمازِ جمعہ و عطا کا التزام کرنا۔ جہاں کا پروہ تبلیغ میں وعظ کہنے جانا۔ نذرانے لینا۔ دعوتیں اڑانا۔ مناظرے کے لیے جلسے اور پینچ مقرر کرنا۔ مخالفین کے روئیں کتابیں لکھوانا۔ چھپوانا و اعظموں کا شہر بہ شہر گشت لگانا، تبلیغِ اسلام کے نام پر اپنے مقتداؤں اپنے بڑوں کی بڑائیاں کرنا، اصلاحِ معاشرہ کی آرٹیں، اپنے عقائدِ باطلہ کو رواج دینا۔ جاہلوں کا تبلیغ کے نام پر مذہبِ اہلسنت و جماعت پر قائم، ناواقفوں، جاہلوں کو،

دہا بیت و نجدیت کی جانب کھینچنا اور انھیں اس کی گود میں ڈال کر، سال بہ سال اعلان کرنا کہ ہم نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا۔ اور ان کے سوا ہزاروں باتیں کہ ان میں بلا نکیہ رائج ہیں۔ قرونِ ثلاثہ میں کب تھیں کہ تمہارے لیے جائز ہو گئیں یا اے حضرات مانعین آپ کے لیے پروانہ معافی آ گیا ہے۔ کہ جو چاہو کرو۔ تم پر کچھ مواخذہ نہیں۔ یا یہ نکتہ چینیاں انھیں باتوں میں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت سے علاقہ ہو۔ باقی سب حلال و شیرادر۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ)

اب بھی قبولِ خاطر نہ ہو تو مسئلہ پر اس انداز سے غور فرمائیں کہ علمائے اعلام نے کتبِ ظاہر الروایۃ و نو اور تصنیف فرمائیں۔ پھر کتبِ نوازل و واقعات تصنیف فرمائی گئیں۔ جن کا موضوع ہی حوادثِ جدیدہ و ایجاداتِ موجودہ کے احکام بیان فرمانا تھا۔ پھر ان کی وساطت سے متونِ کتب وجود میں آئے۔ پھر ان کی شرحیں لکھی گئیں پھر ان شرح کی شرح تحریر میں آئیں۔ پھر ان پر حاشیے چڑھائے گئے۔ پھر علمائے کرام کے فتاویٰ مبارکہ ترتیب میں آئے۔ اور وقتاً فوقتاً تصنیفات ہوتی رہیں۔ اور برائیدہ طبقہ نے، گزشتہ پراضافے کئے اور امت میں مقبول ہوتے رہے۔

نصاب الاحتماب و فتاویٰ عالمگیری زمانہ سلطان عالمگیر انام اللہ تعالیٰ برہانہ کی تصنیف ہیں۔ ان میں بہت ایسے جزئیات کی تصریح ملے گی۔ کہ وہ کتب سابقہ میں نہیں کہ وہ جب تک واقع ہی نہ ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان کی نسبت کہے کہ صحابہ و تابعین سے اس کی تصریح دکھاؤ۔ یا خاص امام اعظم و صاحبین کا نص لاؤ۔ تو وہ احمق مفتون ہے یا گمراہ مجنون۔ پھر عالمگیری کے بھی بہت بعد، اب قریب زمانہ کی کتابیں، فتاویٰ، ترجمے اور رسائل ہیں کہ تمام حنفی دنیا میں ان پر اعتماد ہو رہا ہے۔ مانعین بھی ان سے سند لاتے ہیں۔ ان میں صد ہا وہ بیان ملیں گے جو پہلے نہ تھے۔ فتاویٰ شاہ عبدالعزیز بلکہ ماہ مسائل و اربعین پر مانعین کے یہاں بھی اعتماد رہا ہے۔ کیا ان کے سب مسائل کی تصریح، صحابہ و تابعین و ائمہ تو بہت

بالا ہیں، عالمگیری وروالمختار تک کہیں دکھا سکتے، بتا سکتے ہیں۔
اب ان کے بھی بعد ریل، تار برقی، ٹوٹ، منی آرڈر، فوٹو گراف، ریڈیو، ٹیلیویشن
وغیرہ وغیرہ ایجاد ہوئے اور بلا تکبر، مانعین ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص
کہے کہ صحابہ و تابعین یا امام ابو حنیفہ یا نہ سہی ہدیہ و درمختار، یا یہ بھی نہ سہی عالمگیری و طحاوی
وروا المختار، یا سب جانے دو، شاہ عبدالعزیزی کے فتاویٰ میں دکھاؤ، تو اسے مجنون اور
مجنون الحواس مفتون سے بہتر، اور کیا لفظ کہا جاسکتا ہے۔ ہاں اس مہٹ دھرمی کی
بات جدا ہے کہ اپنے آپ تو تیرہویں صدی کی اربعین تک معتد جابنیں۔ اور دوسروں
سے ہر چیز پر خاص صحابہ و تابعین کی سند مانگیں۔ یہ قصر ملت میں رخنہ اندازی اور
دین و مذہب کے نام پر فتنہ انگیزی و تفرقہ اندازی اور فرقہ بندی نہیں تو اور کیا ہے؟

اور انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو، دین میں داخل
کر لیا جائے کہ ما یظہر من التأمل فی قولہ علیہ السلام مَنْ
أَحَدَثَ فِیْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَاةُ الْحَدِیْثِ۔

اللہ بے شک یہی انصاف ہے اور یہی خلاصہ و عطر ہے علماء محققین کی تحقیق
کا کہ ہر بدعت، بدعت سیئہ نہیں۔ ہر نوپید بات بُری نہیں۔ البتہ دین کے برخلاف
دین میں نئی بُری بات، نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے۔ اور وہ ممنوع و ناجائز ہے۔
احادیثِ کریمہ کے مطالعہ سے صحابہ معلوم ہوتا ہے کہ بدعت سیئہ وہ ہے جو
مخلاف سنت ہو۔ اور اس کے رواج دینے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے۔ امام
عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں
کہ "نیک بات اگرچہ بدعت و نوپید ہو، اس کا کرنے والا سنتی ہی کہلائے گا نہ کہ
بدعتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو
سنت نکالنے والا فرمایا تو ہر اچھی بات کو، اگرچہ نوپید ہو اور ہر اچھی بدعت کو سنت

میں داخل فرمایا۔ اور اسی ارشادِ اقدس میں قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور یہ کہ جو ایسی نئی بات نکالے گا ثواب پائے گا۔ اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ تو ہر اچھی بدعت سنت ہی ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ جتنے اُس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ خواہ اُسی نے وہ بات ایجاد کی ہو یا اس کی طرف منسوب ہو اور چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور“ (ترجمہ ملقطاً)

ہر نوپیدا بات کو بدعتِ سیئہ میں داخل مان کر اُسے گمراہی و ضلالت میں شامل کر دینا، عامۃ المسلمین پر ظلمِ عظیم ہے۔ کسی چیز کو بدعتِ سیئہ اور ضلالت کہنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ثبوت، قائل کے ذمہ لازم ہے۔ یا تو یہ کہ فی نفسہ اس کام میں شر ہے۔ یا یہ کہ شرعِ مطہر نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور جب نہ شرع سے منع۔ نہ کام میں شر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآنِ عظیم کے ارشاد سے جائز۔ دارقطنی نے ابو ثعلبہ حششی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تُنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حَدًّا وَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَجْتَوَاعِنَهَا**۔ بے شک اللہ عزوجل نے کچھ باتیں فرض کی ہیں انہیں نہ چھوڑو۔ اور کچھ حرام فرمائیں ان پر جرأت نہ کرو۔ اور کچھ حدیں پابند ہیں ان سے نہ بڑھو۔ اور کچھ چیزوں کا کوئی حکم قصداً ذکر نہ فرمایا۔ ان کی تقیث نہ کرو (اُس سے بحث میں نہ پڑو) ممکن کہ تمہاری تقیث سے حرام فرمادی جائیں۔ اور ترمذی وابن ماجہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ جو کچھ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں حلال فرمادیا وہ حلال ہے۔ اور جو کچھ حرام فرمادیا، وہ حرام ہے اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ معاف ہے۔

اور اللہ عزوجل فرماتا ہے **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا**۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو۔ اور جس سے منع فرمائیں اس سے

۱ "باز رہو۔"
 "تو" صیغہ امر کا ہے اور امر و جوب کے لیے ہے۔ تو پہلی قسم واجبات شرعیہ
 ہوئی۔ اور "باز رہو" نہیں ہے۔ اور نہی، منع فرمانا ہے۔ یہ دوسری قسم ممنوعات
 شرعیہ ہوئی۔

تو معلوم ہوا کہ جس کا نہ حکم دیا گیا، نہ منع کیا۔ کیا وہ نہ واجب ہے نہ گناہ۔ اور
 اب کہ قرآن کریم اتر چکا، دین کامل ہو لیا اور اب کوئی حکم نیا آنے کو نہ رہا۔ تو جتنی
 باتوں کا شریعت نے نہ حکم دیا، نہ منع کیا، ان کی معافی مقرر ہو چکی۔ جس میں اب
 تبدیلی نہ ہوگی۔ نجدی وہابی کہ اللہ کی معافی پر اعتراض کرتا ہے مردود ہے واللہ الحمد۔
 یہاں تک جواز کا بیان تھا۔ رہا استحباب، تو وہ فعل جبکہ فی نفسہ خود ہی نیک
 ہے یا مسلمان نے اسے نیت حسن محمود سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
 سے داخل سنت ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔

روالمختار میں، الاحق بالامامہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ بدعت پانچ قسم پر ہے۔
 واجب۔ جیسے گمراہ فرقوں کی گھڑی پر دلائل قائم کرنا۔ کتابت و سنت سمجھنے کے
 لیے علم نحو وغیرہ کا پڑھنا۔ مندرجہ جیسے سرائیں اور مدرسہ بنانا اور رفاہ عامہ کے لیے
 دوسرے کام کرنا۔ مکروہ جیسے محض ناموری کے لیے مسجدوں کو آراستہ و پیراستہ کرنا۔
 مباح جیسے لذیذ غذائیں مفرح مشروبات کھانا پینا، شکر نعمت کے لیے عمدہ لباس استعمال
 کرنا اور حرام جیسے نئی راہ، عام مسلمانوں کے خلاف نکالنا۔ و من يتبع غير سبيل
 المؤمنین نولہ جہنم ۵-۱۲ محمد زبیل عفی عنہ

پس ان تخصیصات کو، اگر کوئی شخص عبادتِ مخصوصہ نہیں سمجھتا بلکہ
 فی نفسہ مباح جانتا ہے مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور
 بیعتِ مسبب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں۔ مثلاً قیام کو
 لذتہا عبادت نہیں اعتقاد کرتا، مگر تعظیم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو عبادت جانتا ہے اور کسی مصلحت سے اس کی ہنیت معین کر لی۔
 اور مثلاً تعظیم ذکر کو ہر وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر کسی مصلحت سے
 خاص کر، ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیا۔ اور مثلاً ذکر ولادت کو ہر
 وقت مستحسن سمجھتا ہے مگر مصلحت سہولت دوام یا اور کسی مصلحت
 سے ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی۔

ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمان کا ایمان ہے۔ اور اس کی خوبی
 قرآن عظیم سے مطلقاً ثابت قال تعالیٰ انا ارسلناک شاکہداً و مبشراً و نذیراً
 لیتؤمنوا باللہ ورسولہا و تعزوه و توقروه و تسبحوه بکرۃ و احساناً ط
 ”اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دینا اور ڈر سنانا تاکہ
 اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح
 شام اللہ کی پاکی پو لو۔“ مولیٰ تبارک و تعالیٰ دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا
 مقصود ہی تین باتیں بتاتا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔ دوم
 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 میں رہیں۔

مسلمانو! ان تین جلیل باتوں کی جمیل ترتیب دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان
 کو فرمایا۔ اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو۔ اور سب میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعظیم کو۔ تو سب میں پہلے مقدم ایمان ہے کہ بغیر ایمان، تعظیم رسول مقبول
 نہیں۔ اور ایمان کے بعد تعظیم رسول ہے تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم
 نہ ہو، عمر بھر آدمی عبادت الہی میں گزار دے سب بیکار و مردود ہے۔

نیز قرآن کریم نے ارشاد فرمایا و من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی
 القلوب ط۔ ”جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے تو وہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری
 سے ہے۔“ کیسا صاف ارشاد ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم بڑی نہیں بلکہ جو چیزیں اللہ کی

جانب منسوب منتسب ہیں ان کی تعظیم و تکریم تو عین جزو دین ہے۔ فقہانے فرمایا کہ تعظیم غیر اللہ مستقلاً ممنوع و ناجائز ہے۔ لیکن ذات الوہیت سے تقرب نسبت کے لحاظ سے شعائر دین کی (جن کے اندر انبیاء اولیاء کے آثار بھی شامل ہیں) تعظیم حد و شرعی کے اندر نہ صرف یہ کہ خود جائز و مشروع ہے بلکہ شرعاً محمود و محبوب و مطلوب بھی ہے۔

یونہی ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَنَا عِنْدَ رَبِّهِ ط جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی، تو یہ بہتر ہے اُس کے لیے اُس کے رب کے یہاں۔ حُرْمَتِ اللہ سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عموماً اور مناسک حج خصوصاً۔ لیکن یہاں چونکہ ایک عام کلیہ بیان ہو رہا ہے اس لیے حُرْمَتِ اللہ میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو محبت و قربت سے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہیں۔ مثلاً احکام الہی، کتب دین، مقامات مقدسہ۔ اوقات مشہورہ، بندگان مقرب، مہلکم، انبیاء و صالحین اور آثار کاملین وغیرہا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کہ یہ صاف بیان فرما رہی ہے کہ حُرْمَتِ اللہ کا ادب و احترام، باعث ہے تقویٰ قلوب کا۔ اور یہ حقیقت بجائے خود روشن ہے کہ تقویٰ قلوب، ذریعہ و سبب اعلیٰ ہے بلند می درجات کا، عفو سیئات کا اور حصول خیر و برکات کا۔

پس بوجہ اطلاق آیات، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، جس طریقہ سے کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی۔ اور خاص خاص طریقوں کے لیے ثبوتِ حُجُجِ گانہ درکار نہ ہوگا کہ اس پر کیا دلیل ہے اور اُس پر کیا سند۔ ہاں اگر کسی خاص طریقہ کی بُرائی یا تخصیص شرع سے ثابت ہو جائے گی تو وہ بے شک ممنوع ہوگا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا۔ یا جانور ذبح کرتے وقت بجائے تکبیر حضور کا نام لینا۔ اسی لیے امام علامہ ابن حجر مکی جو ہر منظم میں فرماتے ہیں "تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع انواع التعظیم التي لیس فیہا مشارکة اللہ تعالیٰ فی الالوهیة امر مستحسن عند من نور اللہ ابصارہ۔"

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تمام اقسام و انواع تعظیم کے ساتھ، جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو ہر طرح امر مستحسن ہے۔ ان کے نزدیک جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بخشا ہے۔“

لہذا محافل میلاد مبارک کا انعقاد، ان کا انصرام و اہتمام اور بوقت ولادت شریف یہ قیام، کہ اہل اسلام محض بنظر تعظیم و اکرام، حضور سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام بجالاتے ہیں بے شک حسن و محمود ٹکھڑے کا۔ تا وقتیکہ بالغین، خاص اس صورت کی بُرائی کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت نہ دیں۔

اور یہاں سے ثابت ہو کہ تابعین و تبع تابعین و رکنار، خود قرآن عظیم سے مجلس و قیام کی خوبی و استحسان ثابت ہے۔ واللہ رب العالمین۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ علیہ اور وہ مصلحت خود بھی اہل ایمان، اہل محبت پر عیال و روشن ہے کہ صد ہا سال سے علمائے کرام و بلاد اہل اسلام میں یونہی معمول رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، مثل ذات اقدس کی تعظیم کے ہے۔ اور حضور تعظیم و انواع تکریم سے ایک صورت قیام بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی قرظہ اپنے قلعہ سے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اترے، حضور نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور وہ وہاں سے قریب میں تھے جب مسجد کے قریب آگئے تو حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا قوموا لیسیدکم۔ اپنے سردار کے پاس اٹھ کر جاؤ۔ اور یہ صورت تعظیم یعنی قیام وقت قزویم معظم، یعنی کسی معظم دینی کی تشریف آوری کے وقت خصوصاً بجالاتی ہے۔ اور ذکر ولادت، حضور سید المعظمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، عالم دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے تو یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مصالح دینی و دنیاوی اس قیام میں مضمحل ہیں جن کا ذکر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے۔ انصاف ہو تو اتنی ہی بات، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور غیر منصف کے لیے دفتر کے دفتر تیار۔ عرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مطلقاً مایور ہے۔ کسی قید و بند کے بغیر اس کا

فرمان وارد ہے۔ اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا۔ اس کے کسی فرد پر کسی خاص بیعت و صورت پر ممانعت کا حکم نہ دیا جائے گا۔ جب تک کسی خاص فرد سے، کسی خاص بیعت سے ممانعت شرعی نہ ثابت ہو۔ شرع سے منع وارد نہ ہو جیسے کسی کی نیت و تسلیم کے لیے سجدہ۔ اگرچہ جانب قبلہ ہو۔

بجاء اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ایمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عین ایمان، ایمان کی جان ہے۔ اور علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کچھ بھی جس طرح بھی، جس وقت بھی، جب کبھی اور جس جگہ بھی، تعظیم اقدس کے لیے بجالائے۔ خواہ و بعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب ہے۔ سب مستحب و مرغوب ہے۔ سب مستحسن و مطلوب ہے۔ سب پسندیدہ و خوب ہے۔ جب تک اس خاص سے نہ آئی ہو۔ جب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی نہ ہو۔ وہ سب ارشاد الہی کے اس اطلاق میں تعزیر و توقیر وہ داخل ہے۔ اور امتثال حکم الہی، بجا آوری فرمان خداوندی کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ اور اس تعظیم کو شرعاً ناجائز نہ کہے گا، مگر وہ کہ شرع پر افسردہ کرنا، یا نام و اکرام سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جلتا ہے۔ ۱۲

صحیح بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشروراء کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس روزہ اللہ عزوجل کوئی خاص نعمت

عطا فرمائے اس کی یادگار قائم کرنا درست و محبوب ہے کہ وہ نعمتِ خاصہ یاد آئیگی اور اس نعمتِ خاصہ کا یاد آنا باعثِ ہوگا شکر الہی بجالانے کا، خود قرآنِ عظیم میں ارشاد فرمایا وَذَكَرْهُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ - اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا دو۔

ایام اللہ سے مراد وہ بڑے بڑے وقائع ہیں جو بحکم الہی واقع ہوئے۔ وہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی جو مختلف قوموں کو قدرت کی طرف سے پیش آتی رہیں۔ اور وہ بڑی بڑی نعمتیں بھی، جو قدرت کی جانب سے مختلف قوموں کو عطا ہوتی رہیں۔ اور مفسرین کرام نے ایام اللہ سے خاص وہ دن بھی مراد لیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتیں اتاریں، انہیں انعامات سے نوازا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے اور دشمن سے نجات پانے کا دن۔ اور ہم ہم مسلمانوں کے لیے یوم ولادتِ اقدس، حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کونسا دن ہوگا۔ جس کی یادگاریں قائم کریں۔ تو یوم و تاریخ ولادت النور یعنی بارہ ربیع الاول شریف کو یادگار دن بنانا، ان کی یاد قائم کرنا بھی تذکیرِ ایام اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح اور ہندوؤں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی یا جن ایام میں واقعاتِ عظیمہ پیش آئے۔ جیسا کہ دسویں محرم کو کربلائے معلیٰ کا واقعہ ہانکہ، ان کی یادگاریں قائم کرنا اور حدود شروع میں رہتے ہوئے ان ایام کو یادگار کے طور پر منانا بھی تذکیرِ ایام اللہ میں داخل ہے۔ تو میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص، ان آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ مگر لوگ ہیں کہ ابھی وہی پرانی لکیر پیٹ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔

اور غور کیجئے تو خاص ۱۲ ربیع الاول شریف کی تخصیص کی ایک وجہ و جہہ یہ بھی ہے کہ تمام نعمتیں متفرع ہیں وجود پر۔ اور تمام کائنات کا وجود، متفرع ہے حضور کے وجود پر۔ تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت، چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا روحانی، حضور ہی کے طفیل ملی۔ جس نے جو پایا حضور ہی کے ہاتھوں، حضور ہی کے طفیل پایا۔ تو یہ دن، عید سے بھی بہتر سو، کہ انہیں کے صدقہ میں تو عید، عید ہوئی۔ اسی وجہ سے

پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب ارشاد ہوا کہ فیہ وُلدَتْ - اسی دن میری ولادت ہوئی۔ اے میرے رب نابینا آنکھوں کو بینائی دے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور کلام تفصیل مصالح میں از بس طویل ہے۔ ہر محل میں جدا مصلحت ہے۔ رسائل موالید میں، بعض مصالح مذکور بھی ہیں۔ اگر تفصیلاً کوئی مطلع نہ ہو، تو مصلحت اندیشان پیشین کی اقتداء ہے۔ اُس کے نزدیک یہ مصلحت کافی ہے۔ ایسی حالت میں تخصیص مذموم نہیں۔ تخصیصات اشغال و مراقبات و تعینات رسوم مدارس و خانقاہ جات اسی قبیل سے ہے۔

۱۵۔ عام ناواقف مسلمانوں کے لیے کسی سیدھی سچی رہنمائی و ہدایت ہے کہ ہر حکم شرعی کی مصلحت کا جان لینا، نہ عوام الناس کے لیے ممکن ہے اور نہ ان مصلحتوں کا تفصیلی طور پر عوام کے ذہنوں میں جاگزیں ہو جانا، سہل و آسان۔ تو ایسوں کے لیے سیدھا سادہ راستہ، جس پر وہ آسانی چل سکتے اور ان مصلحتوں اور حکمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ وہ اُن بزرگانِ ملت، و واقف کارانِ احکامِ شریعت کا اتباع کریں جو ان سے پہلے گزر چکے اور جنہیں ہر فریق نے ہر دور میں معتبر علیہ بتایا اور ان کی پیروی کو اپنے لیے راہِ نجات ٹھہرایا۔ جیسے حضرت علامہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی۔ حضرت امام غزالی۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی۔ حضور سیدنا غوثِ اعظم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری۔ اور اب متاخرین میں شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی۔ مولانا فضل رسول صاحب بدایونی۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بہلولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین برہمۃ و خوارکم الراحمین۔

اور اگر ان تخصیصات کو قربت مقصودہ جانتا ہے مثل نماز و روزے کے تو بے شک اُس وقت یہ امور بدعت ہیں۔ مثلاً یوں اعتقاد کرتا ہے کہ اگر تاریخ معین پر مولود نہ پڑھا گیا یا قیام نہ ہوا۔ یا بخور و شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو تو اب ہی نہ ملا۔ تو بے شک یہ اعتقاد مذموم ہے۔ کیونکہ حدود شرعیہ سے متجاوز ہے۔ جیسے عمل مباح کو حرام اور ضلالت سمجھنا بھی مذموم ہے۔ عرض دونوں صورتوں میں تعدی حدود ہے۔

۱۴ میلادِ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جو تخصیصات عموماً مروج ہیں وہ یہ ہیں۔ ذکر ولادت شریف۔ ولادت اقدس کے ذکر کے وقت قیام۔ فرش فروش کا اہتمام۔ خوشبو و عطر کا استعمال۔ مکان و مقام کی آراستگی۔ تقسیم شیرینی۔ جائزین کی دعوتِ طعام۔ منبر و تخت و چوکی کا انتظام۔ تلاوت قرآن۔ قرأت درود شریف۔ فرحت و سرور کا اظہار۔ اور اجتماع کے لیے اعلان وغیرہ

اور مانعین بھی خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہر امر اپنی جگہ ہر وقت مستحب ہے۔ پھر اُس صورت کا کیا پوچھنا، جب یہ مجتمع ہو جائیں۔ اور خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ بالخصوص ماہ مبارک ربیع الاول میں، اور اس کی بھی بارہویں تاریخ کو ظہور نور نبوت کی خوشی شامل ہو جائے۔

اور خواص المسلمین تو کجا، عوام اہلسنت و جماعت میں بھی کوئی فرد، ان تخصیصات میں سے کسی تخصیص کو نماز و روزہ کی طرح فرض اعتقاد نہیں کرتا اور نہ ان میں کوئی عبادت مقصودہ جانتا ہے کہ انہیں بدعت ہیں شامل اور انہیں مبتدعین میں داخل کر دیا جائے۔ ہاں ہم مسلمان، علمائے اعلام کے بتائے اتنا ضرور جانتے اور مانتے ہیں کہ ان آداب کا اجتماع ان شاء اللہ تعالیٰ آنکھوں کو نور دلوں کو سرور، خیالات کو پاکیزگی اور عبادت کو تازگی بخشتا اور بفضل ایزدی، خیرات و برکات کے حصول کا موجب ہوتا ہے۔ یہ ہرگز کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو

وہ زہار میلاد شریف کی محفل نہ کہلائے۔

نظیر اس کی آداب دُعا ہیں کہ جس قدر ہیں سب قبولیت دُعا کے لیے اسباب ہیں۔ مگر ان کا اجتماع ان شاء اللہ تعالیٰ مورثِ اجابت ہوتا ہے کہ دُعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان میں کوئی ادب ایسا نہیں جسے حقیقتہً شرط کہا جائے یا اس معنی کہ قبولیت دُعا اُس پر موقوف ہو۔ کہ اگر وہ نہ ہو دُعا ہرگز شرف قبول نہ پائے۔ مقصود صرف اس قدر ہے کہ ان آداب کا اجتماع ہو تو وہ دُعا بروجہ کمال ہے اور اس میں قبولیت کی توقع نہایت قوی ہے خصوصاً جب کہ دُعا، آداب کے ساتھ محسنات دُعا کو بھی جامع ہو۔

زیادہ سے زیادہ اتنی ہی بات، آداب محفل میلاد کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اور یہ اعتراض تو محض طفلانہ ہے کہ یہ چیزیں تنہا تنہا ہوں تو بے شک جائز۔ لیکن مجتمع ہو جائیں اور ان کا باہم اجتماع ہو جائے تو جائز نہیں۔ اور اس پر یہ دلیل لانا کہ مثلاً کھجور اور پانی کا اجتماع، جبکہ اُس میں جھاگ آجائیں وہ حرام ہے۔ اور بھی زیادہ مضحکہ خیز اور مجنونانہ حرکت ہے بلکہ شرع مطہر پر اقتراء۔

مجلا کس فقہ نے، اور کس فقہ کی کتاب میں لکھا کہ تروآب کا مطلقاً اجتماع، اس کی حرمت کا موجب ہے۔ کیا معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی میں، کھجوریں، شب میں ڈال دی جاتی تھیں جسے حضور استعمال فرماتے۔ ہاں رطب یعنی تر کھجور کا پانی یا منقے کا پانی، جب تیز ہو جائے اور جھاگ پھینکے تو یہ بلاشبہ حرام و نجس ہے۔ لیکن نجاست و حرمت کا باعث ان دونوں چیزوں کا اجتماع نہیں بلکہ ایک اور ہی شے ہے۔ یعنی طول مدت اور مرور زمانہ کے باعث، اس میں نشہ و سُکر کا پیدا ہو جانا جسے منکرین و معتزین بھی مانتے ہیں کہ جب اُس میں جھاگ آجائیں۔ تو موجب حرمت یہ شے ثالث ہے نہ کہ پانی و تر کا محض اجتماع۔ خلاصہً کلام یہ نکلا کہ اجتماع مباحات میں اگر کوئی مخطوبہ شرعی لازم نہ آئے تو وہ جائز و مباح ہے۔ اور اسے محض اپنے قیاس فاسد سے مذموم و ممنوع اور حرام و ناجائز ٹھہرا دینا، ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو بلا دلیل شرعی حرام کہہ دینا اور یہ خود ایک حرام ہے۔

اور اگر ان امور کو ضروری معنی واجب شرعی نہیں سمجھتا، بلکہ ضروری معنی موقوف علیہ بعض البرکات جانتا ہے، جیسے بعض اعمال میں تخصیص^{۱۸} ہو کر رہتی ہے۔ کہ ان کی رعایت نہ کرنے سے وہ اثر خاص مرتب نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر پڑھیں تو وہ اثر خاص نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اس قیام کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دلیل^{۱۹} اس توقف کی۔ موجدان اعمال کا تجربہ یا کشف الہام۔

ضرورت شرعی یہ ہے کہ اس کے بغیر گزر نہ ہو سکے اور شرعاً یہ مرتبہ فرض میں ہے۔ جیسے مکان میں وہ سوراخ جس میں آدمی بزور سما سکے۔ کھانے میں چھوٹے چھوٹے چند لقمے کہ جان بچا سکیں۔ ادائے فرض کی طاقت دیں۔ لباس میں اتنا ٹکڑا کہ ستر عورت ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے کوئی جاہل سے جاہل بھی، اصل میلا وہی کو ضروری نہیں جانتا، تخصیصات درکنار۔ دوسری چیز حاجت شرعی ہے کہ بے اس کے ضرر پہنچے۔ جیسے مکان اتنا کہ گرمی جاڑے برسات کی تکلیفوں سے بچا سکے۔ کھانا اتنا جس سے واجبات و سنن ادا کرنے کی قوت ملے۔ کپڑا اتنا کہ جاڑا روکے۔ اتنا بدن ڈھکے جس کا کھولنا نماز میں، یا مجمع عام میں خلاف ادب تہذیب ہے۔ مثلاً خالی پا جانے سے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یوں تنہا پا جامہ پہننے، ماراہ میں نکلنے والا مرد و الشہادۃ ہے۔ اور ہر ذمی فہم سمجھ سکتا ہے کہ ان امور کو، ناواقف سے ناواقف مسلمان بھی، حاجت شرعیہ میں شمار نہیں کرتا، کہ ان تخصیصات کے بغیر اس کے گمان میں، کوئی شرعی نقصان ہے۔ اس لیے ان تخصیصات پر اگر ضروری کا اطلاق، عوام الناس کرتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح عرفی کے ماتحت ہے یعنی بایں معنی کہ ان تخصیصات پر ان برکات کا حصول موقوف ہے جو ان مقدس محفلوں کے اعتقاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کی اس شرح تصریح کے بعد بھی، وہی گیت گائے جانا کہ عوام اسے فرض و واجب جانتے ہیں، خواہ خواہ کھنچ تان کر، امرت مسلمہ مرحومہ

کو گناہ کی ولول میں دھکیل دینا ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ
 ۱۱ مثلاً فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللّٰہِ
 ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلّٰہِ، ۳۳ بار اللّٰہُ اَکْبَرُ کہے کہ یہ کل ننانوے ^{۹۹} ہوئے اور یہ
 کلمہ کہہ کر سو پورے کر لے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ- لَهٗ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تو اس کی تمام خطائیں بخشد ہی جائیگی
 اگرچہ دریا کے جھاگ کی مثل ہوں۔ (مسلم شریف)

یوہی احادیث میں کسی دُعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے۔ اس سے کم زیادہ
 کرنے کی اجازت نہیں کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد کے ساتھ
 مخصوص ہیں اور ان اذکار پر جن برکات و اثرات کا حصول مترتب ہے وہ اسی
 تخصیص پر موقوف ہے۔ ان میں کم و بیش کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل کسی
 خاص کنجی سے کھلتا ہے۔ اب اگر کنجی میں دندانے کم یا زیادہ کر دیں تو اس سے
 وہ قفل نہ کھلے گا۔

یہی حال محفل میلاد شریف میں ان تخصیصات کا ہے کہ ان پر ان برکات اثرات
 کا حصول موقوف ہے۔ عوام الناس میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا اور مانتا کہ یہ
 تخصیصات ایسی ہی ضروری ہیں جیسے نماز کے لیے طہارت، وتر کے لیے دُعا
 قنوت یا جماعتِ مستحیہ کے لیے اذان، یا اذان کے لیے کلماتِ مخصوصہ وغیرہ ^{۱۲} محمد خلیل عفی عنہ
 ۱۹ یعنی ہم جو ان تخصیصات کو، ان برکات کے لیے موقوف علیہ کہتے ہیں کہ ان
 کا حصول، ان کے وجود پر موقوف ہے۔ وہ بھی بلا سند بے اصل اور محض بے دلیل
 نہیں۔ بلکہ ان تخصیصات و اعمال کو جن بزرگانِ ملت نے ایجاد کیا اور عامتہ المسلمین
 میں انہیں رواج دیا، اُسے ان کے تجربے یا کشف یا الہام من جانب اللہ کی تائید
 حاصل ہے اور مشائخ کرام و علمائے اعلام میں اس کا معمول رہنا سونے پر سہاگہ
 اور نور علی نور کا مصداق ہے۔ مشائخ کرام و علمائے اعلام، تو پھر مشائخ و سلاطین
 دین و ملت ہیں۔ شریعتِ مطہرہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بات مسلمانوں میں صد ہا

سال سے متواتر ہو وہ بے اصل نہیں ہو سکتی۔ اُس کے لیے کسی خاص سند کی حاجت نہیں۔ تو اُس میں مسلمانوں کا اتباع اور ان کی پیروی ضرور ہے۔ جب تک اس کی صریح ممانعت ثابت نہ ہو ہرگز اُس کا خلاف نہ کیا جائے۔ بلکہ انہیں کے عادات و اخلاق کے ساتھ اُن سے برتاؤ چاہیے۔ شریعت مطہرہ سنی مسلمانوں میں میل پسند کرتی ہے۔ اس لیے اُن کی عادات کے خلاف، دوسروں کو بھڑکانا، نفرت دلانا، اُن میں انتشار پھیلانا شرعاً ناجائز ہے اور بے ضرورت تاہم، لوگوں کی راہ سے الگ چلنا سخت احمق و جاہل کا کام جیسا کہ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کی تصریح فرمائی۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح کوئی شخص، عملِ مولدِ بہیت کذائیہ کو موجب بعض برکات یا آثار کا، اپنے تجربے سے، یا کسی صاحب بصیرت کے وثوق پر سمجھے، اور اس معنی کر، قیام کو ضروری سمجھے، کہ یہ اثر خاص، بدون قیام نہ ہو گا، اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

۱۲۰ کیسی صریح تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے بیان اور ان کے معجزاتِ باہرہ و فضائلِ عالیہ و کمالاتِ جمیلہ، و شمائلِ جلیلہ کے ذکر کے لیے ان مجالس کا قائم و برپا کرنا، اُس کی طرف لوگوں کو جمع کرنا، اُس کے سننے کو حاضر ہونا، مکان و مقام ذکر کو آراستہ و پیراستہ کرنا۔ فرش فروش بچھانا۔ گلاب چھڑکنا، خوشبو سلگانا، روشنی کا اہتمام کرنا، منبر و تخت پر مقررین کو بٹھانا۔ ذکر ولادت شریف کے وقت کھڑا ہونا۔ دست بستہ صلوٰۃ والسلام، عرض بارگاہ رسالت آب کرنا، شیرینی تقسیم کرنا اور خدائے رفیق دے تو حاضرین کی خاطر و تواضع، باکولات مشروبات سے کرنا۔ پنچ آیات شریفہ پڑھنا اور سرور و فرحت کا اظہار کرنا، عرض وہ تمام تخصیصات و تقییدات، جو ان محافل مبارکہ میں عوام و خواص کا معمول ہیں، ان پر

۱ عمل پیرا ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ امور موجب برکات و حسنات ہیں، خواہ خود اُس کا ذاتی تجربہ ہو، خواہ اہل بصیرت کے قول پر اسے وثوق و یقین کامل ہو۔ سب طرح جائز ہے۔
کہ ان کو ضروری جاننا ماننا، ضرورتِ شرعیہ نہیں، ضرورتِ اصطلاحیہ ہے یعنی ان برکات و اثرات کے لیے وہ تخصیصات موقوف علیہ ہیں اور بس۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۲۱ کہ نیک بات اگرچہ بدعت و نوپید ہو اُس کا کرنے والا سنتی ہی کہلائے گا نہ کہ بدعتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات پیدا کرنے والے کو، سنت نکالنے والا فرمایا۔ تو ہر اچھی بدعت کو سنت میں داخل فرمایا کہ من سنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ (الحديث) تو اسی ارشاد اقدس میں قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی۔ اور یہ کہ جو ایسی باتیں نکالے گا ثواب پائے گا اور قیامت تک جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اسے ملے گا۔ تو اچھی بدعت اور نوپید بات سنت ہی ہے۔ امام نووی نے فرمایا جتنے اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔ خواہ اسی نے وہ نیک بات ایجاد کی ہو، یا اس کی طرف منسوب ہو۔ اور چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی ادب کی بات یا کچھ اور (حدیقہ ندیہ) اور ظاہر ہے کہ میلاد مبارک میں یہ تخصیصات، حسب نیت و عرف، ادب کے امور میں داخل ہیں۔ اور نہ سمی تو کچھ اور تو سب کو شامل ہے۔ بدعتِ سیئہ کی پہچان وہی ہے جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمائی کہ بدعت مذمومہ وہی ہے جو سنت ثابتہ کی ضد ہو، اس کے فعل سے، سنت اٹھ جائے۔ جیسے السلام علیکم کی جگہ "آداب عرض" کا رواج ہے۔ کہ اس فعل نے، سلام کا مسنون طریقہ اٹھا دیا۔ زائل کر دیا۔

امام بیہقی وغیرہ علماء، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ "نوپید باتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں، یہ تو بدعتِ ضلالت و گمراہی ہے۔ دوسرے وہ اچھی بات کہ احداث کی جائے اور اُس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بُری نہیں۔"
امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ "بدعت و

نو پیدا بات اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز کے تحت داخل ہو جس کی بُرائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بُری ہے۔ اور جو ان دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح سے ہے۔ اسی طرح صدہا اکابر نے تصریح فرمائی۔

لہذا محفل میلاد مبارک میں تخصیصات و افعال مذکورہ بالا کی نسبت کسی فرد کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ وہ بدعات قبیلہ میں داخل ہیں اور ان کا ترکیب بدعتی ہے اور ایسے دعوے نہ کریں گا مگر وہی جس کے مذہب کی بناءً وہا بیت ہے۔ اور وہا بیت خود بے دینی و ضلالت ہے۔ ورنہ مقاصد شرع سے ناواقفی و جہالت، جس سے اللہ و رسول صلّ و علا و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا، یہ اُسے بدعت ٹھہرا کر، اُس سے منع کرنے والے کون؟ یہ مباحث بارہا طے ہوئے۔ اور طریق سلامت وہ ہے جو امام اجل غارف باللہ سیدی عبدالوہاب شمرانی قدس سرہ الربانی نے کتاب مستطاب البحر المورود میں فرمایا کہ ”ہم سے عہد لیے گئے ہیں کہ اپنے کسی دینی بھائی کو، اس کی قدرت نہ دیں کہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف، تقرب کے لیے نئی پیدا کی ہو اور اُسے اچھا جانا ہو۔ کہ جو کچھ اس طرح پر نیا پیدا ہوتا ہے وہ سب شریعت کے توابع سے ہے اور وہ اُس بدعت سے نہیں جس کی شرع میں مذمت ہے۔“ منکرین اب بھی نہ سمجھیں تو ان سے خدا سمجھے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور اعتقاد ایک امر باطن ہے۔ اس کا حال بدون دریافت کیے ہوئے یقیناً معلوم نہیں ہو سکتا۔ محض قرآن مجید سے کسی پر بدگمانی کرنا اچھی نہیں۔ مثلاً بعض لوگ تارکین قیام پر ملامت کرتے ہیں تو ہر چند کہ یہ ملامت بیجا ہے کیونکہ قیام شرعاً واجب نہیں پھر ملامت کیوں؟ بلکہ اس ملامت سے شبہہ اصرار کا پیدا ہوتا ہے جس کی نسبت فقہاء نے فرمایا ہے کہ اصرار سے مستحب بھی معصیت ہو جاتا ہے۔

۲۲ اللہ عزوجل فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض
الظن اشمُّ من الایمان والوہیت سے گمانوں سے بچو۔ بیشک کچھ گمان گناہ
ہیں۔ اور فرماتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ط ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسؤلاً ۵ ” بے یقین بات کے پیچھے
نہ پڑو بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”گمان سے بچو کہ گمان سب سے
بڑھ کر مہجھوٹی بات ہے۔“ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ”تو نے اُس کا دل چیر
کہ کیوں نہ دیکھا کہ دل کے عقیدے پر اطلاع پانا۔ امام عارف باللہ سید احمد نذوق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”بدگمان، خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔“ ولہذا
در مختار وغیرہ میں ارشاد فرمایا کہ ”ہم مسلمان پر بدگمانی نہیں کرتے۔“

اس لیے دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل شرعی کے بغیر محض خود ساختہ قیاس
یا غیر معتبر قرینہ کی آڑ لے کر، یا اوہام تراشیدہ کو دلیل شرعی کا نام دے کر، اپنے
گمان کے پیچھے لگ کر، مسلمان کو معاذ اللہ، حرام بدعت سیئہ کا مرتکب ٹھہرانا
ہرگز ہرگز وچہ صحت نہیں رکھتا۔

اور یہ صراحتاً روئے ہے ان منکرین پر جو بڑھم خویش، عامۃ المسلمین کی جانب
بعض امور کی نسبت کر کے، انہیں زبردستی، واوہی ضلالت میں ڈھکیل کر اور
ان پر بدگمانیاں کر کے، شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزیوں کے الزامات
تھوپ کر، ان کی دین و دنیا تباہ کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ اور انہیں
بدعت مذمومہ کا مرتکب ٹھہرا کر، خدا و رسول کی بارگاہوں سے دور کرنے کی
تگ و دو میں مصروف رہنے کو، اپنے نزدیک دین متین کی خدمت میں تصور
کرتے ہیں۔

رہا عجوزین قیام و میلاد کا، تاریکین قیام و میلاد وغیرہ پر بلا امت و ان کی مذمت
کا مسئلہ۔ تو بے شک یہ بھی مذموم اور شرعاً ممنوع ہے بشرطیکہ تخمینہ قرینوں اور
لا یعنی قیاس آرائیوں پر مبنی ہو اور اس کی بنیاد محض اتہام و بدگمانی پر رکھی جائے۔

جیکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اطراف و دیار میں، خصوصاً پاک و ہند کے بلاد و امصار میں
محفل میلاد سے احتراز اور قیام بوقتِ ذکر و ولادت شریفیہ سے اجتناب، خصوصاً
بعد اعتراض و انکار، اصول و ہابیت پر چلنے والوں کا شعار سمجھا جاتا ہے۔ مجلس
مبارک میں حاضری اور قیام مقدس سے یہاں وہی منکر ہیں جو وہابی و گمراہ و خالص
میں۔ اور وہابیت بے شک مردور و مقہور ہے۔

اور اگر صورت یہ ہو کہ آدمی حاضری مجلس مبارک کو تو بڑا نہیں جانتا مگر اس
وقت فرصت نہیں۔ کسی اہم کام میں مصروف ہے۔ یا بیمار ہے کہ اتنی دیر
قیام کرنا اس کے لیے دشوار و باعثِ مشقت ہے۔ یا اسے تو فرصت ہے مگر
وہاں پڑھنے والا بے اصل روایات، یا نظم و نثر خلاف شرع پڑھے گا۔ یا یہ بھی
نہیں مگر صاحبِ مکان سے دینی یا دنیوی مخالفت ہے۔ جس کا الزام شرعاً
اُسی صاحبِ مکان پر ہے۔ یا درمیان میں کوئی دینی و دنیوی مخالفت بھی نہیں
مگر بیان و تقریر کرنے والا متہم ہے۔ اُس کے عقیدے کا صاف پتا نہیں چلتا۔
یا اُس محفلِ پاک میں ایسے لوگ مدعو کیے گئے ہیں جن کی محض سیاسی و دنیاوی
عزت و وجاہت ہے شرعاً وہ کسی عزت و تکریم، اکرام و تعظیم کے مستحق نہیں۔
اور یہ وہاں جلے گا تو اسے ان کی تعظیم و توقیر میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ غرض ایسی
ہی موانع ہوں تو بے شک ان پر محض اپنے تخمین و بدظنی کے باعث، ملامت کرنا
اور ان کی عدمِ حاضری یا عدمِ قیام کو مذموم و قابلِ ملامت ٹھہرانا، ضرور قبیح و مذموم
ہے۔ یہی مفاد ہے شاہ صاحب کے اس قول کا کہ "یہ ملامت بے جا ہے" اور کیوں نہ
ہو کہ یہ اتہام و بدگمانی ہے۔ اور اتہام و بدگمانی شرعاً حرام۔ اور عارفین کے نزدیک
قلبِ خبیث کی پیداوار ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۳ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ وَرُحَبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا
اِبْتِغَاءَ مَرْضَاوَانِ اللّٰهِ فَمَا سَرَعُوْهَا حَقَّ سَرَعَاتِهَا۔ اور رامہب بننا، تو یہ بات
انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت

انہوں نے اللہ کی رضا چاہینے کہ پیدا کی۔ پھر اُسے نہ بنا ہا جیسا کہ اُس کے نبی ہونے کا حق تھا۔

آیت کریمہ کا صریح مفاد یہ ہے کہ دین میں کسی نئی بات کا نکالنا جیکہ وہ اصول دین کے خلاف نہ ہو اور نہ اُس کے بجالانے کا صراحتہ کوئی حکم آیا ہو، یعنی بجائے خود وہ بات نیک ہو اور مقصود اُس سے تقرب خداوندی کا حصول، اور رضائے الہی کا اتباع ہو تو شرعاً بھی وہ بات بہتر ہے۔ اس پر ثواب ملتا ہے۔ البتہ اسے نباہنا اور جاری رکھنا چاہیے۔ کہ اب یہی اُس کا حق ہے۔ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ملامت اس پر نہ فرمائی کہ انہوں نے رُہبانیت کیوں ایجاد کی۔ ملامت فرمائی تو اس بات پر فرمائی کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اُس کے ساتھ نبھاؤ نہ کیا۔ اُسے جاری نہ رکھا۔ تو اس نوپید و نو ایجاد کو نباہنا اور اُسے جاری و دائم رکھنا، یہ وہ اصرار نہیں جو شرعاً مذموم ہے کہ یہ تو خود شرعاً مطلوب اور اس کا ترک غیر پسندیدہ ہے بلکہ اصرار سے مراد، اصرار مذموم ہے کہ اس مباح و مستحب کو، فرض و واجب یا شرعاً لازم سمجھ کر عمل میں لائے اور اس میں وہی اہتمام تام، ضروری و لا بدی اعتقاد کرے، جو فرض واجب میں مطلوب ہے۔ اسی کو فقہائے کرام نے ممنوع و مکروہ فرمایا اور اسی کی جانب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کا اشارہ ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

مگر ہر ملامت سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ شخص معتقد، واجب قیام کا ہے درست نہیں۔ کیونکہ ملامت کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔ کبھی اعتقاد و وجوب ہوتا ہے۔ کبھی محض مخالفت رسم و عادت۔ خواہ عادت دنیوی ہو یا مبنی کسی سبب دینی پر ہو۔ کبھی وجہ ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل اس لائم کے زعم میں، خواہ زعم صحیح ہو یا فاسد، کسی قوم بد عقیدہ کا شعار ٹھہر گیا ہے۔ اس فعل سے وہ استدلال کرتا ہے کہ یہ بھی انہیں لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے ملامت کرتا ہے۔

۲۴ لے روئے سخن، بالغین میلاد اقدس اور منکرین قیام بوقت میلاد مبارک کی جانب ہے کہ میلاد مبارک میں تمہاری غیر حاضری اور قیام و سلام سے تمہاری روگردانی پر، اگر محفل میلاد اور بوقت ذکر شریف آفری صلوٰۃ و سلام کو جائز و مستحب و کارِ ثواب جاننے والے، تم پر بلا امت کریں، تمہاری طرف سے ان کے دلوں میں القباض پیدا ہو، میلے آٹے اور تمہیں تیکھی نظروں سے دیکھیں، تب بھی تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم ان پر بدگمانی کرو اور اپنے واپسی تباہی خیالات کی سپرومی میں ان کی جانب کسی بد عقیدگی کی نسبت کرنے لگو اور یہ دعویٰ کرتے پھر کہ یہ لوگ تو میلاد میں صلوٰۃ و سلام اور قیام کو فرض و واجب اعتقاد کرتے ہیں اور ان کے عقیدے میں قیام کرنا فرض و واجب کی مانند ضروری و لازم ہے۔ ایسا سمجھنا اور ایسا کہنا شرعاً درست نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۵ لے اور مسلمانوں میں بلا رد و انکار جو رسوم و عادات، رواج پاجھکی ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے جسے ائمہ ملت نے صراحتاً بیان فرمایا کہ جس چیز سے شرع میں نہیں نہ آئی اور بعد زمانہ سلف کے، لوگوں میں جاری ہوئی، اس میں موافقت کر کے، مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ چیز بدعت ہی ہو۔ لہذا کسی فعل کی نسبت آنکھ بند کر کے یہ کہہ دینا کہ اس خصوصیت کے ساتھ، اس فعل کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں اس لیے یہ حرام و ممنوع ہے جمہور محققین کے نزدیک فاسد و مردود اور ناقابل قبول ہے۔

علامہ برزنجی نے قول مذکور کو بحوالہ عین العلم ذکر کر کے فرمایا کہ اس پر دلیل وہ حدیث ہے کہ "اہل اسلام جس چیز کو نیک جانیں، وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے" اور وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں سے ان کی عادتوں کے موافق برتاؤ کرو (حاکم)" اور امام حجت الاسلام غزالی اجیاء العلوم میں فرماتے ہیں۔ پانچواں ادب قوم کی موافقت کرنا ہے قیام میں۔ جب کوئی ان میں سے، سچے و جد میں بے نمائش و تکلف، یا بلا وجد اپنے اختیار سے کھڑا ہو تو ضرور ہے کہ سب حاضرین اس کی

موافقت کریں اور کھڑے ہو جائیں کہ یہ آدابِ صحبت سے ہے۔ اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے اور لوگوں سے اُن کی عادتوں کے موافق برتاؤ کرنا لازم ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ اور خصوصاً جبکہ اُن عادتوں میں اچھا برتاؤ، اور دلوں کی خوشنودی ہو۔

اور کسی کہنے والے کا یہ کہنا کہ یہ تو بدعت ہے۔ صحابہ سے ثابت نہیں، تو یہ کب ہے کہ جس چیز کے جواز کا (صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ تا بعد میں) حکم دیا جائے۔ وہ انہیں خصوصیات کے ساتھ (وغیر ہم) سے منقول ہو۔ بڑھی تو وہ بدعت ہے جو کسی سنتِ مامور بہا کا کاٹ کرے۔ اور ان باتوں سے نہی کہیں نہ آئی۔ ایسے ہی سب مساعِد تیں مُعاوَن تیں۔ جب کہ ان سے دل خوش کرنا مقصود ہو اور ایک جماعت (خصوصاً علمائے اعلام) نے اُس پر اتفاق کر لیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان کی موافقت کی جائے۔ مگر اُن باتوں میں جن سے ایسی صریح نہی وارد ہوئی کہ لائق تاویل بھی نہیں۔ یہاں تک امام حجۃ الاسلام غزالی کا ارشاد تھا کہ باختصار منقول ہوا۔ اور اسی پر علامہ برزنجی کا قول مبارک ختم ہوا۔

توجبِ ملامت کرنے والا، ترکِ قیام و سلام، کرنے والے پر اس لیے ملامت کرتا ہے کہ شخص مذکور، آدابِ مجالس میں سے اس آداب سے بھی واقف نہیں کہ حاکمین کا، موافقت و اجہدین میں کھڑا ہو جانا آدابِ صحبت سے ہے، تو قصور اس ملامت کرنے والے کا نہیں۔ کوتاہی اس بندہ خدا کی ہے جس نے بلا وجہ معقول، اپنے اوپر ملامت، اور اپنے لیے غیبت کا دروازہ کھولا جب کہ بہ کثرت حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں کہ بلا وجہ شرعی وہ بات نہ کی جائے جس سے اُس کی غیبت کا دروازہ کھلے۔ اور مسلمانوں کو نفرت دلائے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کا اشارہ انہیں امور مذکورہ کی جانب ہے۔ ۱۲۔ محمد خلیل عقی عنہ

۲۶۔ چنانچہ دل سے حرم تک، عرب سے حج تک، دُنیا سے اسلام کا ہر سجدہ، از بچہ بچہ تک، یہ بات خوب جانتا ہے اور مانتا ہے کہ میلادِ اقدس کی محافل مبارکہ

برپا کرنا، اور بوقتِ ذکرِ ولادتِ اطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیام کرنا اور بہ نہایت تعظیم و ادب، دست بستہ صلوٰۃ و سلام عرض کرنا، شعار ہے۔ اہلسنت و جماعت کا۔ اور ان نورانی و باہرکت محفلوں سے احترام کرنا، صلوٰۃ و سلام سے اجتناب برتنا، ان میں شرکت کرنے والوں پر اپنے گمانِ فاسد کی بنا پر، اتہام و بدگمانی کی وادیوں میں بھٹک کر، اعتراضات کی بوچھاڑ کرنا، یہ شعار ہے اصول و ہدایت کو اپنا کر، وہابیت کی راہیں اختیار کرنے والوں کا۔ اور بابائے نجدیت کے خدمت گزاروں کا۔ بلکہ بیلائے نجد کی دل فریب اداؤں اور جان گسار عشووں پر مرٹھے والے کلمہ گوؤں کا۔ اور اس بنا پر یہ مسلمان، اُن منکرین و مالعین پر ملامت کرتے ہیں تو یہ ملامت کرنا، اور قابلِ مذمت حرکات و افعال و اقوال کو قابلِ مذمت قرار دے کر، ایسوں سے دور و نفور رہنا اور ان سے اطہارِ نفرت کرنا، خود اپنی جگہ کوئی قصور، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر نہیں، بلکہ ہر امرِ قصور ان لوگوں کا ہے جو کسی بد عقیدہ قوم کے شعار کو اختیار کرنے اور اپنے لیے مذمت و ملامت کے دروازے کھولتے ہیں۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت پھر پڑھ جائیے۔ صاف صریح ہے انہیں مطالب میں جو ہم نے تفصیلاً ذکر کئے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

مثلاً کوئی بزرگ مجلس میں تشریف لائیں اور سب لوگ تعظیم کو کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخص بیٹھا رہے، تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی نہیں کرتا کہ تو نے واجب شرعی ترک کیا۔ بلکہ اس وجہ سے کہ وضع مجلس کی مخالفت کی۔ یا مثلاً ہندوستان میں عموماً عادت ہے کہ تراویح میں جو قرآن مجید ختم کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیرینی تقسیم نہ کرے، تو ملامت کریں گے، مگر صرف اسی وجہ سے کہ ایک رسمِ صالح کو ترک کیا۔

۲۷ خصوصاً جبکہ تشریف لانے والا، اعلام دین متین اور مقتدایانِ مسلمین سے ہو۔

حتیٰ کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آجائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے (غنیۃ

المستملی) ذرا تصور کیجئے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے۔ معززین جمع ہیں۔ ذکر و

اذکار میں مصروف ہیں کہ ایک معزز ترین، صاحبِ عزت و وقار، اعلم علمائے مصر

تشریف ارنانی فرماتے ہیں، اُن کی تعظیم، اُن کی تکریم، اُن کی عزت ان کی توقیر

کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے مگر ایک شخص، کسی گوشہ مجلس میں بیٹھا، تلاوت

قرآن میں مصروف رہتا ہے اُسے اُس معظّم دینی کے لیے قیام کا خیال نہ آیا، تو حاضرین

مخفل اُسے محبت و عقیدت کی نگاہوں سے دیکھیں گے یا اُن کے دلوں میں۔ اس کی

طرف سے بیزاری و نفرت پیدا ہوگی۔ اُس کی لوگ تعریف و توصیف کریں گے یا

اُس پر طعن و ملامت کریں گے۔ تو اس ملامت و طعن کا مبنی، کسی واجب شرعی

کا ترک نہیں بلکہ اس کی وجہ یہی ہے جو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے

ہیں کہ اس پر ملامت کا مبنی، وضع مجلس کی مخالفت ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۸ الفاظ پر غور فرمائیے اور دل نشین کر لیجئے کہ کسی رسم صالح کا ترک بھی وجہ ملامت

ہوتا ہے۔ اور رسم صالح وہی ہے جو صالحین میں مروج ہو۔ اور رواج صالحین صرف

اور صرف اُسی فعل کے ارتکاب کو کہا جائے گا جو کسی درجہ میں بھی شرعاً لزوم و وجوب

سے متصف نہیں اور کسی طور، اُسے لازم و واجب شرعی نہیں کہا جاسکتا۔ تو جب

بلاز و انکار، رسم صالح و صالحین کا ترک کرنا وجہ لوم و باعثِ ملامت ہے تو اس

شعاعت کا تصور کیجئے کہ صالحین میں مروج ان افعال و اعمال کو بدعتِ شنیعہ قرار

دے کر، ان صالحین کی طرف ارتکابِ بدعتِ سیئہ کی نسبت کی جائے اور نام دیا

جائے اسے اشاعتِ سنت کا۔ اور نقاب ڈالا جائے اس پر حمایت دین و ملت کا۔

نادان یہ نہیں دیکھتے اور دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ترکش سے

نکلے ہوئے یہ تیر، کس کس کے قلب و جگر کو گھائل کر رہے ہیں۔ عباداً باللہ ان کی

یہ بات تو ایسی ہے جس کی بنا پر تمام صحابہ و تابعین بھی بدعتی ٹھہرے جاتے ہیں۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی پروا کون کرے۔
۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

یا مثلاً بحق کہنا، کسی زمانہ میں مخصوص معترضہ کے ساتھ تھا۔ کوئی ناواقف
کسی شخص کو بحق کہتا ہو اسن کر، اس خیال سے ملامت کرتا ہو کہ یہ شخص
بھی اسی قسم کا ہے۔ اور اس سے اُس کے دوسرے عقائد پر استدلال
کر کے، مخالفت کرتا ہو۔ بہر حال صرف ملامت کو، دلیل اعتقاد و
وجوب ٹھہرانا مشکل ہے۔ اور اگر فرضاً کسی عامی کا یہی عقیدہ ہو کہ قیام
فرض و واجب ہے تو اس سے صرف اُس کے حق میں بدعت ہو جائیگا
جن لوگوں کا یہ اعتقاد نہیں ان کے حق میں مباح و مستحسن رہے گا۔
بعض متشددین رحمتِ قہرئی کو ضروری سمجھتے ہیں تو کیا یہ رحمت
سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی۔

۲۹۔ تو کسی عمل کو اس کی خصوصیات کے ساتھ جاری رکھنا، اُس کا ہمیشہ پابند رہنا۔
حتی الامکان اُسے ترک نہ کرنا، اُس بات کی دلیل نہیں کہ یہ فاعل اس فعل کو اپنے
اعتقاد میں، واجب شرعی جانتا ہے یا ظن غالب اس کی ضرورت پر ہے یا اس کا
ایک بار بھی قصد اچھوڑ دینا، گناہ اور قابل گرفت جرم شرعی ہے۔
حاشائے اللہ۔ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی اس عقیدہ کا نہ ملے گا، جو میلاد
شریعت اور بوقت ذکر ولادت شریفہ، قیام کو ترک کر دینا گناہ اور جرم شرعی جانتا
مانتا ہو، ہاں چونکہ اس عمل کو جاری رکھنا، اہلسنت و جماعت کا شعار جانا جاتا ہے
اس لیے اس کا ترک اُس کی نگاہوں میں ضرور باعث ملامت ہے۔ اور یہ کوئی
جرم نہیں آخر نہ دیکھا کہ احادیث شریفہ میں تمام اعمال مستحبہ و مستحسنہ میں ان

اعمال کو زیادہ پسندیدہ و مقبول بارگاہ الہی فرمایا گیا جو پابندی سے ادا کیے جائیں
صحیح حدیث شریف میں ہے **أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ**۔ حدیث
شریف کا یہ لفظ مبارک کہ **أَدْوَمُهَا** یعنی محبوب ترین عمل وہ ہے جو دواماً علی
الاتصال، بلا ترک پابندی سے جاری رہے۔ مداومت سے اس کا ارتکاب کیا
جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ضروری الحاظ
ہے کہ آپ نے فرمایا **أَحَدُ شَتْرِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكَ فِدْوَمُوا**
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَلَا تَتْرَكُوهَا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں (۲۰) تراویح کا
پابجاعت ادا کرنا، اے صحابہ کرام تم نے ایجاد فرمایا ہے۔ شرعاً تم پر لازم نہ
تھا۔ تو اب جو کرتے ہو اسے ہمیشہ کرتے رہنا۔ نہ اسے ترک نہ کرنا۔
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے چھوڑنا مکروہ
ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا۔ "اے عبد اللہ تو
فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات کو اٹھا کر تا تھا۔ پھر چھوڑ دیا۔"

تو یہ احادیث کریمہ امور مستحبہ پر دوام عمل کا حکم فرماتی ہیں۔ وجوب و فرض
نہیں ٹھہراتیں تو ان احادیث مبارکہ کی تعمیل میں اگر کوئی ایسے امور پڑ جو صحابین
میں مقبول و معمول و مروج رہے اور ہیں، دواماً عمل کرے تو شرعاً بھی مقبول و
محمود ہیں نہ کہ گناہ و جرم۔ اور انہیں گناہ و بدعت قرار دینا اور ان پر ہمیشگی کو وجوب
اعتقاد کی دلیل ٹھہرانا وہی اتہام و بدگمانی ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

سے بارہویں ذی الحجہ خواہ تیرہویں کو منیٰ سے رخصت ہو کر، جب حاجی مکہ معظمہ
واپس ہو گیا تو حکم ہے کہ جب تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے، جتنے ہو سکیں، عمرے کرتا
رہے۔ جنت المعلیٰ میں حاضر ہو کر، مدفونین کی زیارت کرے، علمائے کرام کی
خدمت میں پہنچ کر ان کی خدمت کا شرف لے۔ یہاں تک کہ وطن بالوف واپسی کا
وقت آجائے اور عزم رخصت ہو تو طواف و دایع بجالائے۔ پھر زمزم پر آکر پانی پیے۔

بذن پر ڈالے۔ پھر دروازہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آستانہ پاک کو بوسہ دے۔
پھر قلزم پر آکر ذکر و دعا کرے۔ پھر حجرِ اسود کو بوسہ دے اور جو آنسو رکھتا ہو وہ
گراٹے اور رونانہ آٹے تو رونے والوں کا سامنہ بنائے۔ وَيَرْجِعُ قَهْقَرَى
یعنی اُلٹے پاؤں رخ بہ کعبہ، کعبہ کو حسرت سے دیکھتا اور اس کی جدائی پر رونا مسجد
کریم کے دروازے سے باہر نکلے۔

یہی رجعتِ قہقری ہے۔ جس کے متعلق شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا
کہ بعض مُتَشَدِّدین یعنی جن کے مزاج میں شدت ہے اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ
رجعت سب کے حق میں بدعت ہو جائے گی؟

مطلب یہ ہے کہ عزمِ رحمت ہو تو تمام امورِ مطلوبہ کے بعد، مسجدِ کریم سے نکلنے
وقت یہ بھی جائز ہے کہ آدمی سیدھا چلے مگر بار بار پھر کعبہ کو حسرت سے نکلتا ہے۔
اور یہ بھی روا ہے کہ کعبہ معظمہ کی جانب موڑھ کیے۔ اُلٹے پاؤں مسجدِ کریم سے باہر آئے۔
اس دوسری صورت کے متعلق علامہ شامی نے ابن الکمال اور طرابلسی کے
حوالہ سے فرمایا " وَقَدْ فَعَلَهُ الْأَصْحَابُ لِعَيْنِ أَصْحَابِ مَذْهَبِنَا وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ
وَالْعَادَةُ بِهِ جَارِيَةٌ فِي تَعْظِيمِ الْأَكْبَرِ وَالْمُنْكَرِ بِذَلِكَ مُكَابِرٌ " یعنی
ہمارے مذہب کے اصحاب و اربابِ ذومی الرائے سے بھی ایسا کرنا ثابت
ہے۔ اور امام زبلی نے فرمایا کہ اسی بنا پر عامۃ الناس کا معمول ہے کہ وہ پشت
دے کر بزرگانِ تلت سے رخصت نہیں ہوتے۔ اور اس امر کا انکار کرنے والا
آنکھوں دیکھے نہ ملنے والوں میں شامل ہے۔

تو کہنا یہ ہے کہ اصحابِ مذہبِ حنفی کے فعل کو سند بنا کر اگر کوئی شخص اس
طرح رخ بہ کعبہ، مسجدِ کریم سے نکلنے کو ضروری و لازم جانے تو یہ خود اس کی کوتاہی ہوگی
اس کی اس تقصیر کے ماتحت یہ حکم عام کیوں کر لگایا جاسکتا ہے کہ یہ رجعت سب کے
حق میں بدعت ہے۔ یہ تو صریح انتہام اور عوام و خواص کی طرف بدگمانی ہے۔
نظیر اس کی وہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ اگر کوئی ذبح کرنے والا، خاص وقتِ ذبح

تکبیر میں یوں کہے "بِسْمِ اللّٰهِ بِنَامِ خدائے بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم" تو یہ کہنا منکر وہ تو بے شک ہے۔ مگر کفر کیسا، جانور حرام بھی نہ ہوگا۔ جبکہ اس لفظ سے اس کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعظیم ہو۔ نہ معاذ اللہ حضور کو رب عزوجل کے ساتھ شریک کرنا۔ (قاضی خاں)

بلکہ اس سے بھی زائد خاص صورت عطف میں مثلاً بنام خدا و بنام فلاں " جس سے صاف معنی شرکت ظاہر ہے۔ اگرچہ مذہب صحیح، جانور کا حرام ہونا ہے۔ مگر حکم کفر نہیں دیتے کہ وہ امر باطنی ہے۔ کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے۔ (در مختار رد المحتار)

بالجملہ مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اُس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر محمول کرنا واجب۔ اور ارادۂ قلب، دل کی نیت پر، قائل کی تصریح کے بغیر، حکم شرعی لگانے کی اصلاً راہ نہیں۔ اور حکم بھی کیسا، کفر و شرک و بدعت کا۔ جس میں اعلیٰ درجہ کی احتیاط فرض۔ یہاں تک کہ ضعیف سا ضعیف احتمال، اُس کے بچاؤ کا نکلتا ہو تو اسی پر اعتماد لازم۔ کما حقہ المحققون فی تصانیفہم۔ اور اگر بالفرض بعض کو عقلوں، نرے جاہلوں احمقوں پر یہ ثبوت شرعی ثابت بھی ہو جائے کہ ان کا مقصود اس التزام، اور تعمیل علی الدوام سے یہی فرض و واجب شرعی ہے اور وہ اسے شرعاً فرض و واجب ہی اعتقاد کر کے اس پر عمل پیرا ہیں تو حکم شرعی صرف انہیں پر صحیح ہوگا۔ ان کے سبب حکم عام لگا دینا اور باقی مسلمانوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا محض باطل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لا تسزروا نساء و ذمماً اخری۔ ہمیں شرع مطہر نے ظاہر پر عمل کا حکم فرمایا ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ مسلمان بھائی کے ہر قول و فعل کو نیک نیتی پر محمول کرو۔ تم اس کے باطن میں جھانک نہیں سکتے، دل کو اُس کے چہر نہیں سکتے تو اُس کے ارادۂ و نیت پر تمہارے لیے حکم شرعی لگانے کی کیا گنجائش ہے کہ تمہیں باطن کی تکلیف نہیں دی گئی۔ یہ مجمل تشریح ہے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے قول مذکور کی۔ ۱۲ خلیل عفی

اور بعض اہل علم، صرف جاہلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر، جیسے موضوع روایات پڑھنا، گانا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ مجالس جہلا میں واقع ہوتا ہے، عموماً سب موالید پر ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی اضااف کے خلاف ہے۔ مثلاً بعض واعظین موضوع روایات بیان کرتے ہیں۔ یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلاط مردوں و عورتوں کے، کوئی فتنہ ہو جاتا ہے تو کیا تمام مجالس وعظ ممنوع ہو جائیں گی۔

۳۲
 ۳۳
 ۳۴

۳۵
 ۳۶
 ۳۷

۳۸
 ۳۹
 ۴۰

۴۱
 ۴۲
 ۴۳

۴۴
 ۴۵
 ۴۶

۴۷
 ۴۸
 ۴۹

۵۰
 ۵۱
 ۵۲

۵۳
 ۵۴
 ۵۵

۵۶
 ۵۷
 ۵۸

۵۹
 ۶۰
 ۶۱

۶۲
 ۶۳
 ۶۴

۶۵
 ۶۶
 ۶۷

۶۸
 ۶۹
 ۷۰

۷۱
 ۷۲
 ۷۳

۷۴
 ۷۵
 ۷۶

۷۷
 ۷۸
 ۷۹

۸۰
 ۸۱
 ۸۲

۸۳
 ۸۴
 ۸۵

۸۶
 ۸۷
 ۸۸

۸۹
 ۹۰
 ۹۱

۹۲
 ۹۳
 ۹۴

۹۵
 ۹۶
 ۹۷

۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۳۱ ایسے پیشہ ور جاہل واعظوں کے باب میں خود علمائے کرام اہلسنت جماعت نے تصریح فرمائی کہ "وعظ کا پیشہ" کہ آج کل نہ کم علم، بلکہ بہت نرے جاہلوں نے کچھ الٹی سیدھی اُردو دیکھ بھال کر، حافظہ کی قوت، دماغ کی طاقت، زبان کی طلا کو شکارِ مردم کا جال بنایا ہے۔ عقائد سے غافل، مسائل سے جاہل اور وعظ گوئی کے لیے آندھی۔ ہر جامع ہر مجمع، ہر مجلس ہر میلے میں غلط حدیثیں بھونٹی روایتیں، اُلٹے مستکے۔ بیان کرنے کو کھڑے ہو جائیں گے اور طرح طرح کے حیلوں سے جو مل سکا کمائیں گے۔ اول تو انہیں وعظ کہنا حرام قطعی

۳۲
 ۳۳
 ۳۴

۳۵
 ۳۶
 ۳۷

۳۸
 ۳۹
 ۴۰

۴۱
 ۴۲
 ۴۳

۴۴
 ۴۵
 ۴۶

۴۷
 ۴۸
 ۴۹

۵۰
 ۵۱
 ۵۲

۵۳
 ۵۴
 ۵۵

۵۶
 ۵۷
 ۵۸

۵۹
 ۶۰
 ۶۱

۶۲
 ۶۳
 ۶۴

۶۵
 ۶۶
 ۶۷

۶۸
 ۶۹
 ۷۰

۷۱
 ۷۲
 ۷۳

۷۴
 ۷۵
 ۷۶

۷۷
 ۷۸
 ۷۹

۸۰
 ۸۱
 ۸۲

۸۳
 ۸۴
 ۸۵

۸۶
 ۸۷
 ۸۸

۸۹
 ۹۰
 ۹۱

۹۲
 ۹۳
 ۹۴

۹۵
 ۹۶
 ۹۷

۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۳۱
 ۳۲
 ۳۳

۳۴
 ۳۵
 ۳۶

۳۷
 ۳۸
 ۳۹

۴۰
 ۴۱
 ۴۲

۴۳
 ۴۴
 ۴۵

۴۶
 ۴۷
 ۴۸

۴۹
 ۵۰
 ۵۱

۵۲
 ۵۳
 ۵۴

۵۵
 ۵۶
 ۵۷

۵۸
 ۵۹
 ۶۰

۶۱
 ۶۲
 ۶۳

۶۴
 ۶۵
 ۶۶

۶۷
 ۶۸
 ۶۹

۷۰
 ۷۱
 ۷۲

۷۳
 ۷۴
 ۷۵

۷۶
 ۷۷
 ۷۸

۷۹
 ۸۰
 ۸۱

۸۲
 ۸۳
 ۸۴

۸۵
 ۸۶
 ۸۷

۸۸
 ۸۹
 ۹۰

۹۱
 ۹۲
 ۹۳

۹۴
 ۹۵
 ۹۶

۹۷
 ۹۸
 ۹۹

۱۰۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو بے علم قرآن کے معنی میں کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ، جہنم میں بنائے۔ دوسرے ان کا وعظ سننا حرام سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ۔ تو سارے جلسے کا وبال ایسے واعظ کی گردن پر ہے۔" پھر بھی ایسے جاہلوں نا خدا ترسوں کی روش پر، تمام محافل میلاد پر یکساں حکم شرع لگا دینا۔ اور سب کو ایک لکڑی سے ہانکنا، اضااف کے تو سر اسر خلاف ہے ہی۔ نئی شریعت گڑھنے، مسلمانوں کو ایک فعل جائزہ پر طعن و تشنیع کرنے اور ان کی دل آزاری کا وبال اس سے بڑھ کر، مگر وہی مثل ہے کہ

۳۱
 ۳۲
 ۳۳

۳۴
 ۳۵
 ۳۶

۳۷
 ۳۸
 ۳۹

۴۰
 ۴۱
 ۴۲

۴۳
 ۴۴
 ۴۵

۴۶
 ۴۷
 ۴۸

۴۹
 ۵۰
 ۵۱

۵۲
 ۵۳
 ۵۴

۵۵
 ۵۶
 ۵۷

۵۸
 ۵۹
 ۶۰

۶۱
 ۶۲
 ۶۳

۶۴
 ۶۵
 ۶۶

۶۷
 ۶۸
 ۶۹

۷۰
 ۷۱
 ۷۲

۷۳
 ۷۴
 ۷۵

۷۶
 ۷۷
 ۷۸

۷۹
 ۸۰
 ۸۱

۸۲
 ۸۳
 ۸۴

۸۵
 ۸۶
 ۸۷

۸۸
 ۸۹
 ۹۰

۹۱
 ۹۲
 ۹۳

۹۴
 ۹۵
 ۹۶

۹۷
 ۹۸
 ۹۹

۱۰۰

۳۱
 ۳۲
 ۳۳

۳۴
 ۳۵
 ۳۶

۳۷
 ۳۸
 ۳۹

۴۰
 ۴۱
 ۴۲

۴۳
 ۴۴
 ۴۵

۴۶
 ۴۷
 ۴۸

۴۹
 ۵۰
 ۵۱

۵۲
 ۵۳
 ۵۴

۵۵
 ۵۶
 ۵۷

۵۸
 ۵۹
 ۶۰

۶۱
 ۶۲
 ۶۳

۶۴
 ۶۵
 ۶۶

۶۷
 ۶۸
 ۶۹

۷۰
 ۷۱
 ۷۲

۷۳
 ۷۴
 ۷۵

۷۶
 ۷۷
 ۷۸

۷۹
 ۸۰
 ۸۱

۸۲
 ۸۳
 ۸۴

۸۵
 ۸۶
 ۸۷

۸۸
 ۸۹
 ۹۰

۹۱
 ۹۲
 ۹۳

۹۴
 ۹۵
 ۹۶

۹۷
 ۹۸
 ۹۹

۱۰۰

ایسوں ہی واعظوں اور ایسے واعظوں کی ایسی ہی مجلسوں کے بارے میں
 امام اہلسنت امام احمد رضا خاں قدس سرہ نے فرمایا "بلکہ اگر واعظ، اکثر واعظان
 زمانہ کی طرح کہ جاہل و نا عاقل، و بیباک و ناقابل ہوتے ہیں۔ مبلغِ علم کچھ اشعار خوانی،
 بے سرو پا کہانی یا تفسیرِ مصنوع (کہ من گھڑت تفسیریں کریں) یا تحدیثِ مصنوع (کہ
 دل سے تراشی ہوئی حدیثوں کی روایتوں پر مریں) نہ عقائد کا پاس، نہ مسائل کا احتفاظ
 (کہ محفوظ مسائل ہی کے بیان پر اکتفا کریں) نہ خدا سے شرم، نہ رسول کا لحاظ، نہ اہمیت
 مقصود (و انتہائے طلب) پسند عوام۔ اور نہ اہمیتِ مراد (و مطلوبِ حقیقی) جمع
 حرام۔ (کہ دولت ہاتھ آئے۔ عوام و جہال کی واہ وا کے پردہ میں مہن برے۔
 ان کا دامن بھرے۔ یا ذاکر، ایسے ہی ذاکرین غافلین، مہربلین سے (جو حق سے
 غافل، ناحق میں شاعیل رہے ہیں) کہ مسائل پر پٹھیں تو جہال معزور کے، اشعار
 گائیں تو شعراء بے شعور کے۔ انبیاء کی توہین۔ خدا پر اتہام۔ اور نعت و منقبت
 کا نام بدنام۔ جب تو (ایسوں کی مجلسوں میں) جانا بھی حرام۔ بھیننا بھی حرام۔
 تو کیا ان جاہلوں کی ایسی مجالس و مواعظ پر تکیہ کر کے میلادِ اقدس کی ان محافل
 کو مطلقاً حرام و بدعت کے زمرے میں داخل کر دیا جائے گا۔ حاشا ہرگز نہیں۔
 ۱۲۔ محمد خلیل عقی عنہ

۳۲۔ میلادِ مبارک کی محافل مقدسہ میں، اجنبی تو پھر اجنبی ہیں، مردوں اور عورتوں
 میں، وہ جو ایک دوسرے کے ابدی محرم ہیں جیسے ماں باپ بیٹے بیٹیاں،
 خالائیں اور بھانجے بھانجیاں، مچھو پھیاں اور بھتیجے بھتیجیاں، حقیقی بھائی بہنیں،
 ان میں بھی مجلسِ ذکرِ پاک کے عین دوران، نہ کہیں دیکھنے میں آیا۔ نہ سننے میں،
 کہ وہ باہم کجا بیٹھیں۔ بلکہ عورتوں کا بند و بست علیحدہ ہوتا ہے۔ مردوں کا اتہام
 و انتظام، ان کی مجلس سے دور عمل میں آتا ہے۔ اس کے باوجود قناتیں و بیز پرے
 دونوں میں حائل رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی دورانِ بیان، واعظ کو محسوس ہوتا ہے
 کہ عورتیں سننے سناتے ہیں نہیں، بلکہ مجلس و عطا و ذکرِ اقدس میں، اپنی کچریاں پکانے

میں مصروف ہیں، تو ذکرِ تنبیہ کر دیتا ہے کہ وعظ و ذکر کے وقت عورتیں اپنی مجلس نہ جمائیں۔ اپنا رنگ نہ منائیں۔ اور فرض کر لیں کہ عورتیں اپنی لغو و لالچنی حرکات سے باز نہ آئیں، تو ان کی اصلاح کی کوشش اور تیز تر کر دی جائے گی۔ نہ یہ کہ ان مجاہل کو علی الاطلاق حرام و بدعت کہہ کر، ذکر و تذکیر، پسند و نصیحت کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے۔ سب ہی تو یکساں نہیں اور ہمہ اوقات، ایک حالت پر نہیں۔ تو ان قلیل و نادر لغویات کے باعث، سب کو ایک ہی لکڑی سے کیسے ہانک دیا جائے۔ عزیز و اعوام الناس، پھر عوام الناس ہیں، وہ خدا و رسول کی باتیں، جتنی سن لیں انہیں مٹھڑ تو نہیں مفید ہی ہوں گی۔ تو بابِ تذکیر، ہم کیوں ان پر مقفل کر دیں۔ اور ایک لپٹو کے باعث، پورا کابل ہی نذر آتش کر دیں۔ آگ میں جھونک دیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۳
 رہا یہ اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا، حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر ممکن ہے۔ عقلاً و نقلاً۔ بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔ یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے، یہ ضعیف شبہ ہے۔ آپ کے علم و روحانیت کی وسعت، جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے، اس کے آگے ایک ادنیٰ سی بات ہے۔

۳۳
 مجلس میلاد النور میں حضور پر نور سید عالم، عالمِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا اعتقاد، بایں معنی کہ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بشریت منورہ اور جسدِ خاکی و جسمِ بشری کے ساتھ، مجلس میلاد میں ہر ایک کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں" یہ تو ایسا جینا جاگتا، اتہام اور مسلمانانِ اہلسنت و جماعت پر ایسی تہمت تراشی ہے جسے ہر ادنیٰ اہم و فراست، اور نور بصارت رکھنے والا مسلمان تو

۱ مسلمان، غیر مسلم بھی ہرگز ہرگز تسلیم نہ کرے گا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پاک کا منظر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور سے تمام عالم خلق و عالم امر کو منور فرمایا، بایں معنی ہر جگہ حضور تشریف فرما ہیں۔ یعنی جس طرح روح، اپنے متعلق جسم کے ہر جزاء میں جاری و ساری ہوتی ہے اور جسم کے ذرہ ذرہ میں اس کا فیضان جاری و ساری رہتا ہے اور جسم کا کوئی مختصر سے مختصر جزاء اس سے بے نیاز، ولا تعلق، و بے علاقہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم (کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا) کی حقیقت منورہ، ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے کہ اپنے وجود اپنی بقا میں ان سے مستغنی نہیں۔ عالم جس طرح اپنے ابتدائے وجود میں ان کا محتاج تھا کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنتا۔ یونہی ہر شے اپنی بقا میں ان کی دست نگر ہے۔ آج ان کا قدم در میان سے نکال لیں تو عالم دفعتاً فنا کے محض ہو جائے۔ تمام جہاں جس طرح ابتدائے وجود میں ان کے نور انور سے مستفیض ہوا، بعد وجود بھی ہر آن ہر لحظہ اسی کی مدد سے بہرہ یاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں۔ حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے۔ اور یہی وہ نورانیت و روحانیت ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہاں، تشریف فرما ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس عقیدے کو، کفر و شرک کہنا، حد سے بڑھنا، اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرانا ہے۔ اور محض اپنی کج فہمی، کج روی اور مسلمانوں پر ناحق بدگمانی ہے۔ کس نے کہا کہ مسلمان، محافل میلاد میں عجیبا، اپنی آنکھوں دیکھے، حضور کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ منکرین کو یہاں نہ قرآنی احکام یاد آتے ہیں۔ اور نہ فرمان نبی کی طرف دھیان لاتے ہیں کہ "تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا۔ کہ دل کے عقیدے پر اطلاع پاتا ہے" ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۳۔ تو جو امر عقلاً بھی ممکن ہے کہ عقل اس کے وجود سے انکار نہیں کرتی۔ اس کا واقع ہو جانا حد امکان میں ماننی اور جانتی ہے اور نقلاً بھی اس کے وجود کے انکار پر

کوئی وجہ نہیں تو عقل و نقل دونوں کے حکم کے خلاف، اپنی ناقص رائے،
 نا تمام علم اور قیاسِ فاسد کو حکم بنانا، نہ صرف عقل کی تیرگی ہے بلکہ ایسوں کی دولت
 علم "واقرب بھی ہو تو بھی سرمایہ جہالت ہے۔ اور اپنی خواہشات کا اتباع۔ ۱۲۔ محمد خلیل
 سلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہ نفس نفیس، ان مجالس و محافل
 میں یقینی تشریف آوری کا تو کوئی معتقد نہیں۔ سوال صرف یہ ہی کہ کیا یہ ممکن ہے؟
 اور کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میں تشریف فرما ہونا، وقوع میں آیا؟
 شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے دونوں شبہات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا تشریف
 لانا، عقلاً بھی ممکن ہے اور نقلاً و شرعاً بھی روا۔ یوں بعض مقامات پر اس کا
 وقوع بھی ہوا۔ بلکہ اس کا وقوع ہوتا ہے اور تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہتا
 ہے۔

قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر، اگر منکرین کی نظروں سے اوجھل ہے تو
 تلاش کر لیں چھپی ہوئی چھپی ہوئی نہیں کہ دستیاب نہ ہو سکے۔ اس کے شروع ہی
 کے صفحات پر ہے۔ "وقال استاذنا الشيخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

"رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني لم لا تكلم الخ
 فراتے ہیں حضور پر نور سپدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں زیارت انور حضور
 اظہر صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نمازِ ظہر مشرف ہوا تو ارشاد فرمایا "بیتا تم لوگوں سے
 خطاب کیوں نہیں کرتے؟" میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں عجمی ہوں۔ ان فضائل
 بغداد کی موجودگی میں کسے خطاب کروں۔ ارشاد فرمایا: "اپنا منہ کھولو"۔ میں نے اپنا
 منہ کھولا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا لعابِ دہن اقدس میرے
 منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا تکلم علی الناس۔ پسند و وعظ شروع کرو۔ چنانچہ میں نے
 نمازِ ظہر ادا کی۔ اور کرسی خطاب پر بیٹھا۔ سامنے جم غفیر تھا۔ خطاب کی ہمت اب بھی
 نہ ہوئی اور پھر یہی آنے لگی۔ اچانک میری نظر مولیٰ اعلیٰ پر پڑی۔ آپ نے فرمایا: "اپنا
 منہ کھولو"۔ میں نے منہ کھولا تو آپ نے چھ مرتبہ لعابِ دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا۔

ہیں نے عرض کیا: "سات بار کیوں نہیں" فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی خاطر۔ الخ"

اسی صفحہ پر آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں خلعتِ ولایت کبریٰ و قطبیت عنایت فرمائی۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ کہ حضور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف و غلط تھے۔ کرسی خطابت کے قریب ہی حضرت علی بن ابیہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں۔ ناگاہ حضرت علی بن ابیہتی پر غنودگی طاری ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تمام لوگ خاموش رہیں۔ تمام حاضرین ایسے خاموش ہوئے کہ سانسوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ ادھر حضور عوث پاک اپنی کرسی سے نیچے تشریف لائے اور باادب تمام سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی بن ابیہتی کو آفاقہ ہوا تو حضور عوث اعظم نے فرمایا کہ خواب میں تم زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں اس لیے باادب کھڑا رہا۔ حضرت علی بن ابیہتی نے فرمایا کہ لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجاالت خواب دیکھا اور حضرت شیخ عبد القادر بجاالت بیداری زیارت سے مشرف ہوئے۔ "منکرین بتائیں کہ بعض مواضع و محافل و عوظ میں آپ کی تشریف آوری پر ایمان لائے یا نہیں۔"

۱۲۔ مگر خلیل عفی عنہ

۳۶۔ یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا، شبہ نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا اور بالیقین مانتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب اکرم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا۔ ملکوت السموات والارض کا شاہد بنایا۔ روز ازل سے روز آخر تک، سب ماکان و مایکوت انہیں بتایا۔ جس کی تفصیل، جس کا بیان علمائے محققین نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ بصراحت فرمایا۔

مگر مخالفین کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کریمہ کی روشنی نے اندھا بہرا کر دیا۔ انہیں حق نہیں سوچتا۔ مگر بخود ہی سعی عقل والا بھی آسانی

سمجھ سکتا ہے کہ علم یقیناً ان صفات میں ہے کہ مخلوق خدا کو بے عطاء خدامل سکتا ہے۔ اور کس حد تک مل سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ "اگر میرے اونسٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن عظیم میں اُسے پالوں" (لا الاتقان) امیر المؤمنین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں "میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونسٹ مہر وادوں۔" یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔ پھر یہ علم، علم علی ہے۔ اس کے بعد علم عمر، اس کے بعد علم صدیق کی باری ہے کہ ذہب عمر تسعة اعشار علم، عمر علم کے نو حصے کیے گئے۔ کان ابو بکر اعلمنا۔ ہم سب میں زیادہ علم، ابو بکر کو تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

پھر علم نبی تو علم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسے جتنا علم، اتنی ہی فہم جس قدر فہم اسی قدر علم۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ وتلك الامثال نضرب بها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ کہنا و تیس ارشاد تو سب کے لیے ہوتی ہیں۔ پر ان کی سمجھ انہیں کو ہے جو علم والے ہیں۔ پھر مسلم کے مدارج بے حد متفاوت۔ اور علماء کے مراتب میں نمایاں تفاوت۔ ایک سے بڑھ کر ایک۔ کہ فوق كل ذي علم عليم ط اور عالم امکان میں تمام نہایتوں کی نہایت، حضور سید الکائنات میں علیہ و علی آلہ افضل الصلوات والتحيات۔

تو انہیں کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔ آیات و احادیث سے منہ موڑنا، اور اپنی خواہشات کو امام بنا کر، انہیں کے پیچھے دوڑنا ہے۔ باللہ العجب! اتنا بھی یاد نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "بے شک اللہ عزوجل نے میرے سامنے دنیا اٹھالی ہے، تو میں اُسے اور جو کچھ اُس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس سٹھیلی کو دیکھتا ہوں (طبرانی۔ ابو نعیم) اس حدیث سے روشن کہ آسمان و زمین کے تمام طبقات اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔

اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام جہاں کو محیط ہوا۔ تمام جہاں پر اللہ عزوجل نے انہیں اطلاع بخشی۔ مگر منکرین بیچارے، عقل کے مارے، ابھی تک اسی خبط میں مبتلا، شبہات و وساوس کی وادیوں میں جھٹک رہے ہیں کہ آپ کو کیسے علم ہوا۔
۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۷ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونا، جیسے وہابیہ کی کور فہمی آج تک نہ سمجھ پائی، حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کی وسعتوں کے روبرو یہ محض ادنیٰ اسی بات ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی حقانیت پر دلائل نقلیہ و کشفیہ قائم ہیں۔ تو اس کا انکار بھی حقیقت ثابتہ کا انکار ہے جسے صرف انکار برائے انکار کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مکابرہ یا مجادلہ۔ اور یہ کج روی ہے۔ کج رویوں کا طریقہ ہے کج فہموں کا وثیقہ ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ۔

اہل انصاف کے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں تشریف فرما ہونا اور اپنے علامان بازگاہ کو اپنے لطف و کرم اور فیض اتم سے مستفید و مستفیض فرمانا ایسا مسئلہ اور ایسی حقیقت ثابتہ ہے جسے اکابر امت نے بالتصریح اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقربان بازگاہ خداوندی بالخصوص انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی ایک مکان میں مقید نہیں رہتے۔ وہ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوں تو یہ عین ممکن بلکہ واقع ہے۔ شب معراج تشریف میں انبیائے کرام کا مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا۔ اور پھر آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ طلاقات پانا۔ صاف بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بیک وقت عالم نیا، عالم برزخ اور عالم آخرت میں موجود ہیں۔ حالانکہ ان کی قبور منورہ زمین ہی پر ہیں۔ اور یہ بات کسی نے آج تک نہ کہی کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبور مقدسہ سے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیئے گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

قبر انور میں رونق افروز ہونے کے باوجود اگر متعدد مقامات پر تشریف ارزانی فرمائیں اور اپنے غلاموں کو اپنی زیارت اقدس سے مشرف فرمائیں تو یہ کونسی ناشدنی ہے جو منکرین کی عقلوں میں نہیں آتی۔

یوں نہیں ملتے اور سہاڑی نہیں ملتے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مان لیجئے۔ اشعۃ اللمعات چھپی ہوئی موجود ہے "باب اثبات عذاب القبر" نکالیے اور پڑھنا شروع کیجئے وہ حدیث شریف جس میں مذکور کہ "جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ، نیلگوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ مُردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں رَمَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے؟ مَا دِينُكَ تیرا دین کیا ہے؟ اور مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اور هَذَا الرَّجُلِ (ان سے مراد وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات لیتے ہیں۔ ان کلمات کی تشریح میں حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں لفظ هَذَا (ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ، آپ کے (قبر انور میں تشریف فرما ہونے کے باعث یہاں سے) غائب ہونے کے باوجود، یا تو اس لیے ہے کہ یہ امر مشہور ہے (خواہ نام لیا جائے یا نہ لیا جائے) ذہن انہیں کی ذات اقدس کی طرف منتقل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ذہنوں میں، اپنی جسمانی غیر موجودگی کے باوجود، حاضر و موجود ہیں۔

یا باحضار ذات شریف وے در عیاں، بایں طریق کہ در قبر مثالی از حضرت وے صلی اللہ علیہ وسلم حاضر می ساختہ باشند۔ تا بمشاہدہ جمال جان افزائے او عقدہ اشکال کہ در کار افتادہ، کشادہ شود و ظلمت فراق، بنور نقائے دلکشائے او روشن گردد۔

یعنی بالفظ هَذَا سے ذات اقدس کی جانب اشارہ اس بنا پر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کی نگاہوں کے روبرو ہے۔ بایں معنی کہ

اس کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی موجود ہو۔ تاکہ آپ کے جمالِ جانفزا کے مشابہہ سے، اس مشکل کی عقدہ کشائی ہو جائے جس سے اُسے واسطہ پڑا ہے۔ اور پھر و فراق کی ظلمت ان کی روح پرور، و جان افروز زیارت کی بدولت سمٹ جائے۔ اور بڑا ظلم ہو گا شمع رسالت کے پر والوں پر، اگر انہیں عاشقانِ پاکِ طینت کی یہ بات نہ بتائی جائے کہ "دریں جا بشارت نیست، مرشتاقانِ محمدرار کہ اگر بر امید این شاد می جان و ہند و زندہ در گور روند جائے آل دارد۔"

یعنی بندہ مومن کا، زیارتِ اقدس حضور انور سے مشرف ہو جانا اگر چہ بعد از مرگ سہی، بشارتِ عظمیٰ ہے غمزدہ مشتاقانِ جمالِ یار کو۔ کہ اگر وہ دُورے زیبا کی زیارتِ انور کی توقع و امید پر اگر اپنی جان بھی نذرانے میں پیش کر دیں، بلکہ زندہ در گور ہو جائیں۔ تو یہ بھی بے موقع نہیں بلکہ برجا و بر محل ہے۔

شب عاشقانِ بیدل چہ شب دراز باشد
تو بیاگر اولِ شب، در صبح باز باشد
خدا یا! منکرین کی آنکھیں کھول اور انہیں شکوک و شبہات کی دلدلوں سے نکال کر سلامتِ روی کے ساحل تک پہنچا۔ آمین

مسلمانو! انبیائے کرام تو پھر انبیائے کرام ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ ان کے غلامانِ بارگاہ بھی بے طائے الہی اتنی مقدرت رکھتے ہیں کہ اپنی نورانیت و روحانیت کے ساتھ متشکل ہو کر، جسم مثالی کے ساتھ متعدد مقامات پر ظہور فرمائیں چنانچہ وہ ظہور فرماتے اور بیک وقت مختلف مقامات پر دیکھے جاتے ہیں۔

میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی اپنی کتاب مستطاب سبع سنابل میں کہ بارگاہ رسالت آپ سے شرفِ قبولیت سے مشرف ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ "لو ہے کو صیقل کیا تو اس میں وہ صفائی حاصل ہوتی کہ عکس کی نمائش، صرف اس کی صفائی کی بدولت میسر آتی۔ پھر آئینہ اگر قریب ہوتا ہے تو وہ عکس قریب نظر آتا ہے اور اگر دور ہوتا ہے تو دور۔ اور وہ جتنا دور ہوتا جائے گا، عکس بھی دور ہی نظر آتا جائے گا۔"

اگر آئینہ کو آسمان کے مقابل رکھو تو آسمان کا عکس اور آفتاب کا عکس بھی، اگرچہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، اس صفائی میں نمودار ہو جائے گا۔ اور اگر آسمان حائل نہ ہو تو تمام سفلیات اور علویات اس کی صفائی میں نمودار ہو جائیں۔ اسی طرح تیرے دل کا آئینہ اگر مُصَقَّل و مُصَفَّا ہو جائے تو تمام عالم پست و بالا کی اس میں جلوہ نمائی ہو اور باس طور تو در جملہ ممکنہ حاضر باشتی تمام مقامات پر تیرا ہی ظہور ہو اور تو ہر مقام پر حاضر و موجود۔ سبحان اللہ یہ مقام غلامان خاص کا ہے تو پھر صحابہ کرام، پھر انبیائے اولی الاحرام، پھر سید الانبیاء سید الانام صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین کے مقامات رفیعہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ۱۲ خلیل عفی عنہ

آخر نہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو سدرۃ المنتہیٰ سے جدا نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ وَانَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي اَرْضِ وَالْمَلَكُوتِ۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جسم اقدس اور روح النور کے ساتھ زندہ ہیں اور زمین کے اطراف و ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہیں سیر فرماتے ہیں (روح المعانی) اور اس امر سے کوئی شے مانع نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثالی اجسام بے شمار، لاتعداد ہو جائیں اور اس کے باوجود ہر جسم مثالی کے ساتھ آپ کی روح النور کا تعلق بالکل اسی طرح قائم رہے جس طرح ایک ہی جسم کے الگ الگ اعضاء اور اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے روح المعانی۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ کسی کی موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی۔ اُس کے تمام افعال و ادراکات جیسے دیکھنا، سنانا، بولنا، آنا، جانا، چلنا، پھرنا سب بدستور رہتے ہیں۔ بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلاتِ خاکی یعنی آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان سے لیتے تھے اب بغیر ان کے کرتی ہے۔ اگرچہ جسم مثالی کی یاد رہی ہے۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے

اُس کی راہ کھول دی جاتی ہے۔" اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔" اور جب وہ آزاد ہے تو اس کے لیے قُرب و بُعد سب یکساں۔ یہ عالم ہے عام مسلمان کی روح کا۔ ان کے بعد خواص ہیں۔ پھر اولیاء و مشائخ ہیں۔ پھر صحابہ کرام ہیں۔ پھر انبیاء و مرسلین ہیں۔ پھر سید العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی ترقیوں کا ادراک کون کر سکتا ہے۔ اور کون ان کی ان عظمتوں رفعتوں پر پورے بگڑھا سکتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری شرح شفاء شریف میں فرماتے ہیں ان روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اهل الاسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہاں میں، ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے! منکرین اب اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈ لیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۸ علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جائیں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے۔ اور اس سے آپ کی نسبت، اعتقادِ علم غیب لازم نہیں آتا جو کہ حضراتِ حق سے ہے۔ کیونکہ علم غیب وہ ہے جو مقتضائے ذات کا ہے۔ اور جو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں۔ بالاسباب ہے۔ وہ مخلوق کے حق میں ممکن، بلکہ واقع ہے اور امر ممکن کا اعتقاد شرک و کفر کیونکہ ہو سکتا ہے۔

۳۸ اہلسنت کو بحمد اللہ تعالیٰ ان کے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ یقینی قطعی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں منقوض نہیں ہوتا۔ کوئی نقض اس کی افادیت و اہمیت نہیں کھوتا۔ نہ کبھی اس میں تبدیل ممکن۔ نہ کسی تجویل و تغیر کا اس میں امکان۔ یہ وہ قانون مقدس ہے جس نے کل کے وہ لوگوں فلسفیوں معتزلیوں، اور آج کے نیچروں رافضیوں

وہابیوں، وغیرہم بد دینوں کی ناپاک گڑھنت کے قانون سے بیکسر غنی کر دیا۔ اور جس نے دربارہ قدرت الہی عزوجلہ جن سخت خلفشاروں میں ابلیس لعین نے ان مسخروں کو ڈالا، ان سب سے دفعہ نجات دے کر استی مسلمانوں کو اپنے ظل حمایت میں لے لیا۔ تمام کائنات اول تا آخر، ابد الابد تک، اور نہ صرف کائنات و موجودات بلکہ جملہ ممکنات اسی ایک سچے حقیقی قانون سے وابستہ ہیں جس پر ایمان لانیوالے کو، نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی عجوبہ سے گھبرا کر توجیہ و تاویل یا تحویل و تبدیل کا دامن تھامنا۔ والحمد للہ رب العلمین۔ ہاں جانتے ہو کہ وہ پاک مبارک قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ:

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِحِكْمٍ مَّائِرٍ يُّدِط

بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ وَمَا يَكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تیرا رب جو چاہتا بنانا اور اختیار فرماتا ہے۔ اِن کا کچھ

اختیار نہیں۔ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ۔ اُس سے کوئی پوچھنے

والا نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اور سب سے سوال ہوگا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا۔

وہ اپنے حکم میں کسی کو دخل نہیں دیتا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بَشِيْكَ

اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو نہ وہ کسی قانون کا پابند ہے نہ کسی عادت کا محکوم۔ نہ

کوئی ممکن اُسے دشوار ہے نہ کسی شے کا اُس پر وجوب و لزوم۔ اسی مقدس منور

عقیدے کو اہلسنت نے اپنے متون عقائد میں ان دو لفظوں سے ادا کیا ہے کہ

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اُسی رب قدیر

قادر و مقدر نے اپنے انبیاء و مرسلین اور ان کے طفیل ان کے واسطے اپنے

اولیائے کاملین کو وہ قدرتیں وہ مقدرتیں وہ اختیارات و تصرفات دیئے کہ

وہ ایک قدم میں مشرق سے مغرب تک، ساری زمین طے کر لیتے ہیں اور باذن

تعالیٰ اپنی لورائیت و روحانیت کے ساتھ متمثل ہو کر جسم مثالی کے ساتھ متعدد

مقامات پر جلوہ سامانی فرماتے اور دیکھے جاتے ہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۹۔ یلیٰ نجد کے وصال کی خاطر، آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے۔ کانوں پر لطالت

نیوشی کا پہرہ بٹھائے، اپنے نبی جان سے گزر کر، بلکہ دین و ایمان کو پس پشت ڈاکر لیلائے نجد بیت کے ناقہ کے پیچھے پیچھے۔ این و آن سے بے نیاز، اپنے خیالات باطلہ میں مدہوش، بھاگنے والوں کو ایک اور تہیہہ۔ ایک اور قریب الفہم تقریب، کہ اگر متعدد مقامات پر بیک وقت تشریف فرما ہونا، اگرچہ اجسام مثالیہ کی یادری کے ساتھ ہو، تمہاری عقل، تمہارے فلسفہ میں نہیں سماتا، تو کیا اتنا بھی باور نہیں کر سکتے کہ بقدرت الہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد اطہر میں جلوہ فرما رہے مگر درمیانی حجاب اٹھا دیئے جائیں اور یوں بیک وقت لاکھوں مشتاقانِ جمالِ یار کو، زیارت روئے زیبا ہو جائے۔ اور شرک کا وہ جان لیوا۔ بھاری پتھر بھی ہٹ جائے جو ان منکرین کو اپنے شکنجہ میں جکڑے ہوئے ہے اور جس نے ان کی جانوں کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اس سے، آپ کی نسبت علم غیب کا اعتقاد بھی لازم نہیں آتا جو ان کے لیے سنگ گراں ہے۔

خدا توفیق دے تو اتنی بات ہی بہت کافی ہے بشرطیکہ آدمی انصاف سے کام لے اور ناحق کسی کی پاسداری پر نہ مڑے۔ اس بھی نہ مانیں تو ان کے نہ ماننے کی پروا کیا ہے۔ جب دل پر مہر می لگ جائے تو قبولِ حق کی امید فضول۔ ہاں ان کلمات سے موافقین، اہل حق و یقین، امید ہے کہ اور فیض پائیں، فیضان اٹھائیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

نہ کہ یہاں مسلمان کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ علم یقیناً ان صفات سے ہے جو غیر خدا کو بطلائے خدا مل سکتا ہے۔ تو وہ علم جو غیر خدا کو بطلائے خدا ملتا ہے یعنی اللہ کے دیئے حاصل ہوتا ہے وہ عطائی ہے۔ جبکہ اللہ عزوجل کا علم ذاتی ہے بالذات ہے۔ خود بخود ہے۔

علم ذاتی ہی خدائے عزوجل کی صفتِ خاصہ ہے اور یہی علم ذاتی خدائے عزوجل کے لیے خاص ہے۔ حاشا للہ، علم عطائی کہ اعلامِ عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ خاص ہونا ورنہ خدا کے لیے محالِ قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اسے

علم حاصل ہو۔ تو علم کا ذاتی و عطائی، دو قسموں کی طرف منقسم ہونا یقینی۔
یوہیں لعطائے الہی، غیر خدا کو جو علوم حاصل ہوں وہ اگرچہ اپنی فراوانی و وسعت
کے اعتبار سے عرش و فرش، شرق و غرب اور از روزہ اول تا روزہ آخر، جملہ کائنات
کو اپنے احاطہ و وسعت میں لے لیں اور ان سب کو محیط ہو جائیں۔ رہیں گے متناہی
کے متناہی ہی۔ کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ شرق و غرب دو حدیں ہیں۔ روز اول
و روز آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے سب متناہی ہے۔ جبکہ علوم
الہیہ کی کوئی حد نہیں۔ کوئی نہایت نہیں، کہیں انتہا نہیں بلکہ وہ غیر متناہی در غیر
متناہی در غیر متناہی ہیں۔ اور بلاشبہ غیر خدا کا علم، معلومات الہیہ کو حاوی نہیں
ہو سکتا۔ معاذ اللہ مساوی ہونا درکنار، تمام اولین و آخرین، تمام انبیاء و مرسلین
و ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر بھی، علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے۔
جو کہ وڑا کہ وڑا سمندروں سے، ایک ذرہ اسی بوند کے کہ وڑا کہ وڑا حصے کو ہے۔ کہ وہ
تمام سمندر اور یہ بوند کا کہ وڑا کہ وڑا حصہ دونوں متناہی ہیں۔ دونوں کی ایک نہایت
ہے۔ دونوں کے لیے انتہا ہے اور دونوں کے لیے ایک حد۔ تو جملہ مخلوقات کے
تمام علوم کو علم الہی سے ہرگز نہ ہرگز اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعاً ہے نہ کہ معاذ اللہ
برابری کا وہم۔

خلاصہ کلام یہ کہ علم ذاتی اور علم محیط و غیر متناہی ہی اللہ عزوجل کے ساتھ خاص
ہونے کے قابل ہے۔ تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسروں کے
لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی علوم مراد ہیں۔ اور فقہاء جہاں
حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں پر لگاتے ہیں۔ کہ آخر قائل کو کافر کہنے کی وجہ اور مبنائے
تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ ہمارے
علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے۔ اس کے
غیر کے لیے محال ہے۔ جو اس میں سے کوئی چیز، اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر،
غیر خدا کے لیے مانے، وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔ بندوں کو جو کچھ علم ہے صرف

بعضائے الہی ہے اور عطائی۔ اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لیے ماننا محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال، کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں۔ وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہ آیت نفی دیکھتے ہیں۔ اور ان آیتوں سے، جن میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم غیب عطا کیا جانا، بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصۃ الوہیت ہے۔ اثبات عطائی کا ہے۔ کہ یہ انبیاء ہی کی شان ہے اور الوہیت کے منافی ہے۔

ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی خالق و مخلوق، خدا و غیر خدا کے علوم میں مساوات و برابری کا الزام لگانا، مسلمانوں پر کھلا اتہام، اور صراحتہ ایمان و اسلام کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کے علوم کی مساوات لازم آئے گی باطل محض ہے۔ کہ مساوات و برابری تو جب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے۔ اور یہ نہ کہے گا مگر کافر معاند۔ ذرات عالم متناہی ہیں تو ان کا علم بھی متناہی ہوا۔ جبکہ اللہ عزوجل کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے۔

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت پھر پڑھ جائے صراحتہ فرماتے ہیں کہ جو علم، غیر خدا کو باعلام خداوندی ہے وہ ذاتی نہیں۔ بالسبب ہے۔ اور وہ علم جو باعلام و عطائے خدا ہے وہ عطائی ہے۔ اور علم غیب عطائی، مخلوق کے حق میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ اور امر ممکن کا اعتقاد کفر و شرک نہیں۔ مگر یہ ہے کہ عناد و مکابڑہ وہ مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

البتہ ہر ممکن کے لیے وقوع ضروری نہیں۔ ایسا اعتقاد کرنا محتاج دلیل

ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جائے مثلاً خود کشف ہو جائے۔ یا کوئی صاحب کشف خبر دے تو اعتقاد جائز ہے۔ ورنہ بے دلیل ایک غلط خیال ہے غلطی سے رجوع کرنا اس کو ضرور ہے مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ پس تحقیق مختصر، اس مسئلہ میں یہ ہے جو مذکور ہوئی۔

۱۴۱ اور بحمدہ تعالیٰ سنی مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا۔ اور روزِ اول سے روزِ آخر تک کا سب ماکان و مایکون انہیں بتایا۔ آیاتِ کریمہ و احادیثِ حمیدہ سے ایسے حلیل و جمیل طور پر ثابت ہے جس میں اصلاً مجالِ دم زدن نہیں قرآنِ کریم میں فرماتا ہے اُن کا رب عزوجل وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ جب فرمانِ حمید ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا روشن۔ اور روشن بھی کیسا تفصیل کل شئی ہر چیز کا مفصل۔ تو عرش یا فرش تمام کائنات جملہ موجودات، اس بیان کے احاطہ میں داخل ہوئے۔ اور جملہ موجودات میں، کتابت لوح محفوظ بھی ہے۔ تو لامحالہ، یہ بیان و تبیان، اُس کے مکتوبات کو بھی شامل ہوئے۔

اب یہ بھی قرآنِ عظیم ہی سے پوچھ لیجئے کہ لوح محفوظ میں کیا کیا لکھا ہے؟ صفا اور نکھر ہوا جواب موجود ہے کہ کُلُّ صَفِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَضَرٍّ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز، سب لکھی ہوئی ہے۔ نیز ارشاد ہے۔ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر، اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ کیسے نص صریح قطع سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ عزوجل نے تمام موجودات، جملہ ماکان و مایکون الی یوم القیامۃ (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا) اور لوح محفوظ کے

تمام مندرجات و محفوظات کا علم دیا۔ اور شرق و غرب، سما و ارض (آسمان زمین) عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہ رہا۔ والحمد للہ حمداً کثیراً۔

بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر بہا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانیں، یا ان کا عطا کر نیوالا ان کا مالک و مولیٰ جل و علا۔ علمائے کرام کی تصانیف جلیلہ میں اس کے دلائل کا بسط و وضاحت سے بیان ہے اور احادیث کہ یہ کثیرہ تو اس باب میں ایسی روشن ایسی منور ہیں کہ کسی ذہنی ہوش کو گنجائش سخن اور مجال دم زدن نہیں۔ تو اعتقاد علم غیب نبی کی دولت، جن خوش نصیبوں کو میسر ہے وہ قرآن و حدیث کے واضح اور روشن دلائل پر مبنی ہے۔ محض بے دلیل نہیں کہ اسے خیال باطل کہہ کر رد کر دیا جائے۔ ہاں منکرین اپنی جہر لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب عظیمہ اور فضائل جلیلہ کی تاب نہ لاکر، حضور کی تنقیص و تحقیر اور توہین و تصغیر میں، "قدم فسق بیشتر بہتر" کے مصداق، بخاری و مسلم کی احادیث صحیحہ در کنار خود قرآن عظیم کی آیات کریمہ سے روگردانی کرتے اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کریمہ کی روشنی دیکھ کر ایسے اندھے بہرے ہو چکے ہیں کہ انہیں حق انہیں سوچتا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس، سخت سے سخت، ناپاک سے ناپاک تر، ایسی بے حیائیوں اور ڈھٹائیوں سے کام لیتے ہیں جس کی نظیر جہاں بھری کہیں نہ ملے۔ کتابیں گڑھیں، مطبع گڑھیں، ان کے مصنفین گڑھیں۔ ان کے مضامین گڑھیں اور پھر خود ان کے حوالے دے کر مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک جھونکیں۔ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو دیکھو کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیثیں بھی مردود ٹھہرائیں۔ اور اپنے مذہب باطل کی نیو جھاپیں اور فضیلت کی نفی پر آئیں تو بے اصل و بے سند روایات کو کام میں لائیں۔

ان پر اثرائیں۔ اور انہیں منسوب کر دیں بزرگان ملت کی جانب۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں رسائل اہلسنت) مگر وہابیہ کے سروں میں مسلمانان اہلسنت وجماعت کو بدعتی جہنمی بنانے کا ایسا سودا ہے کہ دوسروں کے گھروں کو جلانے والے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی لگائی ہوئی اس آگ میں، خود ان کے، ان کے اکابر کے اور ان کے مشائخ کے گھروں میں لگ گئی۔ اور ایسی لگی ہے کہ بجھائے نہ بچھے۔ اور احادیثِ کریمہ کی طرف آئے تو وہ صاف صاف واثکافات اس عقیدہ باصواب کی تائید و توثیق فرما رہی ہیں، بخاری و مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کر، جب سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا۔ کوئی چیز چھوڑ نہ دی، جسے یاد رہا، یاد رہا۔ جو بھول گیا، بھول گیا، یہی مضمون صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر، ابتداء سے آفرینش سے لے کر، جنتیوں کے جنت، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک کا حال، ہم سے بیان فرما دیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ اور جامع ترمذی وغیرہ کتب احادیث میں اوس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ اُس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اُس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی معراج منامی کے بیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔"

شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں۔

"پس دانستم ہر چیز در آسمانہا و ہر چیز در زمینہا بود۔ عبارتست از حصول عامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آل۔" یہ ہیں دیگر احادیثِ کریمہ سے روشن کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ

۱۔ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہاں پر اطلاع بخشی۔ ماکان و مایکون اور سب اگلوں پچھلوں کا علم حضور کو دیا۔ غرض ایمانی نگاہوں کے سامنے یہ سب موجود ہے اور شرک و بدعت کی صناعتوں میں بھٹکنے والوں کو کچھ نہ سوچے تو اس کا کیا علاج۔ فباہی حدیث بعد یومنون۔

منکرین علم غیب کی اونچی اڑان

مسلمان بھائیوں کی آگاہی کے لیے یہ فقیر بے توقیر ”مشتے نمونہ از خروارے“ بطور صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتا ہے۔ منکرین علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشرووں میں سے ایک بھاری بھر کم مولوی صاحب نے، اپنے وسیع جہتے اور رفیع مقامہ کی لاج رکھنے کے لیے ایک اونچی اڑان اڑھی۔ اور اپنے امام الطائفہ کے وتیرہ تیرہ کو اختیار کرتے ہوئے، لصوصِ قطعہ قرآنِ عظیم کے خلاف اپنے مدعاے باطل کی سندیں اپنی کتاب براہینِ قاطعہ میں صاف صاف لکھا کہ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں۔“ قطع نظر اس سے کہ ہلاجی کو ہنوز روایت و حکایت میں تمیز نہیں، اس کے اصل حکایت سے استناد اور شیخ محقق قدس سرہ الترنیزہ کی طرف اسناد کیسی جرات و وقاحت، کیسی چوری و سیدہ زوری ہے۔ شیخ محقق نے مدارج شریف میں صاف فرمایا ہے کہ ”اسی سخن اصلے نہ وارد و روایت بدال صحیح نشدہ است“ کہ یہ روایت محض بے اصل و بے سند ہے۔

امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ لا اصل له۔ اور امام ابن حجر مکی نے افضل القری میں فرمایا لم یُعرف له سند۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عظیم گھٹانے کو ایسی بے اصل حکایت سے سند لانا اور ملیج کاری کے لیے شیخ محقق کا نام لکھ

لکھ جانا، جو صراحتاً فرما رہے ہیں کہ اس حکایت کی جڑ نہ بنیاد، اب اس کے سوا کیا کہیے
کہ ایسوں کی داوڑ نہ فرماید۔

حال ایمان کا معلوم ہے بس جانے دو۔

خلاصہ اعتقاد اس باب میں یہ ہے کہ علم غیب کا خاتمہ حضرت عزت ہونا،
بے شک حق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، رب عزوجل فرماتا ہے: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ۔ تم فرمادو کہ آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ کے سوا کوئی علم
الغیب نہیں۔ اور اس سے مراد وہی علم ذاتی و علم محیط ہے کہ وہی باری عزوجل کے
لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہیں۔ علم عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہو، یا علم غیر محیط
کو بعض اشیاء سے مطلع بعض سے ناواقف ہو، اللہ عزوجل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔
اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ عزوجل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط
کا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب عزوجل
فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلٰی الْغَيْبِ وَلٰكِن اللّٰهُ يَجْتَبِيْ مِنْ مَّرْسَلٰہِ
مَنْ يَّشَآءُ۔ اللہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ ہاں اللہ اپنے
رسولوں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اور فرماتا ہے: فَلَا يُظْہِرْ عَلٰی غَيْبِہِ
اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ اللہ عالم الغیب ہے۔ تو اپنے غیب
پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور فرماتا ہے
وَمَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ۔ یہ نبی غیب کے بتانے پر تجیل نہیں۔ غرض
انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علوم غیب کا عطائے
الہی حاصل ہونا ایک ایمانی اجتماعی ایقانی عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث و اقوال
ائمہ قدیم و حدیث (متقدمین و متاخرین) سے اس مطلب پر دلائل بے شمار ہیں۔
اور خدا انصاف دے تو یہی اقل قلیل کہ مذکور ہوئے بسیار ہیں۔ تو سنی مسلمانوں کے
عقیدہ مذکورہ کو معاذ اللہ کفر و شرک کہنا، خود قرآن عظیم پر حرف رکھنا اور احادیث
صریحہ صحیحہ کثیرہ کو رد کرنا۔ اور بہ کثرت ائمہ دین و اکابر علمائے عاملین و اعظم اولیائے

کابلین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی عیاداً باللہ کافر و مشرک بنا نا ہے۔ بجزہ تعالیٰ مسلمان کے لیے تو خدا اور رسول کی امان ہے، وہ کسی کے کافر بنائے تو کافر نہیں بن سکتے۔ البتہ احادیث صحیحہ و روایات معتبرہ کی رو سے خود کافر و مشرک بنا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں: "فاض علی من جنابہ المقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیفیۃ ترقی العبد من حیزہ الی حیزہ القدس فیتجلیٰ لہ کل شیء کما احبر عن ہذا المشہد فی قصۃ المعراج المناویٰ"

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ قدس سے، عجب پر اس حالت کا علم فائض ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے، مقامِ قدس تک کیونکر ترقی کرتا ہے کہ ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس مقام سے معراجِ خواب کے قصے میں خبر دی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب کے اعتقاد پر تو معاندین نے حکم کفر و شرک دیا تھا۔ ائمہ و علماء، بلکہ شاہ ولی اللہ جو اپنے لیے مان رہے ہیں معلوم نہیں کہ مخالفین ان پر کون سا حکم جبر میں سچ ہے کہ اب کسی سے دوستی کا بھرم نہ رہا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۲۲ اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفلِ مولد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہٴ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں۔ اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ عملدرآمد جو اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر گاہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور ہر فرقہ کے پاس دلائل شرعی بھی ہیں۔ گو قوت و ضعف کا فرق ہو۔ جیسا کہ مسائلِ خلافیہ فرعیہ میں ہوا کرتا ہے

۲۲ برہنہ قاطعہ میں ہے کہ یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، تو مثل سنود، کہ سانگ کتھیا

کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا۔ اور خود یہ حرکت قبیحہ حرام و فسق ہے۔ بلکہ یہ لوگ اُس قوم سے بڑھ کر ہونگے۔ تو وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں۔ جب چاہیں یہ خرافات فرضی بنا لیتے ہیں۔

مسلمانوں! کیا تم بھی اپنے نبیؐ اور کے میلاد اطہر کو جہنم کنھیا سمجھتے ہو۔ اور ائمہ دین کو اس مجلس اقدس کے عامل، اُس میں شامل رہے، ہندوؤں سے بڑھ کر خرافاتی جانتے ہو۔

قطع نظر اس خباثت باطنی کے، ہم تمام مخالفین منکرین معاندین سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہے کسی دہلوی گنگوسی، دیوبندی سہارنپوری، جنگلی کوہی میں اتنی جرأت کہ بعینہ یہی عبارت حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے لیے لکھ کر اُسے چھاپ دیں شائع کر دیں۔ کہ شاہ صاحب جو محفل مولد میں شریک ہوتے رہے وہ ہندوؤں کی ہی خرافات میں بڑھ کر اپنی متاع عزیز کھوتے رہے۔ اور ہر سال جو خود اس محفل مبارک کو منعقد کرتے رہے وہ جہنم کنھیا کا سوانگ مناتے رہے۔ اور اس حرکت قبیحہ میں بڑھ کر (کہ خود حرام و فسق ہے) ہندوؤں سے بڑھ کر، اپنی عمر گنواتے رہے۔ بلکہ اس فعل قبیحہ کو بابرکت سمجھ کر اپنے دین اپنے ایمان سے کھیلنے رہے اور اپنی طاعات و عبادات کو خاک میں ملائے رہے۔ "ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔" ۱۳ محمد خلیل عفی عنہ ۴۳

۴۳ ہر صاحب الرائے مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا جان ایمان ہے اور حضور پیر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو دوست رکھنا، مسلمان کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ۔ جو کسی سے محبت رکھتا ہے اُس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ میلاد اقدس کی محافل منعقد کرنا اور ان میں اہتمام تام کرنا، مسلمانان اہلسنت کا شعار مانا جاتا ہے۔ تو جوان مبارک مجلسوں، بابرکت محفلوں کو، ہندوؤں کی خرافات کہیں، کنھیا کے جہنم سے اُسے تشبیہ دیں ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں محبت و رکنار،

نفرت کی بھرا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، پھر وہ صحیح العقیدہ مسلمان کیسے ہوئے۔ جن کے دل و دماغ شرابِ نجدیت کے دو جام کے بدلے گم ورکھے ہوئے ہیں اور جن کا قبیلہ مرادات صحرائے نجد ہے، ظاہر ہے کہ وہ وہی کہیں گے جو ان سے کہلایا جائے گا۔ مسلمانوں کے جان و مال کو ان کے بڑوں نے حلال جانا، اور ان کا مقدس خون بہانا، اپنے لیے جہاد و کارِ ثواب مانا، تو یہ ان سے کیوں پیچھے رہیں۔ ان کے دلوں میں بھی وہی عبارت ہے۔ ان کی بھی تیغِ غضب جپ کرتی ہے مسلمانوں پر، غصہ اتارتے ہیں تو مسلمانوں پر گرجاؤں میں جا کر دشمنانِ اسلام پر نہیں گرجتے۔ مندروں میں جا کر اعدائے دین پر نہیں بہکتے۔ منکرینِ اسلام کو کلمہ نہیں پڑھاتے، انہیں دعوتِ اسلام نہیں دیتے۔ کلمہ پڑھائیں گے تو مسلمانوں کو تبلیغیں کریں گے تو مسجدوں میں مسلمانوں کو۔ اور پھر شہرت دیں گے کہ ہم نے انہوں کو کلمہ پڑھایا اور اتنے کلمہ گو یوں کو مسلمان بنایا۔ ان کے عقائد باطلہ کا حاصل یہی تو ہے کہ عالم میں وہی مثبت ذلیل، موجد و مسلمان ہیں۔ باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ تو چوہارا اسلام کے تمام بلاد کے بسنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرک اور بے دین جانیں اور اپنے آپ کو چینین و چٹاں مسلمان مانیں، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف، اب فروعی اختلاف نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ و رسولِ جلیل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتے ہیں۔ ان کی تنقیص و توہین کو اپنے دین و ایمان کا منبع بناتے ہیں، ان سے اختلاف، فروعی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ اختلاف کو، فروعی اختلاف نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ ان سے تو اب ایک ہی بات کہنی چاہیے۔ اور یہی ان مسائل میں ان کے جواب کو کافی ہے کہ تم لوگ پہلے اللہ و رسول پر اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو۔ جلیل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم ان معاندین کی یہ بڑھی چال ہے کہ ان مسائل میں چھپ کر کہتے اور بھولے بالے مسلمان، ان کے دھوکے میں آکر، ان میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جس دور کی یہ بات کہی ہے وہ دن گزر گئے وہ زمانے گزر گئے۔ ۱۲ محمد خلیل عینی

پس خواص کو تو یہ چاہیے کہ جو ان کو تحقیق ہوا ہو۔ اُس پر عمل رکھیں۔ اور دوسرے فریق کے ساتھ بغض و کینہ نہ رکھیں۔ نہ نفرت و تحقیر کی نگاہ سے اُس کو دیکھیں۔ نہ تفسیق و تضلیل کریں، بلکہ اس اختلاف کو مثل اختلاف^{۴۵} حنفی شافعی کے سمجھیں۔ اور باہم ملاقات و مکاتیب و سلام و موافقت و محبت کی رسوم جاری رکھیں۔ اور تہ دیدہ و مباحثہ سے خصوصاً بازاروں کی ہدیانات سے، کہ منصب اہل علم کے خلاف ہے پرہیز رکھیں۔ بلکہ ایسے مسائل میں نہ فتویٰ لکھیں۔ نہ مہر و دستخط کریں، کہ فضول ہے۔

۴۶ اور یہ تحقیق اُن کی معتبر نہیں جنہیں اہلس مریہ اپنا مرید بنائے۔ اور اپنی پیروی سے اہلس مریہ میں پھانس کر، جمہور علمائے اہلسنت کے مقابل، انا حیرمینہ^{۴۷} کہہ سکتے۔ جن پر اور مقصود دین سنبھالنا ہے۔ نہ کہ اپنے منہ زور اکابر کی حمایت میں بات پالنا۔ اور صحیح احادیث کو نہ ہی زبان زور یوں سے مردود و نامقبول ٹھہرانا۔ نہ غیر مقبول اے اصل، بے سند باتوں کو، شریعت مطہرہ سے ثابتات کا درجہ دینا اور نہ اساطین دین الہی کی تصانیف معتبرہ کو، نامعتبر، ناقابل تسلیم اور محض لاشی کہہ کر اُن سے روگردانی کرنا۔ اور نہ یہ تحقیق اُن مدعیانِ خامکار و جاہلان بے وقار کے بس کا روگ ہے۔ جنہیں من و تو کا کلام سمجھنے کی تو لیاقت نہیں اور یہ کہنے چلتے ہیں۔ ائمہ امت کے اقوال کو۔ جن کا منہائے علم "تقویت الایمان" ہے۔ وہ خود اپنی کجروی، کجرائی، کج فہمی و گمراہی پر غور کر لیں کہ انہوں نے کس کے لیے کس کو چھوڑا۔ اور کس سے ناتہ توڑا۔ کس سے جوڑا۔

لہذا انصاف! اللہ عزوجل کے حضور جانا اور اُسے منہ دکھانا ہے۔ ایک ذرا دیر، منہ زوری، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی کی نہیں۔ اپنے گریبان میں آدمی منہ ڈالے اور اُن اکابر علمائے دین متین کے حضور اپنی لیاقت و قابلیت کو دیکھے، تو کہیں تحت الشری

تک بھی پتہ چلتا ہے۔ ایمان نہ نکلے تو اُن کے ادنیٰ شناگردانِ شناگرد کی، شناگردی و کفش برداری کی لیاقت نہ نکلے۔ تو ایسا بیباک ایام نہ زور، اپنی زبان زور یوں کو تحقیق حق کا نام دے، تو اس کی یہ تحقیق، اُسی کے منہ پر بار دینے کے قابل ہے یا اُن اکابر دین و ملت و اساطین شرع و شریعت کی تحقیقات کے مقابل لانے کے لائق۔

تعصب نہ کیجئے تو ہم ایک تدبیر بتائیں۔ ذرا اپنے دل کو خیالاتِ این و اُن سے رہائی دیجئے، اور آنکھیں بند کر کے، اگر دن جھکا کر یوں دل میں مراقبہ کیجئے کہ سینکڑوں اکابرِ اہلسنت و جماعت سب کے سب ایک وقت میں زندہ موجود ہیں۔ اور اپنے اپنے مراتبِ عالیہ کے ساتھ، ایک مکانِ عالی شان میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور اُن کے حضور مسئلہ میلاد و قیام پیش ہوا ہے اور اُن سب علمائے بیک زبان، باوازِ بلند فرمایا ہے۔ بے شک مستحب ہے۔ وہ کون ہے جو اسے منع کہتا ہے۔ ذرا ہمارے سامنے آئے، اُس وقت اُن کی شوکت و جبروت کو خیال کیجئے۔ اور مانعین میلاد و قیام میں سے چند کامنہ، ایک ایک کر کے چراغ لے کر دیکھیے۔ کہ ان میں سے کوئی بھی، اُس عالی شان مجمع میں جا کر، ان کے حضور اپنی زبان کھول سکتا ہے۔ اور یوں تو

چو شیراں بر فتنہ از مرغ زار

زندہ رو بہ لنگ لاف شکار

جسے چاہیے کہہ دیجئے کہ وہ کیا تھے۔ ہم ان کی کب ملتے ہیں۔ ان کا قول کیا حجت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہ سہی، بالفرض اگر ان سب اکابر سے بیان مسئلہ میں غلطی ہو جائے تو نقل و روایت میں تو معاذ اللہ، کذب و افتراء نہ کریں گے۔ کچھ عبارتیں گزر چکی ہیں انہیں کو دیکھ جایئے۔ کہ کتنے علمائے اہلسنت و جماعت و علمائے بلادِ دارالاسلام کا اس فعل مبارک کے استحباب و استحسان پر قول نقل کیا ہے۔ تو کیا اجماعِ اہلسنت بھی پایہ قبول سے ساقط، اور منہوز دلیل و سند کی حاجت باقی ہے۔ اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ پاکستان و ہند کے چند مفتیوں کو اس

پر اعتراض ہے۔ اور وہ بھی اُس وقت کہ کسی طرح دینی بند و بست و انتظام باقی نہ رہا۔ اور ہر ایک کو، جو منہ پر آئے، ایک دینے کا اختیار ملا۔ وقت و موقع پا کر، بلکہ وقت و موقع نکال کر، بہک اُٹھتے ہیں۔ اور آئے دن ان مسائل پر مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلاتے اور اپنی نیوجماتے ہیں۔ مولائے کریم اُن میں جو قابلِ ہدایت ہیں، ہدایت دے اور ہمیں صراطِ مستقیم پر ثبات عطا فرمائے۔ اور ان کے مکرو اور نام سے بچائے۔ آمین۔

۵۴۷ ہم گزشتہ اوراق میں جا بجا لکھتے آ رہے ہیں کہ میلاد شریف، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے فضائل جلیلہ و خصائل حمیدہ کے بیان کا دوسرا نام ہے جو سلف صالحین سے لے کر اب تک، ایک سنیّتِ مخصوصہ کے ساتھ، باذن اللہ تعالیٰ عوام و خواص اہلسنت میں رائج و معمول اور شعارِ اہلسنت کی طرح مقبول ہے۔ مسلمانوں کا یہ وہ معمول ہے جس نے اہلسنت و جماعت کو، فرقِ باطلہ سے ممتاز کیا۔ جب کہ اس محفل مبارک کے منکرین کو، اس سے ایسی ہی عداوت ہے جیسے کسی عدو دین کو، مسائل دین سے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین اس ذکرِ پاک کی محفل کو کنھیا کے جنم سے تشبیہ دیتے اور ہندوؤں کی خرافات ٹھہراتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے مذہبِ نامہذب کا رکنِ اعظم، محبوبانِ خدا کی تذلیل ہے۔ اور اسی لیے ہر امر میں، یہ وہی پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے منقصت نکلتی ہو۔ جبکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقادِ عظمت، جزوِ ایمان و رکنِ ایمان ہے۔ اور فعلِ تعظیم، بعدِ ایمان، ہر فرض سے مقدم۔

ان حالات میں، ان بنیادی امور میں اختلافاتِ شدیدہ کی موجودگی میں، کون ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ ان کے مابین اختلاف صرف فروعی اختلاف ہے۔ یا حنفی شافعی کا سا اختلاف ہے۔ حنفی اور شافعی، یا حنبلی و مالکی مسلمانوں میں تو کبھی یہ ذنگِ فساد سر مچھٹول، دیکھنے سننے میں نہ آئی۔ جو ان منکرین اور مجوزین میں ہر جگہ موجود، تو وجہ وہی کہ یہ اختلاف، اصول و عقائد میں ہے۔ فروع و اعمال میں نہیں۔ اور اصول و

عقائد میں اختلافات کو فروعی اختلاف بتانا، حقیقت کو منہ چھڑانا ہے۔
 شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جو کچھ فرمایا وہ اُس وقت کی بات ہے، جب
 وہابیت، دودھ پیتی اور گھٹنوں چلتی تھی۔ اور اب اس دور میں تو وہ ایسی منہ زور تھیجہ
 جو ان فاحشہ بن چکی ہے کہ خون بہاتے، نہیں شرماتی، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 ۱۲۔ محمد خلیل عینی عنہ

۲۶ اور ایک دوسرے کی رعایت رکھے مثلاً اگر مانع قیام، قیام بوقت
 ولادت سے روکنے والا عامل قیام، قیام کو مستحب و مستحسن جاننے
 والے، کی محفل میں شریک ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس میں قیام نہ کریں
 بشرطیکہ کسی فتنہ کا بہرہ پاموٹا محتمل نہ ہو۔ اور جو قیام ہو، تو مانع قیام بھی
 اس وقت قیام میں شریک ہو جائے۔ اور عوام نے جو غلو اور زیادتیوں
 کر لی ہیں، اُن کو نرمی سے منع کریں، اور یہ منع کرنا ان کا زیادہ مفید ہوگا۔
 جو خود مولد قیام میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو مانع اصل کے ہیں اُن
 کو سکوت مناسب ہے۔ ایسے امور میں مخاطبت ہی نہ کریں۔ اور
 جہاں ان امور کی عادت ہو وہاں مخالفت نہ کریں۔ جہاں عادت
 نہ ہو وہاں ایجاد نہ کریں۔ غرض فتنے سے بچیں۔ قصہ حطیم اس
 کی دلیل میں کافی ہے۔

۲۶ اور دنیا جانتی ہے کہ شیر وہابیت سے پرورش پانے والے، منکرین و مخالفین
 محفل میلاد النور اور قیام و سلام بوقت ذکر ولادت اقدس نے حضرت شاہ صاحب
 علیہ الرحمہ کی اس پسند سو مند اور مو عظمت دل پذیر کی طرف ادنیٰ توجہ نہ دی اپنے
 شیخ اور مشائخ سلسلہ کی مخالفت بلکہ ضد و مخالفت تو گوارا کی لیکن اصول نجدت
 سے ذرا برابر انحراف و اعراض گوارا نہ کیا۔ انہیں کے دم سے یہاں جو فتنہ و فساد پھیلے۔

باہم مسلمانوں میں جو نفاق و شقاق کے چشمے اُبلیے۔ ہر ذمی ہوش پر ظاہر و عیاں ہیں، کس پر نہاں ہیں۔ خصوصاً ان شہروں کی تو پوری شامت، جن میں ان کے عمائد کی کثرت، کچھ بگڑ گئے ہیں کچھ بگڑ رہے ہیں۔ باپ سستی اور اولاد وہابی، شوہر سستی، عورت وہابی۔ گھر گھر فتنے، آئے دن فساد۔ عیش پامال، چین برباد، تکفیرِ مسلمین، ان کا اصل مذہب اور کفر و شرک تو پہلا لقب ہے۔ کہیں غارِ جیوں کی ہمسنگی اور کہیں رافضیوں سے ہم رنگی۔ مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم، حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے یہ مختصر سے فقرے جو چند سطر آگے فرمائے کہ "جو مانعِ اصل کے ہیں، ان کو سکوت مناسب ہے الخ موتیوں میں تولنے کے قابل ہیں۔ اور واقعی مخالفین اس پر عمل پیرا ہوں کہ ان مخالفِ منبر کو اپنے زعم میں پر غلط جاننے کے باوجود، خاموشی اختیار کریں اور ان میں شرکت کرنے والوں پر زبانِ طعن و تشنیع نہ کھولیں، تو اس کا نتیجہ جلد ہی سامنے آجائے گا۔ نفاق و شقاق کی یہ گھنگھور گھٹائیں کہ ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں بے بر سے چھٹ جائیں گی۔ اور یہ فتنہ و فساد جو گھر گھر برباد ہے خود ہی اپنی موت مر جائے گا۔ مگر یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب مخالفین و مانعین کے اکابر، اصول و ہابیت سے کنارہ کش ہوں۔ اور اپنے شہیدِ لیلیٰ نجد کی کتاب تقویتِ الایمان کو، کہ دراصل تقویتِ الایمان ہے۔ زینتِ طاقِ نیساں بنائیں اور ایسی ہی دوسری کتابوں سے تبری دہرات کا اظہار کر کے ان کی تبلیغ و اشاعت سے دامن چھڑائیں و ایانِ ذلك واذلا فلا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور مجوزین (میلاد مبارک، و قیام و سلام کو جائز و موجب برکات جاننے والے) مانعین کے منع کی تاویل کر لیا کریں۔ کہ یا تو ان کو یہی تحقیق ہوا ہوگا۔ یا انتظاماً منع کرتے ہوں گے کہ بعض موقع پر اصل عمل سے منع کرتے ہیں۔ تب ان سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت میں اکثر یہ تدبیر غیر مفید ہوتی ہے۔ اور جو مانعین ہیں وہ مجوزین کی تجویز کی تاویل کر لیا

کریں۔ کہ یا تو ان کو تحقیق یہی ہوا ہے یا غلبہٴ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں۔ اور حُسنِ ظن بالمسلمین کی وجہ سے لوگوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔

۲۶ کے اور خدا جانتا ہے کہ مجوزین میلاد اقدس نے حتی الامکان ان مانعین کے اقوال کو منہ نہ لگایا، ذکرِ محبوب اُن کا کام تھا، اپنے کام سے کام رکھا۔ زیادہ سے زیادہ کہا تو یہ کہا کہ وہاں بیتِ کارنگ چڑھ گیا ہے۔ اور چونکہ یہ رنگ دیر پا نہیں اس لیے اُتر جائے گا۔ لیکن بقول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تدبیر مفید ثابت نہ ہوئی اور معاندین نے عوام اہلسنت کو یہ کہہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ دیکھا ہمارا کیا بات کا کوئی جواب بن نہ آیا تو چپ سا دھلی۔ اور پھر مجوزین نے بمصدق مصرع سے وہ اپنی خونہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں

تحقیقِ حق و ہدایتِ عامۃ المسلمین کی خاطر، اُن کے لالیعنی دلائل کا جواب دیا۔ عام مسلمانوں کو ان کے اقوال و باطنی احوال سے، جو ان کے حالات سے ظاہر تھے، آگاہ کیا۔ اور پھر بات سے بات نکلتی اور مچھو لتی مچھلتی رہی۔ نوبت بایں جا رسید۔

ہاں ناظرین رسالہ ہذا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان مانعین سے یہ کہیں کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی ان نصیحتوں پر جو بڑے خلوص اور مرتباً نہ انداز میں دی گئیں، اُن کے متوسلین و مریدین میں سے کس کس نے عمل کیا۔ اور ان کے عمائد میں سے کس نے اپنے پیر، اپنے شیخ کی مواعظت پر کان دیا۔ تو صاف عیاں ہو جائے گا کہ جب مریدین و متوسلین نے اپنے شیخ کی نہ مانی، تو دوسروں پر کیا الزام۔ خصوصاً جبکہ ان کا یہ معمول، بزرگانِ دین میں رائج و مقبول رہا۔ اور خود شاہ صاحب نے اسے اپنا ہمیشہ کا معمول بنایا اور اُسے ذریعہ برکات ٹھہرایا۔ بحوالہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر عین ایمان، ایمان کی جان ہے۔ اور تعظیم رسول علی الاطلاق شرعاً مطلوب ہے۔ تو جو کچھ مہجی جس طرح

بھی جس وقت بھی تعظیم اقدس کے لیے بجالاتے خواہ وہ بعینہ منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب، مستحب و مرغوب اور پسندیدہ و خوب ہے۔ جب تک اس خاص سے نہ آئی ہو، کوئی جرح شرعی نہ ہو وہ سب اس ارشاد الہی کے اطلاق میں داخل ہے کہ وَتَعَزَّزُوا وَتَوَقَّروْهُ۔ اور ارشاد الہی کے امتثال و تعمیل کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ اسی لیے ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ارب تعظیم حبیب رب العالمین میں زیادہ مداخلت رکھے اسی قدر زیادہ خوب ہے۔ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور وہابیہ کی آنکھیں اسی طرف سے چوہٹ ہیں۔

۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

ذکر ولادت شافع امت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بزبان حق ترجمان امام اہلسنت امام احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ)

یہ مجلس (میلاد مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے) آج سے نہیں۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود کی۔ ادا کرتے رہے۔ اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی۔ اول روز سے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم ہی یہ فرمایا گیا کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب و محبوب کا ذکر کیا کہ۔ صلی اللہ و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ جس کے لیے عملی کارروائی یہ کی گئی کہ حبیب روح الہی، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پتلے میں داخل ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے۔ نگاہ ساق عرش پر ٹھہرتی ہے۔ لکھا دیکھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه و بارک وسلم) عرض کی الہی! یہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام اقدس کے ساتھ

لکھا ہے۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم! وہ تیری اولاد میں سب سے کچھلا پیغمبر ہے۔ وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا۔ لَوْ اَمْحَمَدُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا اَرْضًا وَلَا سَمَاءًا۔ اسی کے طفیل میں تجھے پیدا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتا نہ تجھے پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان بناتا۔ تو کُنَيْتُ اپنی ابو محمد کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

آنکھ کھلتے ہی نام پاک بتایا گیا۔ پھر ہر وقت ملکہ کی زبان سے ذکر اقدس سنایا گیا۔ وہ مبارک سبق عمر بھر یاد رکھا۔ ہمیشہ ذکر اور چرچا کرتے رہے۔ جب زمانہ وصال شریف کا قریب آیا۔ نیت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا۔ عِمَادِ تَقْوَىٰ وَعُرْوَةُ وَثْقَىٰ كَوْنَهُ جَهْوُزْنَا۔ الْعُرْوَةُ الْوَثْقَىٰ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةُ وَثْقَىٰ (محکم دستاویز) محمد میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ فَانِّي مَرَّاتٍ الْمَلَائِكَةُ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا۔ کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، ہر گھڑی ان کی یاد میں مشغول ہیں۔

اسی طور پر ان کا چرچا ہوتا رہا۔ ہر قرن میں انبیاء و مرسلین، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر ابراہیم و موسیٰ و داؤد و سلیمان و زکریا علیہم الصلوٰۃ والسلام تک، تمام نبی و رسول اپنے اپنے زمانے میں مجلس شریف اور ٹی ٹی ٹی دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب میں کچھلا ذکر شریف سنانے والا، کنواری ستھری پاک بتول کا بیٹا، جسے اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا، نشانی سارے جہان کے لیے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام شریف لایا، فرمایا ہوا ہِبَشَّارًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ میں بشارت دیتا ہوں ان رسول کی جو عنقریب میرے بعد شریف لانے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔

جب زمانہ ولادت شریف کا قریب آیا۔ تمام ملک و ملکوت میں محفل میلاد تھی۔ عرش پر محفل میلاد۔ فرش پر محفل میلاد۔ ملکہ میں مجلس میلاد ہو رہی تھی۔ خوشیاں مناتے حاضر آئے ہیں۔ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل حاضر ہیں علیہم الصلوٰۃ

والسلام اُس دُولہا کا انتظار ہو رہا ہے۔ جس کے صدقے میں یہ ساری برات بتائی گئی ہے۔ سبع سموات میں عرش و فرش پر دھوم ہے۔ ذرا انصاف کرو تھوڑی سی مجازی قدرت والا، اپنی مراد کے حاصل ہونے پر جس کا مدت سے انتظار ہو، اب وقت آیا ہے، کیا کچھ خوشی کا سامان نہ کرے گا۔ وہ عظیم مقتدر جو ہزاروں برس پیشتر بلکہ لاکھوں برس سے، ولادتِ محبوب کے پیشِ خمیے تیار فرما رہا ہے، اب وقت آیا ہے کہ وہ مراد المرادین ظہور فرمانے والے ہیں، یہ قادرِ عالیٰ کلِ شئی، کیا کچھ خوشی کے سامان مہیا نہ فرمائے گا۔

شیاطین کو اُس وقت جلن ہوئی تھی اور اب بھی جو شیطان ہیں جلتے ہیں اور ہمیشہ جلیں گے۔ غلام تو خوش ہو رہے ہیں۔ اُن کے ہاتھ تو ایسا دامن آیا کہ یہ گریہ تھے، اُس نے بچالیا۔ ایسا سنبھالنے والا ملا کہ اس کی نظیر نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔

ایک آدمی ایک کو بچا سکتا ہے۔ دو کو بچا سکتا ہے۔ کوئی قومی ہو گا زیادہ سے زیادہ دس بیس کو بچالے گا۔ یہاں کروڑوں اربوں پھسلنے والے اور بچانے والا وہی ایک، انا آخذکم بحجزکم عن النار هلتموا الی۔ میں تمہارا بندہ کر پکڑے کھینچ رہا ہوں۔ ارے میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ یہ فرمان صرف صحابہ سے خاص نہیں قسم اس کی جس نے انہیں رحمۃ للعلیین بنایا۔ آج وہ ایک ایک مسلمان کا بندہ کر پکڑے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ دوزخ سے بچائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

الحمد للہ کیسا حامی پایا، اربوں سے بھی اربوں مراتب زائد، گرنے والوں کو اُن کا ایک اشارہ کفایت کر رہا ہے۔ تو ایسے کے پیدا ہونے کا ابلیس اور اس کی ذریت کو جتنا غم ہو تھوڑا ہے۔ پہاڑوں میں ابلیس اور تمام مردہ، سرکش قید کر دیئے گئے تھے۔ اسی کے پیرو اب بھی غم کرتے ہیں۔ خوشی کے نام سے مرتے ہیں۔

ملائکہ سبع سموات، دھوم مچا رہے تھے۔ عرشِ عظیم ذوق و شوق میں ہلنا تھا۔ ایک

علم مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا بائیں کعبہ پر نصب کیا گیا۔ اور بتایا گیا کہ ان کا دارالسلطنت کعبہ ہے اور ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک، تمام جہاں انہیں کی سلطنت، انہیں کی قلمرو میں داخل ہے۔

اُس مراد کے ظاہر ہونے کی گھڑی آپہنچی کہ اول روز سے اُس کی محفل میلاد اُس کے خیر مقدم کی مبارکباد ہو رہی ہے۔ قادر علی کل شئی نے اُس کی خوشی میں کیسے کچھ انتظام فرمائے ہوں گے۔ جبریل امین ایک پیالہ شربتِ جنت کا، سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ اُس کے نوش فرمانے سے وہ وہشت زائل ہو گئی جو ایک آواز سننے سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک مرغِ سپید کی شکل بن کر اپنا پر سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لپٹن مبارک سے نل کر عرض کرنے لگے۔

اِظْهَرِ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ - اِظْهَرِ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - اِظْهَرِ يَا اَكْرَمَ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ -

(جلوہ فرمائیے اے تمام رسولوں کے سرور۔ جلوہ فرمائیے اے تمام انبیاء کے خاتم۔ جلوہ فرمائیے اے سب اگلوں کچھلوں سے زیادہ کریم)۔
یا اور الفاظ، ان کے ہم معنی۔ مطلب یہ کہ دونوں جہانوں کے دو لبہا، براتِ سچ چکی، اب جلوہ افروز ہی سرکار کا وقت ہے۔ فظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبہ المنیر۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے جیسے چوہو ہویں رات کا چاند۔

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ - الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ - الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

(ملخصاً)

مدح و ثنائے مصطفیٰ اہل و لاکے شان ہے

غافلوا! اگر ایمان عزیز ہے تو چشم خرد بین میں سرترہ انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبہ
اعتساف (بے توجہی) نکالو، کج روی بے راہ روی سے باہر آؤ اور اس حقیقت پر ایمان لاؤ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اور آفتاب
بنیم روز کی طرح روشن کہ آدمی اپنے محبوب کی فضیلتوں، مدحتوں اور رفعتوں کی نشر و
اشاعت میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے۔ اور پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کانِ حسان
جسے اُس کے مالک نے تمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اُس نے مسلمانوں کے
لیے، مسلمانوں کے غم میں، دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کیا۔ تم رات دن لہو و
لعب اور ان کی نافرمانیوں میں مشغول۔ اور وہ شب و روز تمہاری بخشش کے
لیے گریبان و ملول۔ جب وہ جانِ رحمت و کانِ رافت پیدا ہوا، بارگاہِ الہی میں
سجدہ کیا اور رَبِّ هَبْ لِي اُمَّتِي فرمایا کہ الہی میری امت مجھے بخش دے، جب قبر
شریف میں اتارا، لبِ جان بخش کو جنبش تھی۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ
آہستہ اُمتی فرماتے تھے۔ قیامت میں بھی انہیں کے دامن میں پناہ ملے گی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب انتقال کروں گا
صور پھونکے تک قبر میں اُمتی اُمتی پکاروں گا۔ کان بچنے کا یہی سبب ہے کہ وہ
آواز جان گداز، اُس معصوم عاصی نواز کی، جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی
غافل و ندہوش کے گوش تک پہنچتی ہے۔ روح اُسے ادراک کرتی ہے۔ اسی باعث
اُس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہوا کہ جو محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے
کچھ دیر ہم حرمِ نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

وائے بے انصافی، ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور اس کی

مدح و ستائش و نشر فضائل و اہتمام محافل ذکر سے آنکھوں کو روشنی، دل کو ٹھنڈک
 دنیا واجب یا یہ کہ حتی الوسع چاند پر خاک ڈالئے اور بے سبب بے دلیل، بے سند
 ان کے ذکر کی مجالس کے انکار کی راہیں نکالئے۔ ہم پر بلاغ مبین ہے ہم نے اس
 سے فراغت پائی۔ اے غافل و لاعقل اب تو جانے تیرا کام۔ ۱۲

حسین عظیمی دینی صلی اللہ علیہ وسلم

سید المحبوبین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز ولادت شریف
 پر مسلمانوں میں معمول ہے کہ وہ شہر شہر بستی بستی، قریہ قریہ، بازاروں، گزرگاہوں،
 اور اپنی رہائش گاہوں کو سجاتے، آراستہ کرتے، چراغاں سے ان کی رونقیں بڑھاتے
 اور بہ نیتِ تعظیم، چھوٹے بڑے جلوس نکالتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ اس کا بھی ثبوت
 لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو مع ان کے اہل و عیال کے
 بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا۔ حضرت
 یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت
 یوسف علیہ السلام نے، مصر کے بادشاہِ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری
 کی اطلاع دی۔ اور چار ہزار لشکر ہی اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر،
 آپ اپنے والد ماجد کے استقبال کے لیے، صد ہار شہمی مہر پرے اڑاتے، قطاریں
 باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے
 تشریف لارہے تھے۔ جب آپ کی نظر شکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق
 سواروں سے پُر ہو رہا ہے تو فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے، جس کا لشکر اس شان
 شوکت سے آرہا ہے؟ عرض کی نہیں یہ حضور کے فرزند یوسف ہیں۔ علیہ السلام۔

حضرت جبرئیل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا۔ فضا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ کے سرور میں شرکت کے لیے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں۔ جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہانے اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی دس تاریخ تھی۔ اور کیا یہ بات بھی بتانے اور جتانے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے بیان فرمانا اور کسی ممانعت کے بغیر بیان فرمانا، اس فعل کے مباح و جائز ہونے کی روشنی دلیل ہے۔ ولکن الوہابیہ قوم لا یعقلون۔

اور عوام کو چاہیے کہ جس عالم کو متدین (دیندار دین حق کا طرف دار) و محقق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں۔ اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تعرض نہ کریں۔ خصوصاً دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی کرنا، چھوٹا منہ، بڑھی بات کا مصداق ہے۔ غیبت اور حسد سے اعمالِ حسنہ ضائع ہوتے ہیں۔ ان امور سے پرہیز کریں۔ اور تعصب و عداوت سے بچیں۔ اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا کریں کہ یہ کام علماء کا ہے۔ عوام کو علماء پر بدگمانی سے اور مسائل میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔

۲۸ کے خصوصاً اس دور پر فتن میں کہ قدم قدم پر بھوکے بھیرے، گھات لگائے، عامۃ المسلمین کے دین و ایمان پر نظر جمائے، حیا و شرم سے عاری، بے حیائی و بد لحاظی سے یاری، گلی گلی، کوچہ کوچہ، گھر گھر تاک جھانک کرتے پھر رہے ہیں۔ اور جہاں موقع پاتے ہیں مسلمانوں کی دولتِ ایمان کو لوٹ کر دفن ہو جاتے ہیں تو سلامتی کی راہ یہی ہے کہ صرف انہیں علمائے کرام سے ربط و ضبط رکھیں جو مذہبِ مہذبِ اہلسنت پر قائم و دائم ہیں اور عوام میں صرف انہیں سے یارانہ

منائیں جو ان کے ہم عقیدہ ہم مذہب و مسلک ہوں، جو اس طریقہ پر نہیں، انہیں غیر ہی جانیں، غیر ہی سمجھیں۔ اگرچہ وہ لباس علماء میں ہوں، کہ جو محبوبانِ خدا کے نہیں ہمارا ان سے کیا سروکار۔ ہم ان کے بہکائے میں آکر، ان کا در کیوں چھوڑیں۔ اور ان کے ٹکڑوں سے منہ کیوں موڑیں۔

چھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے ٹکڑا تیرا

۴۹ کے مسلمانوں! تم نے اس طائفہ مجددیہ، وہابیہ نجدیہ کے خیالات مردودہ پڑھے سنے اور دیکھے۔ یہ وہ خیالاتِ باطلہ ہیں کہ سوائے جاہل یا گمراہ غافل کے، کسی پاک نفس ایماندار کے قلب صاف میں جگہ نہیں پاسکتے۔ تو تمہیں کیا پڑھی ہے کہ ان سے الجھو اور اپنا وقت عزیز، لا طائل گفتگو و مباحثے میں برباد کرو۔ وہابیہ نجدیہ نے اپنے ان عقائدِ خبیثہ پر خبیثیت کا نقاب ڈالا اور برصغیر پاک و ہند میں، یہی وہابی، سنی حنفی چشتی بن کر آئے اور مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی تک و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی ان کے نزدیک جہاد ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مفاد۔

تو ہمارے بہادرانِ اہلسنت و جماعت ایسوں سے ایسا تعلق و علاقہ ہی کیوں رکھیں جس سے دین و ایمان پر حرف آئے بلکہ یہ دولتِ بیش قیمت ہاتھوں سے جاٹے، ان سے حتی الامکان دور رہنا، ان کی مجلسوں سے دور بھاگنا، ان کی صحبتوں سے دوری اختیار کرنا، یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اور ان سے دینی امور، مذہبی معاملات میں گفت و شنید، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ، بالخصوص سیدھے سادے ان پڑھ عوامِ اہلسنت کے لیے زہرِ قاتل، کہ شیطان موقع کا منتظر ہے اور انسان اپنے مستقبل سے بے خبر۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ آہرزمانے میں و جال و کذاب ہوں گے۔ جو تمہارے سامنے وہ حدیثیں لائیں گے کہ نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ لہذا تم خود کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور بھاگو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں (مسلم شریف) یہی راہِ نجات ہے اور یہی جبلِ متین ہے

ذیابُ فی ثیاب ، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ سلام اسلام محمد
کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور اس مسئلہ میں جو تحقیق اور عملدرآمد تحریر کیا گیا ہے، کچھ اس مسئلے ہی
کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نہایت مفید اور کارآمد مضمون ہے، جو اکثر
مسائل اختلافیہ، خصوصاً جن کا یہاں ذکر ہے اور جو اس کے مثال ہیں۔
مثلاً مصافحہ یا معانقہ عیدین یا مصافحہ بعد و عظا، و بعد نماز فجر و عصر
یا نماز ہائے پنجگانہ، و تکرار تہلیل بعد نماز پنجگانہ، و دست بوسی و پا بوسی،
اور ان کے سوا بہت امور ہیں، جن میں اس وقت شور و شر پھیل رہا ہے
ان سب امور میں اس مضمون کا لحاظ رکھنا مفید ہوگا۔ کہ یہ سب اسی
قاعدے پر مبنی ہیں۔ فاحفظ تنفع ان شاء اللہ تعالیٰ۔

۵۔ روئے سخن موافقین کی طرف ہے کہ وہی اہل حق و یقین ہیں۔ ورنہ مخالفین نے
اور کسے مانا ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی مانیں گے۔ مولیٰ عزوجل توفیق خیر
رفیق بخشے کہ وہی ہادی برحق ہے اور اسی کی توفیق سے قبول حق کی دولت نصیب
ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد فرمودہ یہ چند کلمے ہی کافی ہیں
جن کا قدرے تفصیل سے ذکر مذکور ہوا۔ ازاں جملہ یہ کہ یہ فعل مبارک اعنی میلاد
اقدم اور قیام وقت ذکر ولادت حضور خیر الانام علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام
صد ہا سال سے، بلاد دارالاسلام میں رائج و معمول اور اکابر ائمہ و علماء میں مقرو
مقبول رہا ہے۔ اور شرع میں اس سے ممانعت مفقود ہے تو جب تک شرع میں
ممانعت وارد نہ ہو، اس سے منع کرنا، شریعت پر تہمت جڑانا، اور سخت بیباکی و جرات
ہے لہذا مردود۔ تو مجلس میلاد و قیام وغیرہا امور متنازعہ بیباکی نسبت، مخالفین کا یہ کہنا
کہ زمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے لہذا ممنوع و بدعت قبیحہ ہیں، محض باطل ہو گیا۔ ہاں اس

وقت ممنوع ہو سکتے ہیں، جب مخالفین کا فی ثبوت دین کہ خاص ان افعال کی صراحتاً
ممانعت وارد ہے یا ان افعال میں شرعاً کوئی بُرائی ہے۔ ورنہ اگر یہ امور کسی مستحسن کے
نیچے داخل ہیں تو اُس مستحسن کا، فرد ہو کر خود ہی محمود قرار پائیں گے۔ اور بالفرض کسی
کے نیچے داخل نہ ہوئے اور شرعی ممانعت صراحتاً وارد نہیں تو مباح ہو کر محمود ٹھہریں گے
اس لیے کہ جو امر مباح، بہ نیت نیک کیا جائے، وہ شرعاً محمود ہو جاتا ہے کما فی البحر
وغیرہ۔ پھر بھی ان افعال کی سند زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے مانگنا، ایسی ناوانی
و جہالت ہے جو خود آپ اپنا جواب ہے۔ واللہ۔

ہاں یہ ہم واضح طور پر کہے دیتے ہیں کہ ہم اہلسنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہرگز
نہیں کہ جس زمانے کے جاہل، اپنی جہالت کی سرکشی اور لاعلمی کی خود سری کو اختیار
کر کے، جو بات چاہیں، اپنی جانب سے نکال لیں اور ہم اُن خود سروں کی اس حلیہ جوئی
کو، ماراہ المسلمون حسنائیں داخل مان کر اُسے محمود و معمول علماء ٹھہرا دیں۔ کلام علماء میں
ہے کہ جس امر کو یہ اکابر امت مستحب و مستحسن کہیں، وہ بے شک مستحب و مستحسن ہے
چاہے کبھی واقع ہو کہ علمائے دین کسی وقت میں مصدر و مظہر شر نہیں ہوتے۔

(۱۲) محمد خلیل عفی عنہ

اللہ مولانا شیخ محقق عبد الحق دہلوی قدس سرہ ثابت بالسنۃ میں لکھتے ہیں
"لا یخفی ان الذکر والتسبیح والتہلیل والدعاء لا یاس پہ لانہا مسرورۃ
فی کل الامکنۃ والازمان۔ پوشیدہ نہ رہے کہ ذکر و تسبیح (سبحان اللہ کہنا)
و تہلیل (لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا) و دعائیں کچھ مضائقہ نہیں۔ کہ یہ چیزیں تو ہر جگہ اور
ہر وقت میں مشروع ہیں۔"

اللہ اللہ! کیا ستم جبری ہیں وہ لوگ کہ قرآن و حدیث کی عام مطلق اجازتوں،
اور اکابر علماء دین متین کی صراحتوں کے بعد بھی، خواہی خواہی، بندگان خدا کو اس
کی یاد و دعا سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اُس نے ہرگز اس سے ممانعت نہ فرمائی بلکہ
صوفیائے کاملین و علمائے صالحین نے اذکار و اشغال و اوراد وغیرہ کے صد ہا

طریقے ایجاد کئے۔ پھر انہیں سببِ قربِ الہی و رضائے ربانی جانا کیے۔ خود عمل میں لائے، اوروں کو ان کی ہدایت و تلقین کرتے رہے۔ مگر حضرات و ہابیب اب تک اسی مغالطہ میں گرفتار اور اسی وسوسہ کا شکار ہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں یہ احداث و مروج نہ ہوئے لہذا بدعتِ سیئہ ہیں۔ مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زد میں کون کون آیا اور کون کون آتا ہے۔ تمہارے وہی تباہی اقوال کی بنیاد پر مقتدیانِ اہلسنت، ائمہ سلف سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما تک، سب خاطر و آثرم، سب کج فہم اور سب ناعاقبت اندیش قرار پاتے ہیں۔ عوام بیچاروں کا کیا کہنا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۲ مصافحہ امور معاشرت سے ایک امر ہے جس سے مقصود شریعہ، باہم مسلمانوں میں از دیوار الفت، اور ملتے وقت اظہارِ اُتس و محبت ہے۔ حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "آپس میں مصافحہ کرو، تمہارے سینوں سے کینے نکل جائیں گے۔ (ابن عدی - ابن عساکر)۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجج اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں: "السرفی المصافحہ وقولہ مرحبا بفلان ومعانقہ القادح ونحوہا انتہا زیادۃ المودۃ ولبتیشیش ورافع الوحشۃ التدابیر مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا۔ آنے والے کے لیے مرحبا کہنا اور اُس سے معانقہ کرنا، اور اسی قبیل کے دوسرے امور میں راز یہ ہے کہ ان سے مسلمانوں میں محبت و بشاشت بڑھتی اور وحشت اور ایک دوسرے سے کنارہ کشی کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔" اسی میں ہے "مسلمانوں کا آپس میں محبت و مودت سے رہنا سہنا، یہ وہ عادتِ حضرت ہے جو پسندیدہ بارگاہِ الہی ہے، اور باہم سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا، دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ یوہیں مصافحہ کرنا، دست بوسی کرنا اور دوسری خصمتیں۔"

غرض ایسے امور قوم کے عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو امر جس طرح جس قوم میں رائج ہو۔ اور ان کے نزدیک الفت و اُتسیت اور اُس کی زیادت پر دلیل ہو

وہ عین مقصودِ شرع ہوگا۔ جب تک بالخصوص اس میں کوئی نہی وارد نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی کسی خصوصیت سے، شرعِ مطہر کی کوئی خاص غرض متعلق نہیں۔ اصل مقصود سے کام ہے۔ خواہ وہ کسی ہیئت و خصوصیت سے حاصل ہو۔ آخر نہ دیکھا کہ انہیں امور میں، جو بوقت ملاقات، بغرضِ مذکور یعنی از دیارِ محبت، مشروع ہوئے۔ ایک مرتباً کہتا تھا کہ اُس سے بھی خوشدلی اور اُس شخص کے گنے پر فرحتِ قلبی ظاہر ہوتی ہے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو مسلمان مسلمان سے مل کر مرتباً کہے اور ہاتھ ملائے اُن کے گناہ جھڑ جائیں" (احمد) پھر عجیب شہروں میں اس کا رواج نہیں۔ فارس میں اس کی جگہ خوش آمدی کہتے ہیں۔ اور یہاں برصغیر پاک و ہند میں "آئیے آئیے" تشریف لائیے۔ اور اس کی مثل دوسرے کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی عاقل اسے مخالفتِ حدیث و مزاحمتِ سنت قرار دے کر، اس فعل کو بدعتِ شنیعہ ٹھہرائے گا۔ رات دن دیکھا جاتا ہے کہ خود حضراتِ منکرین میں دوستوں کے ملنے وقت اسی قسم کے الفاظ کا استعمال عام ہے۔ یہ کیوں نہیں بدعت و ممنوع اور خلافِ سنت قرار پائے؟ تو وجہ کیا ہے۔ یہی کہ اصل مقصودِ شرع، وہی اظہارِ خوشدلی، بغرضِ از دیارِ محبت ہے۔ کہ محبتیں بڑھیں، اُلفتیں پروان چڑھیں۔ یہ مطلب عرب میں لفظِ مرتباً سے مفہوم ہوتا تھا۔ یہاں ان لفظوں سے ادا کیا جاتا ہے تو شریعت کا مقصود ہر طرح حاصل ہے۔

ہاں وہ بات جس میں کسی طرح کسی رنگ، مقاصدِ شرع سے مخالفت ہو، بے شک ناپسند ہوگی۔ اگرچہ کسی قوم میں اس کی رسم پڑی ہو۔ جیسے سلام کے عوض، بلا ضرورتِ شرعیہ، انگلی یا سبیلی کا اشارہ۔ کہ یہود و نصاریٰ سے مشابہت کی وجہ سے اس کی ممانعت آئی۔ (ترمذی) یوں جو امر نوپید کہ کسی سنتِ ثابتہ کی ضد واقع ہو اور اس کے فعل سے، کسی سنت پر عمل، زائل ہوتا ہو وہ بے شک ممنوع و مذموم ہے۔ جیسے سلامِ علیکم کی جگہ آج کل عوامِ پاک و ہند میں، آداب۔ مجرا۔ کورنش بندگی کا رواج ہے۔ یہاں تک کہ غریب بندے، بعض معززوں سے، بطریقِ سنت

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہیں، تو وہ اپنے حق میں اسے گویا گلی سمجھیں۔ کہ کیا ہمیں برابر کا سمجھ رکھا ہے۔" ایسے معززوں کے اس فعل نے اُن سے سنتِ اسلام اٹھا دی۔ یہ بے شک مذمت و انکار کے قابل ہے۔ بخلاف مصافحہ و معانقہ کے کہ اس سے کسی سنت کا ازالہ نہیں ہوتا۔ تو اسے ممنوع و مذموم ٹھہرانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ "بدعتِ مذمومہ صرف وہی نوپیدا بات ہے جو کسی سنتِ ثابتہ کا رد کرے۔"

پھر جبکہ یہ مصافحہ و معانقہ مسلمانوں میں صد ہا سال سے متواتر اور مروج ہے۔ یہاں تک کہ تمام بلادِ اسلامیہ میں علمائے کرام، فضلاء عظام اور عوام اہل اسلام کا معمول ہے۔ اور جو بات مسلمانوں میں متواتر ہو بے اصل نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً محمود ہے اور ایسی کسی چیز کے لیے کوئی خاص سند درکار نہیں ہوتی۔ (فتح القدیر) حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "لوگوں سے وہ بڑاؤ کرو، جس کے وہ عادی ہو رہے ہیں (حاکم) ولہذا ائمہ دین ارشاد فرماتے ہیں "لوگوں میں جو امر رائج ہو جب تک اُس سے صریح نہی ثابت نہ ہو، ہرگز اُس میں خلاف نہ کیا جائے۔ بلکہ انہیں عادات و اخلاق کے ساتھ، ان سے بڑاؤ کیا جائے۔"

شرعیاتِ مطہرہ سنتی مسلمانوں میں اتحاد و واداپستند فرمائی، اور ان کو باہم بھڑکانا، ان میں نفرت پھیلانا، ان میں مخالفت بڑھانا، ناجائز بتاتی ہے۔ توجہ ضرورت شدیدہ و رخصتِ شرعیہ مسلمانوں کی راہوں سے الگ چلنا، سخت احمق جاہل کا کام ہے۔ امام حجۃ الاسلام قدس سرہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ "ان امور میں لوگوں سے موافقت، صحبت و معاشرت کی خوبی سے ہے۔ اس لیے کہ مخالفت و حسرت لاتی ہے۔ اور ہر قوم کی ایک رسم ہوتی ہے۔ اور بالضرورة لوگوں کے ساتھ، ان کی عادتوں کا بڑاؤ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ خصوصاً وہ عادتیں جن میں اچھا بڑاؤ۔ نیک سلوک اور موافقت کر کے دل خوش کرتا ہے۔" یہاں تک کہ فرمایا "ایسے ہی مساعدت و موافقت کی ساری قسمیں جبکہ اُس سے دل خوش کرنا

منظور ہو۔ اور کچھ لوگوں نے وہ روش قرار دے لی ہو۔ تو ان کے موافق ہو کر اس پر عمل کرنا، کچھ مضائقہ نہیں رکھتا۔ بلکہ موافقت کرنا ہی بہتر ہے۔ مگر جس امر میں شرع سے ایسی نہی آگئی ہو جو قابل تاویل نہیں۔ (اس میں موافقت نہ کی جائے گی) جن لوگوں کو مقاصد شرع سے کچھ غرض نہیں اور اپنی ہولے نفس کے تابع ہیں، وہ خواہی نخواستہ، ذرا ذرا سی بات میں مسلمانوں سے الجھتے اور ان کے عادات و افعال کو، جن پر اصلاً شرع سے ممانعت ثابت نہیں، ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہ شریعت پر افتراء ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

دوسرا مسئلہ ۰ فاتحہ مروجہ

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصالِ ثوابِ ارواح میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ، ثواب کا سمجھے، یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقییدِ ہیئت کذائیہ ہے، تو کچھ حرج نہیں۔ جیسا مصلحت نماز میں سورت خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔

بات یہ ہے کہ فاتحہ، ایصالِ ثواب کا نام ہے۔ اور ایصالِ ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ، یا کسی نیک کام کا ثواب، دوسرے کو پہنچانا اجائز و مستحسن ہے۔ اہلسنت کے نزدیک اموات کو ثواب پہنچانا، اور نیک اعمال کا ثواب مردوں کو پہنچانا ثابت ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ ثواب پا کر خوش ہوتا اور ثواب پہنچنے کا منتظر رہتا ہے۔ باقی رہا فاتحہ مروجہ کا ثبوت، کہ کھانا سامنے رکھ کر، درود و قرآن پڑھ کر، ثواب اس کا بنام میت کرتے ہیں، وہ خود شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے کلام میں آگے آتا ہے۔ ہم صرف اتنی بات پر اکتفاء کرتے ہیں کہ فاتحہ کے وقت کھانے وغیرہ کا، قاری کے پیش نظر ہونا، اگرچہ بیکار سی بات ہے مگر اس کے سبب سے ایصالِ ثواب، یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں آتا۔ جو اسے ناجائز و ناروا کہے، ثبوت اس کا دلیل شرعی سے دے۔ ورنہ اپنی طرف سے بحکم خدا و رسول کسی چیز کو ناروا کہہ دینا، خدا و رسول پر افتراء کرنا ہے، ہاں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جیب تک کھانا سامنے نہ ہو

ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان اُس کا محض غلط ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصالِ ثواب کی نیت کر لی۔ متأخرین میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں نیت، ہر چند دل سے کافی ہے۔ مگر موافقتِ قلب و لسان کے لیے عوام کو زبان سے بھی کہنا مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا جائے کہ "یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے" تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ "اُس" کا مُشار الیہ، اگر رو بہ موجود ہو تو زیادہ استحضار (و حضور) قلب ہو، کھانا رو بہ و لائے لگے۔ کسی کو خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے، اگر کچھ کلام الہی پڑھا جاوے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔

چہ خوش بود کہ بر آید بیک کر شتمہ دو کار۔"

۵۴ اور مومن کو عملِ نیک کا ایک ثواب اُس کی نیت کرتے ہی حاصل، اور عمل کئے پر دس ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوا۔ بلکہ متعدد حدیثوں میں فرمایا گیا کہ نَيْتَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ۔ مسلمان کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بعض احادیث میں آیا کہ "بے شک اللہ عزوجل، بندہ کو اُس کی نیت پر وہ ثواب دیتا ہے جو اس کے عمل پر نہیں دیتا۔" اور وجہ اس کی ظاہر، کہ نیت، جو ارادہ قلب کا نام ہے۔ اس میں ریا کو دخل نہیں۔ اور عمل، جو اعضائے بدن کی استعانت سے وجود میں آتا ہے، اُس ریا و نمائش کی بڑھی گنجائش ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۵ فاتحہ میں دو عمل ہوتے ہیں قرأتِ قرآن و اطعامِ طعام۔ طریقہ صریح میں ثواب پہنچانے کی دعا اُس وقت کرتے ہیں جبکہ کھانا وغیرہ دینے کی نیت کر لی۔ اور کچھ قرآنِ عظیم

پڑھ لیا۔ تو کم از کم گیارہ ثواب تو اس وقت مل چکے۔ دس ثواب قرأت کے۔ اور ایک نیتِ اطعام و تصدق کا۔ رہا کھانا وغیرہ کھلانے یا دے دینے کا ثواب وہ اگرچہ اس وقت موجود نہیں۔ تو کیا ثواب پہنچانا، شاید ڈاک یا پارسل میں کسی چیز کا بھیجنا سمجھا گیا ہے کہ جب تک وہ شے موجود نہ ہو، کیا بھیج جائے۔ حالانکہ اس کا طریقہ صرف جناب باری میں دعا کرنا ہے کہ وہ ثواب میت کو پہنچائے۔ خود امام الطائفہ الوہابیہ نے صراطِ مستقیم میں لکھا کہ "طریق رسائیدن آل دعا بجناب الہی ست"۔ کیا دعا کرنے کے لیے بھی اس شے کا موجود فی الحال ہونا ضروری ہے؛ مگر ہے یہ کہ جہالت سب کچھ کر لیتی ہے۔ ہمارا روئے سخن یہاں ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ کھانا محتاج کو دینے سے پہلے، اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا پہلے کھلائے پھر ثواب پہنچائے۔"

یاد رکھیے کہ فاتحہ کے تین طریقے مروج ہیں اور تینوں درست دروا۔ اول شریفی یا کھانے وغیرہ پر سورۃ فاتحہ وغیرہ خود پڑھ کر، یا دوسرے سے پڑھوا کر، تقسیم کر دینا۔ دوم کھانا وغیرہ حاضرین کے سامنے رکھ کر یہ کہہ دینا کہ ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ دیکھے۔ اور جب وہ پڑھ لیں تو انہیں کھانے کی اجازت دے دینا۔ سوم کھانا وغیرہ حاضرین کو کھلا کر، ان سے کہنا کہ فلاں کو اس کا ثواب بخش دیکھے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

(ولہذا) قرآن شریف کی بعض سورتیں بھی جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں، پڑھی جائے لگیں۔ کسی نے خیال کیا، دعا کے لیے رفع یدین سنت ہے۔ ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا، کھانا جو مسکین کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے۔ پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ اس پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ ہیئت کذائیہ حاصل ہو گئی۔

۵۶ خصوصاً سورہ فاتحہ کہ اس کا جزبہ اعظم ہے اور اسی کی بنا پر فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں اور جس کے لیے احادیث صحیحہ میں وارد کہ ”نہ اس کے مثل“ توراہ میں کوئی سورت اتاری گئی۔ نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ نہ قرآن میں اور باعتبار ثواب یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم کی جان ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام اقم الکتاب ہے۔ اسی طرح آیتہ الکرسی کہ شیطان اُس گھر سے بھاگتا ہے جس میں آیتہ الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا پڑھنے والا اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ یونہی سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف، جس کے لیے فرمایا گیا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تہائی قرآن کے برابر ہے یا اور دوسری سورتیں یا منتخبہ آیتیں۔ جنہیں عرف عام میں پنج آیت کہا جاتا ہے۔ غرض مقصود اصلی، قرأت قرآن ہے خواہ کسی جائز طریقے پر پڑھا جائے۔ اور خواہ اُسے کوئی بھی نام دیا جائے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۷ آسمان قبلہ دُعایے تو کمال ادب یہی ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں۔ سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل رہیں۔ یعنی اُن میں خم نہ ہو۔ اور یہ ہاتھ اٹھانا اور رب کریم کے حضور پھیلانا، اپنی عاجزی و فروتنی کے اظہار کے لیے ہے اس سے شرمنا یا اُس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے بچنا، قطعاً اس عاجزی و بے کسی کے اظہار میں خلل انداز ہے تو شریعتِ مطہرہ میں یہ کیوں کہ گوارا ہوگا۔ نہ یہ کہ دوسرے جو اس کی درگاہ بے کس پناہ میں گر گرتے، ہاتھ پھیلاتے اور اُس سے اپنی حاجات روائی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اُنہیں اس سے روک دیا جائے اور اُن پر بدعت و گناہ کے فتوے تھوپ دیئے جائیں۔ خصوصاً جب کہ وہ دوسروں کی بخشش کے لیے دُعا کر رہے ہیں، بالخصوص مجمعِ مسلمین میں کہ بتوفیقِ الہی عاجزی و الحاح میں زیارت کی موجب ہے اور جس قدر، ادھر سے عاجزی زیادہ ہوگی، ادھر

سے لطف و کرم زیادہ ہوگا۔
 زور را بجزارہ و زاری را بجز
 رحم سوئے زار آید لے فقیر

خاک سے زیادہ کوئی بانیاز نہ تھا، اسی واسطے آفتابِ عنایت، عرش و کرسی اور فلک و ملک کو چھوڑ کر اس پر چمکا اور عنایتِ ازلی نے اسے شرفِ برتری بخشا۔ کہ جو خاک و خاکی نے پایا کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۹ رہا تعینِ تاریخ، تو یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں معمول ہو تو اس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے اور نہیں تو، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اسی قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں۔ جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض بطور نمونہ حضورؐ اس بیان کیا گیا ہے۔ زمین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اور قطع نظر، مصالحِ مذکورہ کے، ان میں بعض اسرار بھی ہیں، پس اگر یہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

۵۸ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے ثابت کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے انتقال کیا، تو کون سا صدقہ افضل ہے۔ فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھود کر کہا ہذہ لام سعد۔ یہ مادر سعد کے لیے ہے۔ (ابوداؤد و نسائی) ایک حدیث میں ہے، سب سے بہتر صدقہ پانی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جہاں پانی نہ ملتا ہو، کسی کو پانی پلانا ایک جان کو زندہ کرنے کے مثل ہے۔ اور جہاں پانی ملتا ہو وہاں پلانا، غلام کو آزاد کرنے کے مثل ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۵۹ امواتِ مسلمین کو بدیہِ اجر و ایصالِ ثواب باجماع اہلسنت وہ کار خیر و مندوب ہے کہ خود شرعاً محبوب بلکہ مطلوب ہے۔ خود احادیثِ کریمہ میں اس پر ترغیب وارد کہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم میں سے جو، اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ یہ حکم عام و شامل ہے۔ اور اس میں ہر مسلمان بھائی

داخل، خواہ وہ زندہ موجود ہو، یا مردہ مرحوم، جیسا ایصالِ ثواب کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اُسے فائدہ پہنچے گا۔ اور وہ مرحوم اس ثواب کو پا کر خوش ہوگا۔ تو اس کا رخیر سے روکنے کے لیے بہانے تراشنا اور تخصیص و تقیید کو حیلہ بنا کر، آرٹے آنا کہ فلاں تاریخ و فلاں دن کی خصوصیت نے، یا فلاں طریقے کی خصوصاً رعایت نے سے بدعت بنا دیا، کسی سفینہ و جہاں کا کام ہو سکتا ہے۔ یا پھر ان گمراہوں، گمراہ گروں کا، جو اپنے بطون میں جراثیم و ہابیت لیے پھرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار پھیلا کر انہیں امورِ خیر سے عار دلا کر، اہلسنت و جماعت کے اجماع کو پارہ پارہ کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی تو اتنا یاد رکھیں کہ ایصالِ ثواب کے لیے مسالین کو کھانا کھلانا، یا ان میں تقسیم کرنا اور نیک نیت سے خیرات کرنا۔ جس میں نہ محتاج بہ احسان رکھا جائے۔ نہ اس کو تکلیف دی جائے۔ اور نہ کھانے کی بے حرمتی ہونے پائے۔ یونہی پرندوں کے لیے پانی رکھنا۔ دانہ ڈالنا۔ حتیٰ کہ کتے کو روٹی ڈالنا۔ مسکین کو کپڑا دینا۔ میلاد شریف پڑھوانا۔ ان کے علاوہ اور جو اجر و ثواب کی باتیں ہیں ان کا عمل میں لانا، اور ان کا ثواب میت کو پہنچانا بلاشبہ جائز اور کارِ ثواب ہے۔ ان سب کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں دوستوں کے ہدیے تحفے سے، ملنے ان ثوابوں کو، نور کے طبق میں رکھ کر میت کے پاس لے جاتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ اے گہری گور والے! یہ ثواب تیرے فلاں عزیز یا دوست نے بھیجا ہے۔ یونہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں رکھنا، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ رہیں گے اور پڑھے جائیں گے۔ اس کے رکھنے والے اور میت کو ثواب پہنچے گا۔ اور کیسا ثواب؟ ہر حرف پر دس نیکیاں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا۔ "میں نہیں کہتا اللہ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے۔ لام الگ حرف ہے۔ میم الگ حرف ہے۔" یونہی میت کی قبر پر پھول چڑھانا مفید ہے۔ وہ جب تک تر ہے رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ پھر یہ ایصالِ ثواب ہر دن ممکن ہے اور کسی خصوصیت کے سبب، یا کسی مصلحت کے پیش نظر، ایک تاریخ کا التزام،

جیکہ اُسے شرعاً واجب نہ جانے، کچھ مضائقہ نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نقلی روزہ رکھتے۔ کیا تواریخ یا منگل کو رکھتے، تو نہ ہوتا۔ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا۔ یہی حال فاتحہ سوّم و دہم و ہشتم و چہلم کا ہے کہ کسی نہ کسی مصلحت کے مد نظر ان کی تعیین کر لی گئی ہے۔ یہ تخصیصات نہ شرعی تخصیصات ہیں۔ نہ ان کو شرعی سمجھا جاتا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی کوئی مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسی دن یا تاریخ کو ثواب پہنچے گا۔ اگر کسی اور دن تاریخ میں کیا جائے تو نہ پہنچے گا۔

عزیزو! یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت و آسانی کے لیے مسلمانوں میں معمول و مروج ہے۔ جیکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن کریم کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور نہبت دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کیونکر کیا جاسکتا ہے کہ مخصوص ایام کے سواء دوسرے دنوں میں لوگ اسے ناجائز جانتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں پر ناحق بدگمانی اور صریح افتراء ہے۔ ورنہ یوں تو ہر مسلمان، ایسی حرافات کرنے والوں کو لاجواب خاموش و مبہوت کر دینے کی نیت سے کہہ سکتا ہے کہ روٹی کھاتے وقت، روٹی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں اور سر پر رکھ کر توڑ سکتے ہیں۔ مگر اے مخالفو! منکرو! یہ جو تم نے التزام کر رکھا ہے، کہ روٹی سامنے ہی رکھ کر کھاتے ہو تو کیا یہ شرعاً فرض واجب ہے؟ اگر ہے تو دلیل و سند لاؤ۔ اور نہیں تو اپنی ضد سے باز آؤ مگر ہے یہ کہ وہابیہ کے نزدیک جو واجب نہ ہو، اُس کے التزام سے شیطان کا حصہ آجاتا ہے تو ثابت ہو کہ وہابیہ شیطان کا حصہ کھاتے ہیں۔

غرض تاریخ و یوم کی تخصیص و تعیین عرفی ہے جس سے ثواب میں خلل نہیں آتا۔ یہ تخصیصات و تقییدات، خالق کائنات نے مباح کی ہیں، تو جب تک یہ لازم شرعی نہ سمجھی جائیں، مباح و مندوب ہی رہیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث شریف میں کہ صَوْمِ یَوْمِ السَّبْتِ لَکُمْ وَلَا عَلَیْکُمْ یعنی ہفتہ کا روزہ مباح ہے

نہ واجب کہ آدمی مزید ثواب پائے اور اس کے ترک پر گناہ لازم آئے۔ اور نہ اس پر
 ممانعت وارو کہ حکم عدولی قرار پائے۔ اور موجب عتاب ہو۔ منکرین یہ نہیں جانتے
 اور جانتے ہیں تو مانتے نہیں، کہ آج کل جس طرح مدارس اور خانقاہیں اور مسافر خانے
 بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان ان کو فعل ثواب سمجھتے ہیں، تو کیا کوئی ثبوت دے
 سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بنائے یا بنوائے تھے۔ یا کوئی ثبوت دے
 سکتا ہے کہ فاتحہ جس طرح اب دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع
 فرمایا۔ اور جب ممانعت کا ثبوت نہیں دے سکتا اور بے شک ہو کہ نہیں دے سکتا
 تو دل سے حکم شرعی گڑھ کہ شریعت پر افتراء کیوں کرتا ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

رہا عوام کا غلو۔ تو اولاً اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس عمل سے کیوں
 منع کیا جائے۔ ثانیاً اس کا غلو اہل فہم کے فعل میں مؤثر نہیں ہو سکتا۔
 لنا اعمالنا و لکم اعمالکم۔ رہا شبہ تشبہ کا۔ اس میں بحث اڑیس
 طویل ہے۔ مختصراً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبہ اُس وقت تک رہتا
 ہے، جب تک وہ عادات، اُس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہوں
 کہ جو شخص وہ فعل کرے اُسی قوم سے سمجھا جائے۔ یا اس پر حیرت ہو۔ اور
 جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبہ جاتا رہتا
 ہے۔ ورنہ اکثر امور متعلق عادات و ریاضات، جو غیر قوموں سے ماخوذ
 ہیں، مسلمانوں میں اس اکثریت سے پھیل گئے کہ کسی عالم درویش کا
 گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے۔ قصۃ تطہیر
 اہل قبا، اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو ہیئت عام نہیں ہوئی وہ
 موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ ہیئت مروجہ ایصال، کسی قوم
 کے ساتھ مخصوص نہیں۔

۱۳ مثلاً انہیں اسن طریقہ پر سمجھایا اور ان کے ذہن نشین کرایا جائے کہ اموات

مسلمین کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور اُسے فائدہ پہنچائے۔ بے شک مسلمانوں کو نفع رسائی سے اللہ عزوجل کی رضا و رحمت ملتی ہے۔ اور اُس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے مگر آدمی کو اللہ کے کام میں، اللہ ہی کے لیے نیت، اور دل میں خلوص چاہیے۔ دنیا کی نام و نمود، اور نمائش و شہرت کو اس میں دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ کہ جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے اُسے دنیا مل جاتی ہے مگر ثوابِ اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم نے نیاز و روفائتہ میں، اگر دن یا تاریخ مقررہ کے متعلق یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں دنوں میں ثواب ملے گا۔ آگے پیچھے نہیں، تو یہ سمجھنا اور انہیں لازم شرعی ماننا، حکم شرعی کے خلاف ہے۔ یوں انہیں بتائیں کہ فاتحہ و ایصالِ ثواب کے لیے، کھانے کا پیش نظر ہونا کچھ ضرور نہیں۔ یا حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا کھانا پر دے میں رکھنا۔ اور مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ عورتوں کی جہالتیں ہیں اور محض بے ثبوت اور اختراعی باتیں۔ مردوں کو چاہیے کہ ان خیالات کو مٹائیں اور عورتوں کو راہِ راست و حکم شرعی پر چلائیں۔ وغیرہ وغیرہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اللہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَا تَنْزِمُوا نِسَاءً وَنِسَاءً اخْرَى۔ تو جو عوام نے کیا اُس میں خواص کو اور علماء و صلحاء ملت و اتقیاء امت کو کیوں شامل کیا جائے۔ خصوصاً جبکہ علماء کرام میں کسی فعل کا مروج اور کسی عمل کا معمول ہونا خود اس کے جائز ہونے کی دلیل شرعی ہے۔ عوام الناس بلکہ ان میں بھی محض ناواقف و بے علم مسلمانوں سے اگر کوئی ایسا فعل ثابت ہے، یا ان میں معمول ہے جو صراحتاً احکام شرعی کے خلاف ہے تو اس پر صرف انہیں کو ملزم و مجرم قرار دینا صحیح ہے نہ کہ معاذ اللہ، ان کے سبب حکم عام لگا دینا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں گھسیٹ لینا۔ یہ محض باطل ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۴۲ گنگوہی صاحب سے سوال ہوا کہ آب و طعام سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر، فاتحہ پڑھ کر، ایصالِ ثواب بھولی کرنا ثابت و جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جناب گنگوہی صاحب

نے یہ دیا کہ "اور فاتحہ میں ہاتھ اٹھا کر پڑھنا، طعام و شراب رو بہ رو رکھنا، مشابہت فعل ہنود سے ہے۔۔۔۔ (الی ان قال) اور تفصیل ان جملہ مسائل کی، لفظ کے ساتھ براہین قاطعہ میں ہے۔" (فتاویٰ رشیدیہ مطبوعہ کراچی)

اور براہین قاطعہ میں فاتحہ کی نسبت مذکورہ "تشبہ ہنود کا بھی اس میں مقرر ہے۔ کیونکہ تمام ہنود میں رسم ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ طعام پر بید پڑھواتے ہیں۔ تحفہ الہنود میں ہے کہ ہر سال جس تاریخ کو کوئی مرا اسی تاریخ کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ اور اس کو ضرور جانتے ہیں۔ اور پنڈت اُس کھانے پر بید پڑھتا ہے۔ انتہی۔ پس اگر اس کو رسم ہنود کہیں بجا اور حق ہے۔"

اللہ اللہ قرآن عظیم کی تلاوت وید پڑھنے سے مشابہ ٹھہری، اور یہی تمہارا ایمان، تمہارا دھرم ہے تو روزہ کو کبرت اور حج کو تیرتھ کے مشابہ کہہ دینا۔ اور جو حکم فاتحہ پر لگایا، یہاں بھی جڑ دینا کہ یہ رسم ہنود ہے۔ تو پھر یہ ویو بند کا مدرسہ کیوں نہیں کھودا جاتا، اس کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہیں بجائی جاتی۔ کہ بالکل پاٹھ شالا کے مشابہ ہے۔ سب کام وہی ہیں۔ نام میں فرق ہے تو سوا کرے۔ اور یہ فرق کہ یہاں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں وید۔ فاتحہ میں کب کام آیا، اور فاتحہ میں تم نے کب اس عظیم فرق کا لحاظ رکھا کہ یہاں کام آئے اور وہ فرق لکھو ظاہر ہے۔

مسلمانو! وہابی اپنے پیر طریقت کی نہیں مانتا تو تمہاری کب اُسے پروا۔ مگر تم یہ چند باتیں غور سے پڑھو اور ذہن نشین کر لو کہ (۱) بالفرض اگر بعض ہنود ایسا کرتے ہیں تو بہت سی رسمیں، ہندوؤں نے مسلمانوں سے سیکھی ہیں۔ یہ ثبوت وہابی کے ذمہ ہے کہ اس کے اصل بانی ہنود ہیں یا انہوں نے یہ رسم مسلمانوں سے لی۔ یہ فطری بات ہے کہ سلطنت کا رعیت پر۔ فاتحہ کا مفتوح پر، غالب کا مغلوب پر، اثر ہوتا ہے۔ مسلمان ہندوستان میں آئے تو فاتحہ و غالب حاکم بن کر آئے۔ اور صد ہا سال سلطان و حکمران رہے۔ ان کا اثر، ہندو رعیت پر پڑا۔ ہندوؤں کی طرز معاشرت میں بھاری تبدیلیاں آئیں۔ مسلمانوں کے ساتھ لین دین

کاروبار، ملازمت وغیرہ امور دنیاوی میں انہوں نے مسلمانوں کا اثر قبول کیا یہاں تک کہ ہندوؤں کے روزمرہ میں عام گفتگو اور باہمی بات چیت میں بہ کثرت الفاظِ عربیہ داخل ہو گئے اور ایسے ان کے دل و دماغ میں رچے بسے کہ آج تک انہیں ان کا نغمہ البدل اپنی زبان میں نہ مل پایا۔ تو یہ رسم بھی ان ہندوؤں نے، ہم مسلمانوں سے لے کر اپنے معاشرے میں داخل کر لی ہو تو کیا محال ہے، اور کیوں اس پر اتنا شور غوغا برپا ہے؟ پھر اس رسم کو ہندوؤں کا شعار کہتا، صریح جھوٹ اور نرا اتہام ہے۔ کسی قوم کا شعار وہ فعل و عمل ہے جس سے ان کی پہچان ہو اور ان میں اور ان کے غیر میں، اس سے امتیاز کیا جاتا ہو کہ یہ فلاں ہے مثلاً نصرانی یا مجوسی یا ہنود۔ اور فلاں چیز سے یہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ فلاں چیز اس کا شعار ہے۔ جیسے نصرانی کی صلیب، ہندوؤں کی چوٹی۔ گلے میں جئیو اور ماتھے پر قشقہ۔ یہاں شعار بیت اگر ہے تو وید پڑھنے سے۔ تو منکروں کا کوئی مولوی، کسی منکر کی فاتحہ میں وید پڑھے یا کسی پنڈت سے پڑھوائے، اسے منع کرنا، ان مفتیوں کا کام ہے کہ تو شعارِ ہنود کا ترکب ہوا۔ مسلمانوں کا حال، ان مولویان بد حال کو کیا معلوم۔

مسلمانو! انہیں بتاؤ اور سمجھاؤ کہ مسلمان، فاتحہ میں قرآنِ عظیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ وید پڑھنا ہندوؤں کا شعار تھا۔ تو قرآنِ عظیم کی تلاوت خاص شعارِ اسلام ہے۔ اس زمین و آسمان کے فرق کے بعد بھی، فاتحہ، رسمِ ہنود سے مشابہ ٹھہرے اور یہی بات ان کے دلوں میں قرار پچڑے۔ تو وہابیہ کے قانون کے مطابق روزے بھی ممنوع ہوں اور حج بھی ممنوع قرار پائے کہ بُرت اور تیرتھ سے مشابہ ہوگا۔ خصوصاً نفلی روزے نفلی حج۔ کہ وہی بُرت اور تیرتھ سے تشابہ ہے۔

انتہائی نہیں، وہابیت کی اس ذہنیت کے مطابق، سورج گرہن، اور چاند گرہن کے وقت تصدق و خیرات کرنا بھی ممنوع ہوگا کہ ہندوؤں کا شعار ٹھہرے گا۔ یہاں تو کوئی ایسا فرق بھی نہیں۔ بخلاف فاتحہ کہ اس میں رسمِ ہنود سے تشبہ اسی کو سوچھے گا، جو قرآنِ کریم اور وید میں فرق نہ کرے گا۔ یا پھر یہ احکام شرعیہ،

از انجا کہ بر خلاف حکم "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" ہیں، خلاف قیاس ٹھہر کر اپنے مورد یعنی جانے و رُود و محلّ خاص پر مقتصر و محدود رہیں گے۔ اس سے تجاوز نہ کرینگے۔ علاوہ ازیں، گنگوہی صاحب اور ان کے اتباع و اذتاب کا تعصّب تو ملاحظہ ہو کہ انہیں اپنا فتاویٰ بھی یاد نہ رہا۔ جہاں صاف لکھا کہ "ٹوپی نصرانیوں کی یا کرتے یا پتلون شعار کفر نہیں بلکہ لباس اُس قوم کا ہے۔ ان کا پہننا ہندوستان میں تو تشبہ ہے۔ اور اُس ملک میں کہ وہاں مسلمانوں کا بھی یہی لباس ہے۔ وہاں گناہ بھی نہیں کہ وہاں یہ لباس، شعارِ نصاریٰ نہیں۔" (ص ۳۴۲ مطبوعہ کراچی)

سبحان اللہ وہاں کوٹ پتلون ہیٹ تک شعارِ نصاریٰ نہیں۔ حالانکہ بعینہ شئی واحد ہے۔ اور یہاں کہ صد ہا سال سے تمام مسلمانوں میں فاتحہ کار و اج ہے جسے شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ میں تمام اُمت کا معمول بتاتے ہیں، شعارِ ہنود ہو گیا۔ اور قرآن و وید کا بھی فرق معطل و لا اعتبار رہا۔

تو پھر کہنے دیجئے کہ مدرسہ دیوبند کا قیام و وجود، کیوں نہ حرام و فسق و تشبہ ہنود ہوا۔ بالکل ان کا پاٹ شامل ہے۔ وہی مقصد، وہی مدرس، وہی طلبہ، وہی درس۔ وہی سالانہ جلسے، وہی امتحان، وہی فیل پاس، وہی العام۔ اور اس فرق کا کیا لحاظ کہ تم قرآن مجید اور اُس کے متعلقات پڑھاتے ہو اور وہ وید اور اُس کے متعلقات اُس فرق نے فاتحہ میں کیا کام دیا جو یہاں دے گا۔

مسلمانو! ان منکروں کو بتاؤ کہ تمہارا امام الطائفہ صراطِ مستقیم میں اجتمع طعام و قرآن خوانی کو بہتر لکھ گیا کہ "ہر گاہ با یصالِ ثواب نفع بمیت منظور وارد، موقوف بر اطعام نہ گزارو۔ اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثوابِ سورۃ فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب ہا است۔" یعنی میت کو ثواب پہنچانا کھانے پر موقوف نہ رکھیں۔ ہاں میسر ہو تو بہتر ہے۔ ورنہ صرف فاتحہ و قل کا ثواب سب سے اعلیٰ ہے۔" اور اپنے رسالہ ذبیحہ مندرجہ زبدۃ النصاب میں لکھا کہ "اگر بکرا گھر میں پالے تاکہ اُس کا گوشت اچھا ہو۔ اُسے ذبح کر کے پکا کر، حضرت عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ پڑھ کر

کھلائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔

اب اسے حرام و فسق کی طرف متسوب کرو، یا تشبیہ سنو کی آگ میں جھونکو۔ اتنا دیکھو کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا پندگت بنا ہوا کھانے پر وید پر صنت کر رہا ہے۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

اور سنیئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ میں ہے: "جو کھانا حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیاز کا ہوتا ہے اور اس پر فاتحہ اور قُل ، اور ورد شریف پڑھتے ہیں۔ وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔" اب وہاں یہ اپنی ہند والی رسم کی خبر لیں۔ اور اتنا ہمیں بھی بتادیں کہ شاہ صاحب جو طعام و قرآن خوانی کے اجتماع کو نہ صرف جائز، بلکہ تبرک لکھ گئے۔ اپنے دھرم ایمان سے کہیں کہ وہ تمہارے نزدیک کس زمرے میں آتے ہیں۔ اور وہ صراطِ مستقیم والا کس گنتی میں ہے؟ مذکورہ بالا عبارتوں کے پیش نظر امام ہونا تو بہت ہی کی بات ہے۔ وہ مسلمانوں میں بھی شمار کیے جانے کے قابل ہے۔

یا نہیں ہے۔ جو حرام
یاد رکھنا چاہیے کہ :-

کسی قوم کے ساتھ تشبیہ کی مطلقاً ممانعت پر حدیث شریف من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے اپنی کرنا بھی کج فہمی اور غلط ہے۔ حدیث شریف میں لفظ تشبیہ مذکور ہے جس کا مصدر تشبہ ہے اور تشبیہ کے معنی ہیں "اپنے آپ کو کسی کے مشابہ بنانا"۔ تو حقیقہً یا حکماً مشابہت کا قصد و ارادہ پایا جانا ضروری ہے مثلاً ایک شخص کوئی فعل خاص اس نیت سے کرے کہ کفار کی سی شکل پیدا ہو۔ یا اگرچہ وہ یہ ارادہ نہ کرے، مگر وہ فعل کفار اور ان کی علامت خاصہ ہو جس سے وہ پہچانے جاتے ہوں۔ جیسے سر پر چٹیا، ماتھے پر ٹیکا، گلے میں جینو، اُلٹے پردے کا انگر کھاؤ۔ علی ہذا القیاس، تو بے شک ان صورتوں میں یہ فعل مذموم و قابلِ مذمت

ہے۔ اور اس وعید کا مصداق۔ اور تشبیہ والی حدیث اس پر صادق۔ نہ یہ کہ مطلقاً کسی بات میں اشتراک، اور کسی فعل میں شرکت کا ارتکاب، موجب ممانعت ہو۔ یوں تو انگرکھا ہم بھی پہنتے ہیں۔ ہندو بھی پہنتے ہیں، پھر کیا اُس وجہ سے انگرکھا پہننا حرام ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بر بنائے تشبیہ، کسی فعل پر لوکنا، کسی بات سے روکنا، اسی وقت صحیح ہے، جب فاعل کا قصد، مشابہت ہو، یا وہ فعل اہل باطل کا شعار اور علامت خاصہ ہو جس کے سبب وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یا پھر خود اس فعل کی مذمت شرع مطہر سے ثابت ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہو تو اسے تشبیہ نہ کہا جائے گا۔ تو جس چیز کا کرنا شریعت مطہرہ میں مباح ہے، یعنی شرع سے نہ اس کی خوبی نکلی، نہ بُرائی، وہ اباحتِ اصلیت پر رہتی ہے کہ نہ اُس کے فعل پر لواب ہے، نہ ترک پر عقاب۔ اور نہ یہ تشبیہ میں داخل۔ لہذا کسی نیت تشبیہ اور ارادہ مشابہت کے بغیر، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ شلو اور پہننا، قدیم ایرانیوں کا لباس ہے، عرب کے زمانہ قدیم میں بھی اُس کا رواج نہ تھا۔ بلکہ وہاں تہ بند استعمال ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ شریعتِ اسلامیہ نے اس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ باجماعہ کے لیے تو حدیث میں نَقَمَ السِّرَّ (بہتر لباس) کے الفاظ وارد ہیں لہذا اس کے استعمال میں اگرچہ قدیم ایرانیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن نیت و ارادہ ان سے مشابہت، اُن کی سی شکل و ہئیت بنانا نہیں تو جائز و مباح ہے۔ ہاں جو بات شرعاً ممنوع ہے۔ اُس کے ارتکاب سے اگرچہ کسی قوم سے مشابہت پیدا نہ ہو، پرہیز و اجتناب چاہیے۔ پھر جیسے جیسے شریعت میں اس کی ممانعت بڑھتی جائے گی۔ اُس سے اسی قدر دور و نفور رہنا مؤکد ہوتا جائے گا۔ مثلاً سر میں بائیں جانب مانگ نکالنا، نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ یا سلام میں انگلیوں سے اشارہ کرنا طریقی یہود ہے جیسا کہ متھیلیوں سے اشارہ سنتِ نصاریٰ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب و احتراز کا حکم دیا جائیگا۔ اور وارھی منڈوانا، کتروانا، اُس میں نیٹی نیٹی تراش خراش ایجاد کرنا، کفار ہنود اور نصاریٰ وغیرہم کا شعار رہا ہے اور کبھی ان قوموں نے اسے اپنے خلاف مذہب

نہ جانا، نہ مانا، جبکہ شریعتِ مطہرہ اس سے سختی سے باز رکھتی، اسے خدا و رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی ٹھہراتی اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتی۔ اور اس کے مرتکب کو گناہگار و فاسقِ مُعلن بتاتی ہے کہ کفار سے تشبہ ہے اور اپنی خود ذات میں شرعِ مطہرہ کے خلاف۔

شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے "قصۃ تطہیر اہل قبا" کو حجتِ کافی قرار دیا ہے۔ اس دعوئی پر کہ ہر تشبہ شرعاً ممنوع و حرام و ناجائز نہیں۔ بلکہ حرام و ممنوع وہی تشبہ ہے جو کسی غیر قوم کے شعار میں شمار ہو۔ اس کی قومی شناخت ہو، ہر تشبہ کو حرام کہنا، شریعتِ مطہرہ سے تجاوز کرنا ہے۔

چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ابو ایوب و جابر و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب آیہ کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا و اللہ یحب المطہرین ط (اس مسجد یعنی مسجدِ قبا شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو) نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے۔ تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے (کیا طریقہ طہارت اختیار کرتے ہو) عرض کی، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجاء کرتے ہیں۔ فرمایا تو وہ یہی بات ہے (یعنی پانی سے استنجاء کرنا) اس کا التزام رکھو۔

اور ظاہر یہ ہے کہ انصارِ کرام نے مدینہ طیبہ میں موجود یہودیوں کو دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا تھا اور چونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں عام تھا، اس لیے اس کے اختیار فرمائیے کو تشبہ میں شمار نہ فرمایا۔ اور صحابہ کرام کے اس گروہ کی تعریف فرمائی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ کاش یہ نکتہ ان نجدیہ کے بھی ذہن نارسا میں آجائے اور وہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی صریح تصریح پر ایمان لائیں کہ پس یہ بیہیت مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔

اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی - اور دسواں بیسواں
چہلم ششماہی سالیانہ وغیرہ - اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردو لوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ - اور سمرنی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
حلوائے شبِ برات اور دیگر طریق ایصالِ ثواب کے اسی قاعدے
پر مبنی ہیں - اور مشرب اس فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر پابند
اس بیعت کا نہیں ہے - مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا - اور یہی
عمل درآمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے - یعنی دو فریقوں کا باہم مل جل
کر رہنا اور مباحثہ و قیل و قال نہ کرنا - اور ایک دوسرے کو وہابی
بدعتی نہ کہنا ، اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا - سب بحث مولد
میں گذر چکا -

۶۳ طعام خواہ شیرینی وغیرہ پڑ ماہ ربیع الآخر کی گیارہویں تاریخ بلکہ ہر مہینے کی گیارہویں
کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے - یہ بھی ایصال
ثواب کی ایک صورت ہے - بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی فاتحہ ہوتی
ہے خواہ وہ کسی تاریخ کو ہو عوام الناس اُسے گیارہویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں - ماہ
رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہر مہینے کی چھٹی تاریخ کو ، حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز
صعین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ، اسی ایصالِ ثواب میں داخل ہے
یوہیں اصحاب کبف کا توشہ ، حضور غوث اعظم کا توشہ یا حضرت شیخ عبدالحق ردو لوی رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کا توشہ ، ایصالِ ثواب کا ایک طریقہ ہے - البتہ عوام المسلمین اور اولیائے کاملین
و انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ و التناز کے ایصالِ ثواب میں بچید و جودہ فرق ہے -
۱ - عوام کے لیے "ثواب بخشنا" عام طور پر کہا اور بولا جاتا ہے - لیکن حضور پر نور
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرات انبیائے کرام بلکہ اکابر اولیاء و صلحاء عظام
کے لیے ایصالِ ثواب میں بخشنے کا لفظ استعمال کرنا بے جا ہے - بخشا بڑے سے چھوٹے

کے لیے ہوتا ہے۔ جبکہ معظمین کی سرکار میں جو ہدیہ حاضر کیا جاتا ہے اُسے عرف میں نذر کہتے ہیں۔ جیسے کہ بادشاہوں کو نذر کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں نذر کرنا کہنا چاہیے نہ کہ بخشنا۔

۲۔ بزرگانِ دین و ملت و معظمانِ شریع و شریعت و اولیائے طریقت حضرات

انبیاء و مرسلین اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم اجمعین و بارک و سلم کی ارواحِ طیبتہ کو جو کھانا وغیرہ نذر کیا جاتا، اور فقراء و اغنیاء سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے، یہ سب کو بلا تکلف روا ہے اور ضرور باعثِ برکت ہے۔ کہ برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اُس میں برکت آجاتی ہے۔ مسلمان کہ اس کھانے کی تعظیم کرتے

ہیں، وہ مصیب و راہِ صواب پر ہیں۔ ائمہ دین نے بسندِ صحیح روایت فرمایا کہ ایک مجلسِ سماعِ صوفیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، نذر حضور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بدرہ نذر (ہمیانی توڑا) رکھا ہوا تھا۔ حالتِ وجد میں ایک صاحبِ پاؤں اُس سے لگ گیا۔ فوراً رب العزت جل و علا نے ان کا حال و ولایت سلب فرمایا۔

۳۔ معظمانِ دین کے لیے نذر و نیاز کا ایسے کھانے پر ہونا بہتر ہے جس کا کوئی حصہ پھینکا نہ جائے۔ جیسے زردہ یا حلوہ یا حشکہ یا وہ پلاؤ جس میں سے ہڈیاں علیحدہ کر لی گئی ہوں۔ یا پھر ہڈیاں وغیرہ ایسی جگہ ڈالی جائیں جہاں کسی کے پیر سے روزی نہ جائیں۔ بلکہ انہیں دفن کر دینا بہتر ہے۔ اور یوں تو ہر کھانے میں ادب یہی ہے کہ وہ پیروں میں نہ آئے۔ طعامِ تبرک میں ادب کا تقاضا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔

۴۔ وہ کھانا جو عوامِ ایامِ موت میں، بطورِ دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ کہ دعوت تو سرور و نشاط کے اوقات میں کی جاتی ہے نہ کہ غم و موت کے اندوہ میں۔ اس لیے اغنیاء کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگر یہ طعام بطورِ دعوت نہ ہو بلکہ اپنے اموات کو ایصالِ ثواب کے لیے بہ نیتِ تصدق کیا جاتا ہے کہ فقراء اس کے لیے احق ہیں۔ اغنیاء کو نہ چاہیے۔ پھر بھی چونکہ جہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا مقصود، میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ لہذا اُسے فاتحہ کا کھانا یا جہلم

کی فاتحہ وغیرہ کہتے اور اہتمام خاص کرتے ہیں۔ اور ثواب صرف فقراء ہی پر تصدق پر موقوف نہیں بلکہ اغنیاء کو کھلانا بھی ثواب کا مورد ہے، اس لیے یہ کھانا اغنیاء کھائیں تو کوئی گناہ و مضائقہ بھی نہیں۔ حدیث میں ہے۔ ہر گرم جگر میں ثواب ہے۔ یعنی جس زندہ کو کھانا کھلائیگا پانی پلائیگا ثواب پائیگا۔ (بخاری و مسلم)

حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کچھ آدمی کھا جائے، اس میں ثواب ہے۔ اور جو درندہ کھا جائے، اس میں ثواب ہے، جو پرند کو پہنچے اس میں ثواب ہے۔ (رواہ الحاکم) بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو کچھ تو اپنی عورت کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ اپنے بچوں کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ اپنے خادم کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور جو کچھ تو خود کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔" یعنی جبکہ نیت محمود اور ثواب مقصود ہو۔

روا المختار میں بجز الرائق سے ہے کہ ذخیرہ میں تصریح ہے کہ غنی و مالدار پر تصدق بھی ایک نوع قربت ہے۔ صرف فقیر ہی تک محدود نہیں۔ در مختار میں ہے کہ تصدق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اگرچہ غنی پر کیا ہو۔ کہ مقصود اس میں ثواب ہے۔ اسی طرح ہدایہ وغیرہ میں ہے۔ پھر مدارِ کار نیت پر ہے۔ تو جو کھانا فاتحہ کے لیے پکایا گیا۔ بلاتے وقت اسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا، اس نیت کو باطل نہ کرے گا۔ جیسے کسی نے اپنے محتاج بھائی بھتیجیوں کو عید کے دن کچھ روپیہ دل میں زکوٰۃ کی نیت اور زبان سے عید ہی کا نام کر کے دیدیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عید ہی کہنے سے وہ نیت باطل نہ ہوگی۔ لہذا اپنے قریبوں عزیزوں کے ساتھ مواسات، رعایت و غم خواری بھی صلہ رحمی اور موجب ثواب ہے اگرچہ وہ اغنیاء ہوں۔ اور آدمی جس فعل پر خود ثواب پائے وہ کوئی فعل ہو اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے۔ ۱۲۔

تنبیہ حلیل

بعض اوقات منکرین فاتحہ، عوام المسلمین کو یوں فریب دیتے ہیں کہ جب رحلت کرنے والا، خود ہی صالحین و بندگانِ کاملین سے تھا تو اب اُسے ایصالِ ثواب کی کیا حاجت اور ہدیہ اجر کی انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ بکھیرا بھیلایا، اور اُسے جاہلوں میں غلط رسم و رواج کا ذریعہ بنایا جائے۔ وغیرہ وغیرہ؟ اس لیے مسلمان بھائی خوب یاد رکھیں کہ ایصالِ ثواب جس طرح منع عذاب یا رفع عقاب میں باذن اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے کہ عذاب ان سے رکنا، اور عقاب و عقاب رفع ہو جاتا ہے، یوں رفع درجات و زیارتِ حسنات میں کام آتا ہے کہ جیسے ایصالِ ثواب کا ہدیہ پیش کیا گیا ان کے مراتب اور بڑھتے، اور ان کی نیکیاں خوب بھولتی پھلتی اور پروان چڑھتی ہیں اور معلوم حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا فضل و کرم اور اس کی زیارت و برکت، وہ بیش بہا، بیش قیمت دولت ہے جس سے کوئی بندہ غنی و بے نیاز نہیں۔ قال تعالیٰ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (مہلائی والوں کے لیے مہلائی ہے اور اُس سے بھی زائد) اور یہ زیادت نہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم اور برکت۔

سیدنا ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مولیٰ جل و علا نے اموالِ عظیمہ عطا فرمائے تھے، ایک روز نہارے محققے کہ آسمان سے سونے کی پٹریاں برسیں۔ ایوب علیہ السلام چادر میں بھرنے لگے۔ رب عزوجل نے نداء فرمائی "اے ایوب! جو تمہارے پیش نظر ہے۔ کیا میں نے تمہیں اس سے بے پروا نہ کیا تھا؟ عرض کی "ضرور غنی کیا تھا۔ تیری عزت کی قسم! مگر مجھے تیری برکت سے تو بے نیاز ہی نہیں" (البخاری) جب حق جل و علا کی دنیوی برکت سے بندہ کو غنا نہیں، تو اس کی دینی برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے۔ صلحا تو صلحا، خود اعظم اولیاء بلکہ حضراتِ انبیاء بلکہ خود حضور

پُر نور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصالِ ثواب و ہدیہ اجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ سے اب تک معمول ہے۔ حالانکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قطعاً معصوم ہیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۶۲ مثلاً سووم یعنی تہیج، جو مرنے سے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا کر، یا کلمہ طیبہ پڑھا کر ایصالِ ثواب کرتے اور بچوں اور غریبوں اور اہل حاجت میں چنے، بٹائے، کشمش، چھوہارے، یا الائچی دانے وغیرہ تقسیم کرتے، یا حسب حیثیت کھانا پکوا کر غربا و مساکین کو کھلاتے، یا ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب اسی ایصالِ ثواب کی فروع اور اُسی میں داخل ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں حضرت صدیق الا فاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیر آیت کریمہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِيَمَةَ أَوْ لَو الْقُرْبَى الْآيَةَ (پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مساکین آجائیں تو اُس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور اُن سے اچھی بات کہو) ارشاد فرمایا:۔

” اُس میں عذر جمیل و وعدہ حسنہ اور دُعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیت میں میت کے ترکہ سے، بغیر وارث رشتہ داروں، اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کہنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکرمی ذبح کرا کے، کھانا پکایا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ ”اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔“ نتیجہ جس کو سووم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے۔

کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر تصدق ہوتا ہے اور کلمہ کا حتم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دُعایِ قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بیجا اصرار ہو

گیا ہے جو بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تلاش نہ کر سکے، باوجودیکہ اتنا صاف قرآن پاک

میں موجود تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصرت ہو گئے۔

۶۵ شبِ برات کی اہمیت زمین نشین رجبے تو حملو اسے شبِ برات کی افادیت اور حکمت کا دل نشین ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ شبِ برات یعنی شعبان کی پندرھویں شب وہ شب مبارک ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

شبِ شعبان کی پندرھویں رات آجائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ، شروبِ آفتاب سے، آسمان و دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش پچھلے والے کہ اُسے بخش دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والے کہ اُسے روزی دوں۔ ہے کوئی مبتلا کہ اُسے عافیت دوں۔ ہے کوئی ایسا اور یہ اُس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ (ابن ماجہ)

ایک حدیث شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ عزوجل، شعبان کی پندرھویں شب میں تجلی فرماتا ہے۔ استغفار فرمانے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اور طالبِ رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو، جس حال پر ہیں چھوڑ دیتا ہے۔ (بیہقی)

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ پندرھویں شبِ شعبان میں اللہ تعالیٰ جہنم سے انتوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے، اور کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عداوت کرنے والے کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا۔ (بیہقی)

اللہ اللہ! الہی عنایات اور خداوندی انعامات کی یہ فراوانیاں کہ ہر گنہگار مصروفِ استغفار، طالبِ رحمت پروردگار، اس میں داخل، اس میں شامل۔

ہر سیاہ کار سے سیاہ کار کہ اپنی سیاہ کاریوں پر شرمانا لجاتا، اُس رب کریم کی بارگاہِ لطفِ عظیم میں ہاتھ اٹھاتا اور اپنی مغفرت کی بھیک چاہتا ہے، رحمتِ الہی اُس کی طرف بڑھتی اور اُسے اپنے آغوشِ کرم میں چھپا لیتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے پالیتا ہے غلام جو طلب کرتا ہے وہ اُس کی گود میں آجاتا ہے۔ مگر ہائے وہ چند بد نصیب کہ ان کی بد نصیبیاں، انہیں آج بھی محروم کا محروم رکھتی ہیں۔ قاتلِ محروم کہ خون بہاتا رہا۔ شرابیِ محروم کہ جام و سلو اُسے لے ڈوبے۔ والدین کا نافرمان محروم کہ اس

کبیرہ گناہ کی اندھیری میں نورِ سعادت نہ پاسکا۔ متکبرِ محروم کہ تکبر میں ڈوب گیا، کافرِ محروم کہ کفر و ضلالت کا بارگراں، روشنیِ اسلام کی طرف نہ لاسکا۔ رونا تو اس بد نصیب مسلمان کا ہے جس کے سینے میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کینہ ہے جس کے دل میں مسلمان بھائی سے محض دنیاوی بنیاد پر عداوت کی آگ بجھناک رہی ہے یہ محروم رہا تو اس کی محرومی کا مداوا کس طرح ہو۔ کیا محض زبانی توبہ سے؟ تو یہ غیر مسلم کہ جب تک دونوں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں توبہ سے معافی کی سبیل نہیں۔ لہذا علمائے اسلام نے فرمایا کہ جن دو مسلمانوں میں دنیاوی عداوت ہو، انہیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے، ایک دوسرے سے گلے مل جائیں۔ ایک دوسرے کی خطا و غلطی کو معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف کر لیں تاکہ مغفرتِ الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہیں احادیثِ کریمہ کی بنا پر بہت سے علاقوں میں قدیم سے معمول چلا آ رہا ہے کہ پندرہویں شب آنے سے پہلے ۴۴ شعبان ہی کو ایک دوسرے کے گھر جاتے، ایک دوسرے سے ملنے اور عفوِ تقصیر کرتے اور اس شبِ مبارک کے انعامات کا خود کو مستحق بناتے ہیں۔

اور یہ عام طور پر معمول ہے کہ جب دو مخالف افراد یا خاندان یا گھرانے، ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں تو پہلا کام صلح کے بعد، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی مجلسِ صلح میں شیرینی یا کوئی بھی میٹھی چیز کھاپی کر دلی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ طریقہ مسلمانوں کے علاوہ غیر اقوام میں بھی پایا جاتا ہے اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسرت و خوشی کے موقع پر "منہ میٹھا کرنا، گویا ایک فطری اور پیدا نشی تقاضا ہے اور طبیعتِ انسانی کا مقتضا۔ پھر مسلمان تو مسلمان ہیں۔ ان کے آقائے نامدار، رحمت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فطرتِ جبلت کا بیان یوں بھی فرمایا ہے کہ "ان المؤمنین حلوا یحبّ الحلواء" مسلمان غیرسبب خضائل شیریں مقال ہوتا ہے اور شیرینی اُسے محبوب ہوتی ہے۔"

اس حدیث کی روشنی میں اگر ۱۴ شعبان کو علی التعمین قسم قسم کے حلوے تیار

کیے جائیں اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں تقسیم کیا جائے غریبوں کا بھی حصہ دیا جائے تو اس میں کون سی ایسی خرابی آگئی کہ رگ و ہا بیت پھوکتی اور مسلمانوں کو بہر حال بدعتی بنانے کے لیے بنیاب و بے قرار رہتی ہے۔

مسلمان انہیں یوں ہی سسکتا چھوڑیں اور اپنے سر اپنے کرم، نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں "تَهَادُوا تَحَابُّوا" ایک دوسرے کو ہدیہ کرو، ایک دوسرے کے پیارے بن جاؤ گے۔ لہذا تم ایک دوسرے کے پیارے بننے کے لیے، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو۔ اور خاص کر اس مبارک شب کے آنے سے پیشتر۔ تاکہ رحمتِ الہی تمہیں انہیں سب کو شامل ہو۔

پھر اس رسم میں صرف زندوں ہی کا فائدہ نہیں، مردے بھی اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ علمائے محققین سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برأت ہوتی ہے تو اموات کی روپیں آکر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں "ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے؟" ہے کوئی کہ ہم پر تہنہس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔" خزانہ الروایات ہاں مسلمان خوب یاد رکھیں کہ گنگوہی صاحب کے زعم باطل کے خلاف یہ مسئلہ نہ عقائد کا ہے۔ نہ فقہ کے حلال و حرام کا۔ ایسی جگہ دو ایک سندیں ضعیف دلیلیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "ایسی حدیث کو اتنی ہی سند کافی ہے کہ وہ کچھ احکام سے متعلق نہیں۔"

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں بہت مفید کہنا یہ ہے کہ جب ان روایات سے ارواحِ مومنین کا، اس پندرھویں شب شعبان میں بھی آنا واروہ ہے۔ اور مسلمان گھرانوں میں، ان کے ایصالِ ثواب کا بالخصوص اس دن اہتمام کیا جاتا ہے تو آخر وہاں بیت کی جان پر کیا آفت آتی ہے کہ وہ تلملا کر رہ جاتی اور بے سند باتیں منہ سے نکال کر، مسلمانوں پر بدعت کے فتوے لگاتی ہے۔ یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ روحوں کا اپنوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں آنا باطل

و غلط ہے۔

آخر یہ نادان جو مسلمانوں کی دوست داری کا دم بھرتے ہیں اتنا کیوں نہیں سمجھتے کہ عید بقر عید وغیرہ پر اپنے دوستوں عزیزوں اور شناساؤں کو ہدیہ بھیجا اور ان کے تحفوں کو قبول کرنا، کوئی ممانعت شرعی کی وجہ نہیں رکھتا اور بلا تکیر رائج و معمول ہے۔ تو تاریخ و ایام کی تعیین کے ساتھ، خواہ بلا تعیین، ارواحِ مومنین کے لیے ایصالِ ثواب کیا جائے یا خاص شبِ برأت کے موقع پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے یا اھلوے پکا کر انہیں ہدیہ کیا جائے، جس سے انہیں فائدہ پہنچے، ان کے گناہوں میں تخفیف ہو۔ یا ان کے مدارجِ عروج پائیں تو اس میں چراغِ پاہونے کی آخر کیا وجہ ہے۔ کیا صرف یہ بات کہ "یہ بدعت و نوپید بات ہے" عقل و دیانت کی میزان میں پوری اتر سکتی ہے۔ اور کیا صرف اس جرم میں عامۃ المسلمین کو بدعتی بنا کر، انہیں دوزخ میں ٹھونسنا جاسکتا ہے؟ عقل و شمنی کی بھی آخر کوئی حد ہونی چاہیے۔ ۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

۶۶ ایصالِ ثواب کے دیگر طریقے جن کی جانب حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا، اور جو عوام و خواص مسلمین میں مدتہائے دراز سے مروج ہیں، بہت ہیں۔ مثلاً ماہِ رجب المرجب میں بعض جگہ سورہ ٹلک چالیس مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چھوٹوں پر دم کرتے ہیں اور ان کو باہم تقسیم کرتے اور ثوابِ اموات کو پہنچاتے ہیں اور یہاں خاص سورہ ٹلک کی تخصیص اس لیے ہے کہ صحیح حدیثوں میں اسے بھڑاپ قبر سے بچانے والی، نجات دینے والی فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ قرآن میں تیس آیت کی ایک سورت ہے۔ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ہے۔ (ترمذی وغیرہ) اور یہاں بھی کسی خاص چیز کی تخصیص نہیں۔ بلکہ جس چیز کا تقسیم کرنا ایسا دینا منظور ہے اور جس میں محتاج کی حاجت روائی زیادہ ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ کھانا ہو، کپڑا ہو، طلبہ کے لیے دینی کتابیں ہوں یا نقد روپیہ ہو۔ غرض جو بھی شے، غریب مسکین، حاجت مند کے لیے مناسب جائیں، راہِ خدا میں دیں اور

ایصالِ ثواب کریں۔

اسی طرح ماہِ رجب میں حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کونڈے ہوتے ہیں کہ چاول یا کھیر بچا کر کونڈوں میں بھرتے ہیں اور فاتحہ کے بعد لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ ہاں ایک بات مذموم ہے اور وہ یہ کہ جہاں کونڈے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں۔ وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ ایک لغو حرکت ہے۔ مگر یہ عموماً جاہلوں کا طریق عمل ہے۔ پڑھے لکھے اور سمجھاہ مسلمانوں میں یہ پابندی نہیں۔ بلکہ یہاں پاکستان میں تو یہ تقریباً ختم ہے۔

یوہیں اسی ماہِ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کے لیے پوڑیوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ مگر اس میں بھی وہی اسی جگہ کھانے کھلانے کی پابندی کہیں کہیں پائی جاتی ہے اور یہ بیجا پابندی ہے۔ اس کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ بظاہر رافضیوں کی گرفت منت معلوم ہوتی ہے اس لیے وہ کتاب نہ پڑھی جائے۔ اگرچہ اولیائے کرام کی کرامات حق ہیں اور ان کا انکار بد مذہبی کی علامت ہے۔ اور یہ بات آپ خوب ذہن نشین رکھیں کہ ایصالِ ثواب کے لیے یہ تعینات اور تواریخ معینہ پر فاتحہ خوانی بغرض تحفظ و یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ورنہ تبارک ہو یا کوئی اور طریق فاتحہ یہ ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔

یوہیں ماہِ محرم الحرام میں دس دنوں تک، خصوصاً دسویں محرم (یوم عاشورہ) کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہدائے کربلا کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے۔ کوئی شیر برنج پر، کوئی زردہ بیانی پر، کوئی شیرینی پر، کوئی حلیم پر اور کوئی گوشت روٹی پر۔ بغرض فاتحہ کسی بھی چیز پر ہو جائز ہے۔ ان کو جس جائز طریقے پر ایصالِ ثواب کیا جائے مندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں۔ اور موسم سرما میں چائے پلاتے ہیں اس

میں نیت خیر ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب ہی ثواب ہے۔ ہاں یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ یہ بالکل بے سند اور غلط بات ہے۔ ہر مہینے اور ہر تہذیب میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیاز کا کھانا پودے میں رکھنا، اور مردوں کو نہ کھانے دینا۔ یہ عورتوں کی جہالتیں ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں اور اس لغو حرکت سے باز رکھیں۔ اور ایک اور اہم بات جو تمام مسلمانوں کو ہر کارِ خیر کے وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہی وہ دولت ہے جو برکات بالائے برکات ہی نہیں کارِ خیر پر اجرِ آخرت اور اخروی ثواب بھی لاتا ہے۔ لہذا یاد و نمائش اور نام نہاد کو پاس نہ بھٹکنے ہیں۔ (بہار شریعت وغیرہ) ۱۲ محمد خلیل عقی عنہ



سنی بھائی اور مظلوم کربلا

سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین شہزادہ گلگلوں قبار صنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ، یزید اور یاران یزید نے کیا، وہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ اُس کا ہر پہلو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر کوئی شخص امام عالی مقام کے ان حالات کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے تو بڑھی سے بڑھی مصیبتوں کو خطرے میں نہ لائے۔ امام عالی مقام نے شجاعت صبر صدق ایشار ثابت قدمی کے وہ جوہر دکھائے کہ ارض و سما، جن و بشر سب کے سب محو حیرت رہ گئے۔

شجاعت کا یہ عالم کہ دشمنوں کا ٹڈی دل شکر، سامان جنگ سے آراستہ اور خود بے سرو سامان گنتی کے چند ہر اسی، وہ بھی ضعیف و ناتواں مگر اعداء کی کثرت کو خطرے میں نہ لانا، انتہائی جرات و جسارت کے ساتھ، شمشیر بکف میدان جنگ میں آجانا، امام عالی مقام ہی کا کام تھا۔ لڑائی میں پہل ہرگز امام مظلوم کی طرف سے نہ تھی۔ ان جہنوں ہی نے مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں۔ یا بخوف جان اُس پلید کی، وہ طلحوں بیعت قبول کر لی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا۔ اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو۔ یہ رخصت تھی تو اب کچھ نہ تھا۔ قال تعالیٰ الا لمن اُکثرہ و قلبہ مطمئن

بالایمان (مگر جو مجبور ہو جائے اور اُس کا دل ایمان پر برقرار ہو)

یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی۔ یہ عزیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم۔ اور یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اور یہی منظورِ رب تھا۔ جنت آراستہ ہو چکی تھی، اپنے دوہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وصولِ محبوب کی گھڑی آگئی تھی۔

کیا اُس صبر کی (جو اہلبیت رسالت نے میدانِ کربلا میں اختیار کیا) کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ مالکِ کوثر کے لاڈلے بیٹے حسین نے تین شب و روز پیاس کی حالت میں گزار دیئے مگر منہ سے اُف نہ کی۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ کل قیامت میں انہیں کے نانا جانِ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دریا دلی سے، اپنی تمام امت کی پیاس بجھائیں گے آج ان کے نواسوں پر انہیں کی امت نے، فرات کا بہتا پانی (جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سوڑ جس میں لوٹ رہے ہیں) بند کر رکھا ہے۔

حق و صدق کی حمایت میں وہ شان دکھائی کہ جوان بیٹوں کی لاشیں، خاک پر تڑپیں، معصوم بچوں نے تیر کھا کر، گود میں دم دیا۔ غرض ظلم و ستم، جور و جفا کا کوئی دقیقہ دشمنوں نے اٹھانہ رکھا، مگر ایک فاسق کی بیعت قبول نہ فرمائی۔ ورنہ آنے والی تسلیس اس معصیت میں مبتلا ہوتیں اور سند بنائیں امامِ عالی مقام کے اس فعل کو۔


ایتار و ثابت قدمی کی جان میں جان یوں ڈالی کہ حق کی پاسداری میں، گھر بار لٹا دیا۔ خود بھی تہ تیغ ہوئے۔ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔ مگر میدانِ تسلیم و رضا سے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔

مسلمانو! امامِ عالی مقام نے گھر بار لٹا کر، اپنے بھائی بیٹوں، بھانجوں بھتیجوں کی گردنیں کٹا کر، اور سب کے بعد خود بھی کربلا کے گرم ریت پر بے رحمی کی چھری سے قبح ہو کر، اُدھر اپنے رب کو راضی کر لیا، اور ادھر شجاعتِ صبر، حق پرستی، ثابت قدمی، اولوالعمری اور دوسرے فضائلِ جلیلہ کے اعلیٰ نمونے تم میں چھوڑے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے تیار کردہ دستور العمل کو اپنی زندگی میں رہنا بناؤ۔ اور ان کی بتائی ہوئی راہ پر جاوہ پیمائی کرو۔ ان سے علاقہ محبت اور رابطہ عقیدت قائم رکھو۔ ان کی شہادت کا درد، دل میں لیے رہو۔ عشرہ محرم میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو۔ اس واسطے کہ براہِ کربلا، جنتِ جانے والوں نے یہ دس دن بے حد مصیبتوں، بے چینیوں، تکلیفوں اور آفتوں میں گزارے ہیں۔

سستی نہایت کس قدر افسوس اور کس درجہ شرم کی بات ہے کہ جس عشرے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر دنیا تنگ ہوئی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔

اُس عشرہ کا ہر دن تمہارے لیے لہو و لعب سے عید کا دن، اور رات شب بربت ہو۔
 لہذا اپنی ان خرافات سے باز آؤ۔ ان واہیات اور شرعِ مطہرہ کے مخالف،
 اپنی حرکات سے دور بھاگو۔ خدا کے سامنے جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو منہ دکھانا ہے۔ کیا جواب دو گے اگر سرکارِ عالی و قار نے دریافت فرمایا کہ میرا لادلا
 بیٹا حسین، تین دن کا بھوکا پیاسا کر بلا کے میدان میں فزع کیا جائے اور تم اُسے کھیل کود
 تماشے کا دن بناؤ۔ تماشے باجے بجاتے گلی گلی گشت کرنا۔ رنگ رنگ کے کھیلوں کی
 دھوم دھام سے ہر طرف رنگ جمانا۔ شہوانی میلوں کو بازار کر بلا کا نام دینا۔ جشنِ فاسقانہ
 کی رسوم کو، محبتِ اہلبیتِ اطہار کی طرف منسوب کرنا، اور پھر ان ساری خرافات کو
 حضراتِ شہدائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت
 اور کارِ ثواب سمجھنا، دوہری مصیبت اور جرمِ بالائے جرم ہے۔

اللہ تعالیٰ صدقہ حضراتِ شہدائے کرام کر بلا علیہم الرضوان والثناء کا مسلمانوں
 کو نیک توفیق دے اور بدعات سے توبہ شرعیہ صحیحہ کی ہدایت نصیب فرمائے آمین
 والسلام علی من اتبع الهدی۔



جہاں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض جاہلوں ضعیف الاعتقاد کلمہ گو یوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ قدرت رکھتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایسی مظلومی کے ساتھ میدانِ کرب و بلا میں شہید ہو جاتے۔ انہوں نے ایک اشارہ میں یزید پلید کے شکر کو کیوں نہ غارت کر دیا۔ اور کیوں نہ ایک مٹھی خاک ان پر پھینک کر، ان کا منہ میدانِ جنگ سے پھیر دیا۔ وغیرہ وغیرہ

ان کی اصلاح اور صحیح ایمان کی نیت سے یہ حقیقت ثابتہ بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی طاقت دی ہے اور جو ان میں اصحابِ خدمت ہیں۔ انہیں تصرفات و اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ان کی قدرت اور انہیں تصرفات کا اختیار جو انہیں ان کے رب نے عطا فرمایا، رضا و تسلیم کے ساتھ ہے کہ راضی برضا ہیں، قضائے الہی کے روبرو سر تسلیم خم کئے رہیں کہ یہی کمال بندگی ہے اور اس پر عالمین، بندگانِ صالحین ہیں۔ نہ کہ معاذ اللہ جباری و سرکشی اور خود سہری کے ساتھ۔ کہ رضا و تسلیم کی بجائے سرکشی و خود سہری کو اپنا بن دیکھے جب بادشاہ مصر مقوقش نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تم انہیں نبی کہتے ہو تو انہوں نے دعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک فرما دیا تھا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا تو عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسول اللہ نہیں مانتا۔ انہوں نے دعا کر کے اپنی قوم کو کیوں نہ ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے انہیں پکڑا اور سولی دینے کا ارادہ کیا تھا۔ "مقوقش بولا تم بڑے دانشمند ہو کہ حکیم کامل کے پاس سے آئے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ایک ضمنی بات تھی۔ مگر ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بڑی مفید و منہا

ضروری - ضروری - نہایت ضروری

ایصالِ ثواب کے لئے جو بھی کھانا وغیرہ پکایا یا کھلایا جائے یا تقسیم کیا جائے اس کا مقصود وہی ایصالِ ثواب ہونا چاہیے کہ ثواب ہاتھ آئے اور میت اس سے نفع اٹھائے اور جسے یہ مقصود نہ ہو بلکہ محض دعوت و مہمانداری کی نیت سے پکائے، جیسے شادیوں کا کھانا پکاتے ہیں تو اسے بے شک ثواب سے کچھ علاقہ نہیں۔ نہ ایسی دعوت شریعت میں پسند نہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ کہ ایسی دعوتوں کا محل شادیاں ہیں نہ عقی۔ ولہذا علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے۔ جس طرح میت کے یہاں روزِ موت سے عورتیں جمع ہوتی ہیں اور ان کے کھانے دانے، پان چھالیا کا اہتمام میت والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ میت والے بیچارے، اپنے عم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا پان چھالیا کہاں سے لائیں۔ اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا تکلف شرع کو کسی امرِ مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں۔ نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لیے پھر اس کے باعث جو دقتیں پڑتی ہیں وہ خود ظاہر ہیں۔

یوہیں سووم، چہلم، ششماہی اور برسی پر جو کھانا، ایصالِ ثواب کی نیت بغیر محض ایک رسم طور پر پکائے اور شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں بانٹتے ہیں۔ وہ بھی بے اصل ہے۔ جس سے احتراز چاہیے۔ ایسے ہی کھانے کو شیخ محقق مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی قدس سرہ "جمع البرکات" میں فرماتے ہیں کہ "وہ کھانا جو برسی یا ششماہی یا چالیسویں پر ان علاقوں میں پکایا اور برادری میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں" خصوصاً جب اس کے ساتھ ریا و تفاخر مقصود ہو، کہ جب تو اس

فعل کی حرمت میں اصلاً کلام نہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جو کھانے تفاعل و ریاء کے لیے پکائے جاتے ہیں، اُن کے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد۔ حاکم) مگر بے دلیل واضح کسی مسلمان کے لیے یہ سمجھ لینا کہ یہ کام اُس نے تفاعل و ناموری کے لیے کیا ہے، جائز نہیں کہ قلب کا حال اللہ تعالیٰ جاننا ہے اور مسلمانوں پر بدگمانی حرام (فتاویٰ رضویہ) ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

فاتحہ کا طریقہ مروجہ

اولاً درود شریف تین بار یا پانچ بار پڑھیں۔ پھر اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ - پھر سورہ تکوین۔ پھر چاروں قل۔ پھر سورہ فاتحہ۔ پھر آیت کی چند آیات اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک۔ پھر یہ آیات پڑھیے۔ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن سُرَّ سُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پھر درود شریف پڑھ کر ان الفاظ سے ایصالِ ثواب کرے۔ "اللہ العالمین یہ جو کچھ میں نے (اور مجھ نے پڑھا ہو تو ہم سب نے) پڑھا ہے (اور جو کچھ تیرے نام پر دیا جاتا ہے) اُس کا جو کچھ ثواب تو نے اپنے فضل و کرم سے مترتب فرمایا ہے، ہماری جانب سے روح مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین و صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اولیائے امت اور سلاسلِ اربعہ کے تمام مشائخ کرام، خصوصاً حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواحِ طیبتہ کو اور جتنے مسلمان مرد و عورت اب موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، اُن سب کی ارواح کو خصوصاً فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اس کے بعد دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کل حاجتیں مانگے اور اہل اسلام کو اُس میں شریک کرے۔ اور ان آیات کریمہ پر ختم کرے "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔"

اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لے کہ وہ خیر و برکت جو بذریعہ دعا حاصل ہوئی اشرف الاعضاء یعنی چہرے سے ملاتی ہو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ایصالِ ثواب میں کوئی صورت شرعاً معین نہیں۔ اور بلا اعتقاد و حجب، معین کرنے میں عرج بھی نہیں۔ ولہذا دوسری آیات، کسی اور معین طریقے پر بھی پڑھی جاسکتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، خود فقیر کے مشائخ کرام کے خاندان میں معمول و مروج یہ طریقہ بھی ہے کہ اول درود شریف نمونہ سات بار۔ پھر سورہ فاتحہ ایک بار پھر سورہ اخلاص سات بار اور پھر درود شریف سات بار۔ اور ایصالِ ثواب کے لیے فقیر کا معمول عربی زبان میں یہ ہے۔

اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَمَا لَدُنْيَا إِلَى شَرَفِ نَبِيِّكَ الْمَصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُجْتَبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ وَإِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِلَى أَرْوَاحِ سَائِرِ الْمَشَائِخِ مِنَ السَّلَاسِلِ الْقَادِرِيَّةِ وَالْحِشْتِيَّةِ وَالنَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَالسُّهْرَوَرْدِيَّةِ رَضَوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ لَا سِيَّامًا إِلَى أَرْوَاحِ سَيِّدِنَا الْعَوْتِ الْأَعْظَمِ وَالْقُطْبِ الْأَكْرَمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الشَّيْخِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِلَى مَشَائِخِ وَأَهْوَالِ الْكِرَامِ وَخُلُقَاءِهِ وَفُرُوعِهِ الْعِظَامِ وَسَائِرِ فَرِيدِيَّةِ وَمُحِبِّيَّةِ وَالْمُنْتَمِينَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ۔ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ خُصُوصًا إِلَى أَرْوَاحِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۱۲۔ مُحَمَّدٌ خَلِيلٌ عَفَى عَنْهُ۔

مسئلہ ضروریہ واجب الحفظ

عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت باہرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا، تقریباً داری کی پہلے وہ رسموں نے رکہ کوئی ان تعزلیوں کو، جنہیں اصل روضہ شہزادہ گلگول قبا سے نہ کچھ علاقہ ہے نہ کوئی نسبت بھکھک کر سلام کر رہا ہے۔ کوئی مشغول طواف ہے۔ کوئی مسجد کے میں گرا ہے۔ کوئی اس ماہ بدعت کو معاذ اللہ جلوہ گاہ حضرت امام عالی مقام سمجھ کر، اس ابرک پتی سے مراد میں مانگ رہا ہے۔ وغیرہا من الحرافات) جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاء و تفاخر و غلابیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیدیں، حاجتمندوں میں اوٹ قرینے سے تقسیم کر دیں۔ بلکہ چھتوں پر پٹھ کر نیچے مھنکیں گے۔ روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے۔ زمین پر گرتی اور پاؤں تلے روندہ کر، مٹی ہو جاتی ہیں۔ شیرینی وغیرہ کے پکیٹوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لوٹ مار میں دھینکا مٹی کا وہ زور ہوتا ہے کہ الاماں الحفیظ

غرض مال برباد ہوتے پیسے مٹی میں ریتے ہیں ملتے ہیں مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ لشد انصاف! کیا ایسی خرافات کے ہوتے، ان نازیبا حرکات پر، حصولِ ثواب اور ایصالِ ثواب کی توقع رکھی جاسکتی ہے۔ حاش لشد! ہرگز نہیں۔ بلکہ ریاء و نمود کے سبب کار خیر برباد ہوا وہ الگ رہا۔ یہ رزق کی بے ادبی اور مالِ حلال کی پامالی کا وبال، نامہ اعمال میں اور بڑھ گیا۔ اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم سے کام لینے اور ہر کار خیر، احکام شرع کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشنے۔ آمین ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چند اور واجب اللحاظ مسئلے

- ۱۔ سووم کے چنے بتناشے وغیرہ کہ بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ان سے مقصود ایصالِ ثواب ہوتا ہے لہذا یہ طعام میت میں داخل نہیں۔ تو اگر غنی بھی لے لیگا گناہگار نہ ہوگا۔ مگر غنی کے لیے اس سے احتراز زیادہ پسندیدہ ہے۔
- ۲۔ مردے کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہو، عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے۔ غنی نہ کھائے۔ اور ناگزیر ہو جائے تو دو ایک لقمے پر اکتفا کرے۔
- ۳۔ مسلمان مردے کی طرف سے کھانا وغیرہ تصدق کرنا چاہیے۔ میت کے ساتھ لے جانا فضول ہے۔ اور علامہ طحاوی نے اُسے بدعت لکھا ہے۔
- ۴۔ کافر خواہ مشرک ہو یا غیر مشرک جیسے اَجکل کے عام رافضی کہ ضروریاتِ دین کے منکر ہیں اور قادیانی مرزائی وغیرہ کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اُسے ہرگز کسی طرح کسی فعلِ خیر کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں ایصالِ ثواب کرنا، معاذ اللہ خود راہِ کفر کی طرف جانا ہے۔
- ۵۔ بعض گھرانوں میں فاتحہ کے وقت گھی کے چراغ رکھتے ہیں۔ یہ ایک فضول حرکت ہے۔ اور بعض اوقات داخل اسراف ہوگا۔ اس سے احتراز چاہیے۔
- ۶۔ جس کا رِخیر کا ثواب چند اموات یا تمام سنی مسلمان مردوں عورتوں کو بخشا جائے تو اللہ عزوجل کے کریمِ عظیم و فضلِ عظیم سے امید ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے اگرچہ ایک آیت یا درود یا تہلیل و تسبیح کا ثواب آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام مومنین و مومنات، اہباء و اموات کے لیے ہدیہ کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو قبرستان پر گزرے اور قل ہو اللہ گیارہ بار پڑھ کر، اُس کا ثواب اموات کو بخشے، بعد تمام اموات کے ثواب پائے۔ حدیث سے

ظاہر ہے کہ سب کو ثوابِ کامل ملے گا۔ خدائی خزانوں میں کیا کمی ہے۔
 ۷۔ نماز جنازے سے فارغ ہو کر بعد سلام، اسی جگہ پر جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، میت کے لیے دُعا کے مغفرت کی جاتی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس سے اصلاً مخالفت نہیں۔ البتہ اسی ہیئتِ نماز پر بدستور صفیں باندھنے، امام و مقتدی وہیں کھڑے دُعا کریں، یہ نامناسب ہے کہ نماز پر شبلیہ زیارت نہ ہو لہذا ہیئتِ نماز بدل دیں، صفیں توڑ کر، اپنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر مہٹ کر دُعا کریں۔

۸۔ ایصالِ ثواب یعنی ثوابِ رسائی کی نیت سے قرآن مجید پڑھ کر، اُس پر اجرت لینا بھی حرام اور دینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر پڑھنے والے سے صاف کہہ دیا جائے کہ اس پڑھنے پر دیا کچھ نہ جائے گا۔ یا وہ قاری خود کہہ دے کہ میں لوں گا کچھ نہیں اس کے بعد پڑھے، پھر جو چاہیں دیں وہ اجرت میں داخل نہ ہوگا۔ کہ اجرت کی صراحت نفی ہو چکی۔

۹۔ ہر وہ قربت و کارِ خیر جس کا نابالغ اہل ہے، اس کارِ خیر کو عمل میں لاکر سمجھدار نابالغ بچہ، اُس کا ثواب، مسلمان مردوں یا زندوں کو بخش دے تو قولِ جہور اور مذہبِ صحیح و منصور یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اُس کا ثواب اُنہیں پہنچے گا جیسا کہ قرآنِ خوانی، وغیرہ میں مسلمانانِ اہلسنت کا قدیمی عمل ہے۔

۱۰۔ ایصالِ ثواب کی نیت سے، قرآن مجید کسی مسلمان کو دے کر اُس کا ثواب مسلمان میت کو پہنچانا جائز ہے۔ مگر کفارے کے عوض، قرآن مجید دینے کا جو حیلہ عوام میں رائج ہے کہ فدیہ کی قیمت لگا کر، سب کے بدلے میں قرآن مجید دیتے ہیں، محض بے اصل و بے سود ہے کہ اس سے پورا فدیہ، نماز روزہ کا ادا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اتنا ہی ادا ہوگا جس کی قیمت کا مصحف شریف ہے۔

(فتاویٰ رضویہ) ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تیسرا مسئلہ۔ عرس و سماں کا

لفظ عرس ماخوذ اُس حدیث سے ہے **نَكَرْتُ كُنُومَتَا الْعُرُوسِ** یعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے کہ عروس کی طرح آرام کر۔ کیونکہ موت مقبولانِ الہی کے حق میں، وصال محبوبِ حقیقی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون عروسی ہوگی۔ چونکہ ایصالِ ثواب بروح اموات مستحسن ہے خصوصاً جن بزرگوں سے فیوض و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ ان کا زیادہ حق ہے۔ اور پھر اپنے پیر بھائیوں سے ملنا، موجب ازویاد و محبت و تزیاد برکات ہے۔

۶۷ صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ”بزرگانِ دین کے مزارات پر، ان کی وفات کے دن، جو لوگ زیارت و ایصالِ ثواب و حصولِ برکات کے لیے سالانہ حاضر ہوتے ہیں اُس کو عرس کہتے ہیں۔ غیاث اللغات میں ہے۔ ”مجازاً بمعنی مجلس طعام فاتحہ بزرگان کہ بروز وفات بعد از سالے کنند، چرکہ رحلت از غمگدہ دنیا، بمنزلہ شان عروسی است بحق عاشقانِ حق۔ چنانکہ سعدی فرماید۔

عروسی بود نوبتے ماتمت
اگر نیک روزی بود ماتمت

لفظ عرس اس معنی کے لیے حدیث شریف سے ماخوذ ہے کہ نکیر بن قبر میں جوابِ ثانی کے بعد بندہ مرحوم سے کہتے ہیں **نَكَرْتُ كُنُومَتَا الْعُرُوسِ** الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ۔ الخ (رواہ الترمذی) یعنی سو جا مثل سوئے عروس کے، جس کو اُس کے اہل میں، اُس کے سب سے پیارے کے سوا

ا کوئی نہ جگائے۔" فی الواقع جب منزل اول کی امتحان گاہ صدق و اخلاص میں بندہ کامیاب ہوا اور رحمت و کرم سے نوازا گیا، تو وہ دن اُس کے لیے دنیا کے تمام ایام سے زیادہ شادی و خوشی کا دن ہے۔ اور حقیقت میں وہ آج ہی دو لہا بنا ہے کہ بلا لنگہ رحمت اس کی ناز برداری کرتے ہیں اور جنتی سامانوں سے اس کی قبر کو، روضہ پُر بہار بنا کر، اُس سے آرام کی نیند سونے کی درخواست کرتے ہیں۔ جس کا بیان حدیث شریف میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے انْ صَدَقَ عَبْدِي فَافْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۲)

ترجمہ :- بندہ صادق کے سوال نکیرین کے جواب شافی دینے کے بعد آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا۔ پس اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ۔ اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ جن کے لیے قبر میں یہ عزت و تکریم ہو، ان کے لیے موت کا دن یقیناً شادی کا دن ہے اس لیے اولیائے حق کے روزِ وفات کو، روزِ عرس کہنا بالکل بجا اور حدیث شریف سے ماخوذ ہے۔ انتہی بلفظہ۔

اور بندگانِ صالحین کے وصال کا دن، جب کہ ان کے لیے شادی کی ضیافت اور جشنِ عروسی کا دن ہے تو کیا یہ بھی جہانے کی بات ہے کہ شادی کی مسرت و خوشی صرف دو لہا ہی کے لیے نہیں بلکہ اُس کے متعلقین و احبابِ اعزہ و اقارب، یگانے اور بیگانے، جنہیں دو لہا سے ادنیٰ سی بھی نسبت ہوتی ہے، ان خوشیوں میں ان مسرتوں میں، اس انبساطِ روحی و نشاطِ قلبی میں دو لہا کے طفیل، دو لہا کے صدقہ، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ نہ کہ یہ بزرگانِ دین جن کی نگاہِ التفات بگڑے مقدر بنا تی اور جن کی نظر کرم ڈوبی ناؤ تراتی ہے، کہ یہ جیبِ مسرت و شامانی کے شادمانوں میں شادان و مسرور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے معتقدین و متوسلین بھی، ان کے طفیل، ان فیوض و برکات سے شاد م و بامراد ہوں گے جو ان کے نصیب میں ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ بندگانِ صالحین ہی کی چشمِ عنایت کا ثمرہ ہے کہ ان

کے متوسلین سدا بہار سرشاریوں سے ہمکنار رہتے ہیں۔ اور ان کے طفیل ان کی بھینتی بھینتی ٹھنڈی ٹھنڈی مشکبار فضاؤں میں بسر کرنے والے کی شادمانیاں، و کامرانیاں روز بروز نکھرتی ہی رہتی ہیں۔ آخرتہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا۔ ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر، اُس دن کا روزہ رکھا۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اُس کا حکم بھی فرمایا۔ (بخاری مسلم) معلوم ہوا کہ جس روز اللہ عزوجل کوئی خاص نعمت عطا فرمائے اُس کی یادگار قائم کرنا، درست بھی ہے، محبوب بھی ہے، سنت بھی ہے، مطلوب بھی ہے کہ اس کی بدولت وہ نعمت خاصہ یاد آئے گی۔ اُس کی تصویر، تصویریں بس جائے گی۔ اور یہ سب ہوگا۔ شکر الہی کی بجا آوری کا۔ اور شکر ایزدی موجب ہے از دیار نعمت الہی کا والحمد للہ تو صالحین کا یوم وفات، اُن کے لیے بھی سرور و شادمانی کا دن ہے اور ہم متوسلین کے لیے بھی فیوض و برکات پاکر، شکر الہی بجالانے اور مزید انعام کے مستحق ہونے کا دن۔ مہلا اس میں کون سی ایسی خرابی ہے جسے دیکھ کر جان و ہاسبت کو مثل آتی ہے غلاطت خود اُن کے لہجوں میں ہے وہی بار بار اُن کے مونہوں میں آتی اور بدبو پھیلاتی ہے۔ ۶۸ ۶۹ قنبرِ مسلمین کی زیارت سنت ہے اور مزارات اولیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی حاضری سعادت بر سعادت۔ اور انہیں ایصالِ ثواب، مندوب و مطلوب و محبوب۔ اور انہیں سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ ایک ہی خالوادے سے متعلق، ایک ہی سلسلہ سے متوسل، ایک ہی سبک میں منسک، غلامانِ محبوبانِ خدا، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک دوسرے کے حق میں دُعا لے خیر کرتے، ایک دوسرے کے کام آتے اور ایک دوسرے کی بر و تقویٰ

میں مدد کرتے ہیں۔ اور یوں ان میں محبت و مودت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اجتماعی ذکر و اذکار کے فیوض کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ اجتماع موجب ہے برکات بالائے برکات کے حصول کا چنانچہ احادیثِ کرمیہ میں وارد کہ ایک گروہ مسلمانوں کا، جمع ہو کر دُعا مانگے۔ کچھ عرض معروض کریں، کچھ آئین کہیں، تو اللہ عزوجل ان کی دُعا مقبول فرمائے گا۔ مستدرک (۱) لہذا علمائے کرام نے مجمع مسلمانان کو، اوقاتِ اجابت و قبولیتِ دُعا سے شمار فرمایا۔ حسنِ حسین میں ہے۔

و اجتماع المسلمین۔ یعنی مجمع مسلمین کا اوقاتِ اجابت سے ہونا احادیثِ صحیحہ سے مستفاد ہے۔ اور ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مجمع کثیر ہوگا جیسے جمعہ و عیدین عرفات میں، اسی قدر امید اجابت ظاہر تر ہوگی۔ "تو مسلمان کہ ایک کار خیر پر جمع ہیں ایک کار ثواب کے لیے مجتمع ہیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، امتِ مرحومہ کے لیے۔ حکومت و خواص مسلمین کے لیے، سعادت دارین کی دُعا کریں گے، اور یہ دُعا ان شاء اللہ بفضلہ العیم شرف قبولیت پائے گی تو دیوی سعادتوں کے ساتھ ساتھ، اُخروی برکتوں کا دامن بھی ہاتھ آئے گا۔ اس اجتماع کی بدولت، دونوں جہاں میں سعادتیں، دونوں جہاں کی سعادتیں، مفت ہاتھ آتی ہیں تو یہ سوداگرے منافع کا سودا ہے۔ ولكن الوهابیتا قوم لا یعقلون۔"

مسلمانو! اتنی بات تو ہر ذمی فہم پر روشن ہے کہ ایک سائل، ایک بھکاری ایک محتاج کا بہت بڑا سہارا، اور حصولِ مرادات کا ذریعہ دُعا ہے۔ کہ مولیٰ کی خدمت و طاعت کے بعد اپنی حاجات عرض کرے اور گوہر مقصود سے وامن بھرے۔ لہذا وارد ہوا کہ ہر حتم قرآن پر ایک دُعا مقبول ہے۔ اسی لیے روزہ دار کے حق میں ارشاد ہوا کہ افطار کے وقت اُس کی ایک دُعا رو نہیں کی جاتی۔ "پھر اس اجتماعی دُعا کے بارے میں، قبیل و قال کی راہیں کشادہ کرنا، اور خواہی خواہی مباحث کے دروازے کھولنا، عامتہ المسلمین پر ظلم شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔"

محمد خلیل عفی عنہ

اور نیز طالبوں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں مشقت نہیں ہوتی، بہت سے مشائخ رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس میں جس عقیدت ہو۔ اس کی غلامی اختیار کر لے۔ اس لیے مقصوداً ایجادِ رسمِ عرس سے یہ تھا کہ سب سلسلے کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جاویں۔ باہم ملاقات بھی ہو جاوے۔ اور صاحبِ قبر کی روح کو قرآن و طعام کا ثواب بھی پہنچا یا جائے۔ یہ مصلحت ہے تعینِ یوم میں۔ رہا خاص یوم وفات کو مقرر کرنا، اس میں اسرارِ مخفیہ میں اُن کا اظہار ضروری نہیں۔

۶۹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلامانِ خاص و سالکانِ راہِ سلوک میں کسی ایک کے رشتہ بیعت میں منسلک ہو جانا۔ اگرچہ صرف تبرک کے لیے (اور آج کل عام بیعتیں یہی ہیں۔ وہ بھی نیک نیتوں کی۔ ورنہ بہتوں کی بیعت دنیاوی اغراض و فائدہ کے لیے ہوتی ہے۔ مگر بیکار یہ بھی نہیں) مفید اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھا جانا، ان سے سلسلہ کا متصل ہو جانا، فی نفسہ سعادت ہے اور عظیم سعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کا رب عزوجل فرماتا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ وہ وہ لوگ ہیں کہ اُن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔ محبوبانِ خدا آیۃ رحمت ہیں۔ وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظرِ رحمت رکھتے ہیں۔ امام یکتا سیدی ابوالحسن نور الملتہ والدین علی قدس سرہ بوجہ الاسرار شریف میں فرماتے ہیں کہ ”حضور پر نور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، اگر کوئی شخص حضور کا نام لیوا ہو اور اُس نے نہ حضور کے دست مبارک پر بیعت کی ہو، نہ حضور کا خرقہ پہنا ہو۔ کیا وہ حضور کے مریدوں میں شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا ”جو اپنے آپ کو میری طرف نسبت کرے اور اپنا نام میرے دفتر میں شامل کرے۔ اللہ اُسے قبول فرمائے گا۔ اور اگر وہ کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو

تو اُسے توجہ دے گا اور وہ میرے مریدوں کے زمرے میں ہے۔ اور بے شک میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور ہم مذہبوں اور میرے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ "غرض ہمیں بحیثیت مسلمان یقین رکھنا چاہیے کہ اولیائے کاملین اور بندگان صالحین، دنیا و آخرت میں قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفع و یار ہیں اور اپنے معتقدین کے حامی و مددگار ہیں۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شہرانی قدس سرہ میزان الشریعہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا و قبر و حشر، ہر جگہ، سختیوں کے وقت ان کی نگاہداشت فرماتے ہیں جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں۔ "کہ اب سختیوں کا وقت ہانا رہا۔ اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا زمانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آگیا۔ نہ انہیں کوئی خوف ہو اور نہ کچھ غم وللہ الحمد۔

المبتدئین اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کے لیے چار شرطیں ہیں :-

۱۔ شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہونا صحیح میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت بزرگم وراثت، کہ ہم تو ان کے وارث ہیں۔ اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا

بیعت تو کی تھی، مگر خلافت نہ ملی تھی۔ بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا سلسلہ ہی وہ کہ قطع کر دیا گیا۔ اُس میں فیض نہ رکھا گیا۔ لوگ براہ ہوس اُس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں۔ یا

سلسلہ فی نفسہ صحیح تھا، مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا، جو بعض شرطوں کے اثناء و عدم موجودگی کے باعث قابل بیعت نہ تھا۔ اُس سے جو شاخ چلی

وہ یسوع میں سے منقطع ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز
اتصال حاصل نہ ہوگا۔ بیل سے دودھ، یا بانجھ سے بچہ مانگنے کی مت
جدا ہے۔

۲۔ شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ، شیطان تک پہنچا
نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے بد دینوں کو
وہابیہ نے کہ سمرے سے منکر فیضانِ اولیاء و دشمنِ اولیاء ہیں، بدکاری کے
لیے، حرص و ہوا کا شکم بھرنے کے لیے، پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا
ہے۔ ہوشیار! خبردار! احتیاط احتیاط

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت
پس بہر دستے نباید داد دست

۳۔ عالم ہو۔ اور علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی جبکہ لازم ہے کہ
وہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف اور کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت
کے فرق کا خوب عارف ہو۔ ورنہ آج بد مذہب نہیں، کل ہو جائے گا۔
صد ہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اور جاہل براہ
جہالت ان میں پڑ جاتے ہیں۔ اول تو باخبر ہی نہیں ہوتے کہ ان سے
قول یا فعل کفر صادر ہوا۔ اور بے اطلاع تو یہ ممکن۔ تو مبتلا کے مبتلا
ہی رہے۔ اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع، نیک مزاج، جاہل
ڈر بھی جائے، تو یہ تو بہ بھی کر لے۔ مگر وہ سجادہ شہادت پر ہادی و مرشد حق
برحق، باحق بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے،
کب حق قبول کرنے دے۔ عرض یہ تو بہ پر تو کیا راضی ہوں گے کہ پھر مرید
کرنا چھوڑ دیں، سلسلہ بند کریں، گوشہ عافیت میں بیٹھ رہیں۔ یہ ان کا
نفس گوارا نہ کرے گا۔ لاجرم وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا جاری رکھیں گے۔
خود تو ڈوبے ہی ہیں، اوروں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔

۴۔ فاسقِ معین نہ ہو۔ کہ نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرنے نہ صغیرہ پر اصرار۔ اور اس سے بدتر ہے وہ غافل، کہ علماء کی طرف رجوع ہی نہ لائے۔ اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑ جائے۔ (فتاویٰ رضویہ وغیرہ) محمد خلیل عفی عنہ

نکے تعیین و تخصیص پر، خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام گزر چکا۔ اور یہ فقیر بے توقیر بھی، اقوالِ علمائے اعلام، ان کی تائید میں پیش کر چکا۔ اب عام مسلمان مجاہدوں کے افادہ کی خاطر، یہ بحث ہم بنوع دیگر کرتے ہیں و ما توفیقی الا باللہ۔

۱۔ تعیین و تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے۔ شرعی اور عادی۔ شرعی وہ کہ خود شرعِ مطہر نے کسی کام کے لیے، کسی وقت کو خاص کر دیا ہو کہ اُس کے سوا کسی دوسرے وقت میں نہ ہو سکے۔ جیسے ایامِ نحر (ذی الحجہ کی ۱۰-۱۱-۱۲) ضحیہ یعنی قربانی کے لیے کہ اس سے تقدیم و تاخیر، مقدم و موخر کرنا درست نہیں اور نہ شریعت میں اس کا اعتبار۔ نہ اس سے وجوبِ قربانی ساقط۔ یا اس قدر ثواب کہ اس وقت میں ہے دوسرے وقت نہیں۔ جیسے نمازِ عشاء کے لیے ثلاث لیل۔ کہ ایک نہائی رات تک تاخیرِ عشاء مستحب ہے مگر اس کے لیے ترکِ عشاء جائز نہیں۔ اور تخصیص و تعیین عادی یہ کہ از جانب شرع اطلاق ہے یعنی حکمِ مطلق ہے۔ موقت نہیں۔ جب چاہیں بجالائیں۔ کسی وقت گناہ نہیں۔ ہر وقت جائز ہے۔ جیسے ایصالِ ثواب۔ کہ روزِ ولادت و روزِ وفات و رحلت، یا جن دن کرے، ہر روز درست ہے۔ مگر جب خارج میں اُس کا وجود ہوگا، کسی زمانے میں، کسی ہیئتِ خاص ہی کے ساتھ ہوگا۔ کہ مطلق من حیثِ ہوہو، بلا تعیین و تخصیص، خارج میں موجود نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وجودِ مطلق انسان، بعضین افراد ہوتا ہے۔ بغیر زید و بکر کے انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بغیر کسی زمانہ، کسی ہیئت کے، زمانیات کا وجود ممکن نہیں۔ جب انسان ہوگا تو زید و عمرو وغیرہ ضرور ہوں گے۔ اسی طرح جب عرس ہوگا، کسی زمانہ، کسی تعیین و تخصیص ہی

کے ساتھ ہو گا کہ وجودِ نوع، بے وجودِ فرد ناممکن ہے۔

۲۔ عامہ مسلمین بلکہ علمائے دین، بلکہ ائمہ مجتہدین، بلکہ تابعین، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بلکہ خود حضور اقدس طہ و تسلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امور خیر کے لیے تعیین و تخصیص ایام و اوقات فرماتے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ قبلہ شریف لے جانے کو یومِ شنبہ معین فرمایا۔ (بخاری) روزہ شکر و ولادت و رسالت کو یومِ دو شنبہ مقرر فرمایا (مسلم) سفرِ حیاہ کے لیے روزِ پنج شنبہ کی تعیین فرمائی (بخاری) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و تذکیر کے لیے اسی دن (پنج شنبہ) کو مقرر کیا (بخاری) علمائے ہدایت و آغازِ درس کے لیے روزِ چہار شنبہ کو خاص فرمایا۔ (تعلیم المتعلم) عرض یہ سب توقیحاتِ روقت و یوم کی تخصیصاتِ عادیہ سے ہے جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سوائے روزِ پنج شنبہ کے مسجدِ قبلہ جانا، سوائے روزِ دو شنبہ کے صومِ شکرِ رسالت رکھنا۔ سوائے یومِ پنج شنبہ کے سفرِ حیاہ۔ یا پند و نصیحت کرنا۔ سوائے یومِ چہار شنبہ کے کتاب شروع کرنا جائز ہی نہیں۔ یا اس قدر برکت و ثواب کہ اُس دن ہے، اور دن نہیں۔ اسی طرح عرس کے لیے تعیین یوم و فوات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اور دن ایصالِ ثواب نہ ہو گا۔ یا ثواب میں کمی آجائے گی۔

۳۔ اس میں کسی شک کی اصلاح گنجائش نہیں کہ عرس و فاتحہ کو علماء و صلحاء، فقراء و اولیاء مشائخ کرام، صوفیہ عظام اور عامہ اہل اسلام، شرق تا غرب، عرب تا عجم، اسی تعیینِ تاریخ و تخصیصِ یوم و وقت کے ساتھ کرتے اور اُسے بہتر و مستحسن جانتے آئے۔ دور کیوں جانیے، بغداد مقدس میں حضور پر نور عونت الثقلین سیدنا عونت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف، ہم ربیع الآخر شریف کو ہوتا ہے۔ اور ادھر پاکستان میں پاک پٹن شریف میں پنجم محرم الحرام کو عرس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اجمیر شریف میں، ششم ربیع المحرم

کو عرس خواجہ عزیز نواز، معین الحق و الملئنتہ والدین قدس سرہ داربرہ مطہرہ میں
 بست و بفتح محرم الحرام کو، عرس صاحب البرکات حضرت سید شاہ برکت اللہ
 صاحب قدس سرہ، ۱۸ ربیع الاول شریف کو عرس حضرت سید شاہ آل احمد
 اچھے میاں صاحب قدس سرہ ۱۸ ذی الحجۃ الحرام کو عرس حضرت سید شاہ
 آل رسول صاحب قدس سرہ العزیز - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ کو کلیر شریف میں دوازدہم
 (۱۲) ربیع الاول شریف کو عرس حضرت علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ ردولی شریف میں - ۱۱ جمادی الآخرہ سے ۱۳ تک عرس حضرت شاہ
 عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی اور بدایوں میں کتنوں کی تعداد بتائی جائے
 گنج اولیا ہے۔ شاید ہی کوئی تاریخ خالی جاتی ہوگی جو کسی کا عرس نہ ہوتا ہو۔ یوہیں
 مراد آباد - رامپور - بریلی - کانپور - گنج مراد آباد - لاہور - ملتان، سیوہن شریف -
 محٹھہ - مکلی - کراچی - عرض پاک و ہند میں وہ تمام بلاد و مقامات، بستیاں -
 آبادیاں، جہاں اولیائے کرام اپنے اپنے مبارک و منور مرقدوں میں استراحت فرما
 ہیں، ان کے اعراس مبارکہ، ہمیشہ تاریخ و ماہ و وفات کی تقیید کے ساتھ رائج و
 معمول ہیں۔ اور علماء و صلحاء فقراء و اولیاء، مشائخ کرام و صوفیائے عظام کرتے
 چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے، عرس کے جواز اور استحسان کی۔ وہاں یہ
 زمانہ اپنی بڑ کو، بڑ سے زیادہ نہ تصور فرمائیں۔

مہ فشانہ نور، سگ عوا، کسند

ہر کسے بر خلقت خود می تند

۴ - اور یہ تو ہم بار بار بتاتے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں بہتیت کدائی
 (صورت موجود) موجود نہ ہونے سے کوئی چیز ممنوع و ناجائز نہیں ہو سکتی۔
 علماء نے صدہا امور میں کہ قرونِ ثلاثہ میں رائج نہ تھے، باوجود محدث و نوپید
 ہونے کے، حکم جواز، بلکہ استحسان کا دیا۔ اور اسے نہ صرف مباح و جائز بلکہ
 مستحب و مستحسن اور بہ نیت خیر، کارِ ثواب ٹھہرایا۔ مثلاً عامہ کتب میں نمازیں

تلفظِ نیت (زبان سے کہہ لینا) مستحب فرمایا تاکہ زبان و قلب کی مطابقت رہے۔ باوجودیکہ نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت نہ خلفائے راشدین و ائمہ مجتہدین سے۔ اسی طرح تشویب (نماز کے لیے اعلام بعد اعلام مکرر اطلاع) کو، کہ خیر القرون میں اس کا رواج نہ تھا لیکن عامہ کتب متون و شروح و فتاویٰ میں اسے جائز و مستحسن فرمایا۔

اسی طرح خطبہ میں ذکر خلفائے راشدین اور عمیقین کریمین (حضرت امیر حمزہ و حضرت عباس) رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد صلوات و سلام پڑھنا کہ ربیع الآخر ۱۸۱ھ یا ۱۹۱ھ زمانہ سلطان ناصر صلاح الدین سے شروع ہوا۔ اور علماء نے اسے بدعت حسنہ فرمایا۔ اسی طرح مصافحہ بعد نماز عصر و فجر۔ اسی طرح قرآن شریف میں سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا۔ مسجدوں کے برج اور کنگرے بنانا کہ زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ بلکہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی۔ منڈھی بنانے کا حکم ہوا۔ مگر تغیر زمانہ سے، جبکہ عوام المسلمین کے قلوب تعظیم باطن سے عاری ہوئے، اور آگاہی و تہذیب کے لیے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے، اس قسم کے امور کو علماء و عامہ المسلمین نے مستحسن رکھا۔ اسی طرح ختم تراویح کے دن، باجماعت دعا کرنا، اخیر رکعت میں سورہ اخلاص تین بار پڑھنا، مستحسن و بہ نیت حسن، کار خیر و موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا۔ اسی طرح تقلید شخصی کہ اب اہلسنت و جماعت میں ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں منحصر و محدود ہے کہ جو ان سے باہر، وہ بد مذہب و بد دین۔ حالانکہ خیر القرون میں ہرگز اس طرح تقلید نہ تھی۔ بلکہ دو صدی کے بعد شائع ہوئی۔ مگر علمائے کرام نے اسے نہ صرف جائز و مستحسن فرمایا بلکہ اس کے وجوب کا حکم دیا۔ اور جو ان چار مذہبوں سے خارج ہو اسے بدعتی جہنمی فرمایا۔ طحاویہ حاشیہ در مختار میں ہے کہ اہلسنت کا گروہ ناجی اب چار مذہب میں مجتمع ہے حنفی مالکی شافعی حنبلی۔

اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ اب جو ان چار سے باہر ہے وہ بدعتی جہنمی ہے۔“

۵۔ آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جس کام کے لیے دن تاریخ مقرر ہو۔ اُس پر دوام ہوتا ہے۔ جب وہ تاریخ آتی ہے خیال آجاتا ہے۔ ورنہ آج کل میں عمر تمام ہو جاتی ہے لیکن کام نہیں ہوتا۔ رب العزیز جل جلالہ نے حج میں یہ تعین، ضروری نہ فرمائی کہ جس سال زاویرہ کا آدمی مالک ہو۔ طاقت رکھے اسی سال جائے۔ یا دوسرے سال حج کرے۔ یا کب کرنا چاہیے۔ یہ اُس کا کرم، اُس کی طرف سے رخصت مہتی اور ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ بہتیرے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح قدرت دے رکھی ہے۔ ان سال حج کریں گے۔ آئندہ سال حج کو جائیں گے۔ تیسرے سال ضرور اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ اسی لیت و لعل میں قصہ ہی کرتے رہ گئے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کا کام تمام کر دیا۔ فرض خدا کا بار، اُن کے سر رہا۔ اور مواخذۃ اخروی میں گرفتار، دنیا جہاں سے گزر گئے۔ اسی غرض سے تاریخ مقرر کر کے ایصالِ ثواب، عوام و خواص کا معمول و مشروع ہوا تاکہ مداومت کے باعث محبوب ترین اعمال میں اس کا شمار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محبوب ترین عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر عامل مداومت کرے اگرچہ حقوڑا ہو۔“ (بخاری و مسلم) یعنی ہمیشہ بجالاتا رہے۔ اُسے شروع کر کے ترک نہ کر بیٹھے۔

غرض عرسِ مجموعہ امورِ مستحسنہ کا ہے۔ اور مجموعہ امورِ مستحسنہ کا مستحسن ہوتا ہے۔ ان امور کے اجتماع سے کوئی نیا حکم کہ احاد و افراد کے منافی ہو، پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اس مجموعہ کا حسن، ہر واحد کے حسن سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بالوں کی رسی کہ ہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اور ٹہری جماعت کی خیر، احاد کے ظنی ہونے کے باوجود، مفید یقین ہو جاتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کہ متعدد طرق سے مروی ہو، حسن ہو جاتی ہے۔ اور جب ان سب امور خیر کی طرف حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ ان کی ہدایت فرمائی۔ ان کی رغبت دلائی اور مزاراتِ شہدائے کرام پر ہر سال تشریف لجا کر اُس کی بنیاد رکھی اس کی تاسیس فرمائی تو اس کے بعد اور کس مُوسس و موجد کی ضرورت رہ جاتی ہے جسے وہابیہ زمانہ، قرونِ ثلاثہ میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے اور مانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اُحد، شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور جب گھاٹیاں سامنے آتیں، قبورِ شہداء کو سلام کرتے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ فرماتے۔ یعنی "سلامتی ہو تم پر" اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ پس کیا اچھا وقت ہے عاقبت کا گھر" اور خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی ایسا ہی کرتے۔ اور اس سے تخصیص و تعیین تاریخ بھی ثابت اور مزاراتِ شہداء پر تسلیم و تحیت بھی۔

۶۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ عرس کوئی فعل اضطراری نہیں کہ بلا ارادہ و بلا تخصیص و

تعیین یوم و تاریخ مسلمان جمع ہو جائیں اور فاتحہ درود ہونے لگے۔ بلکہ یہ امر اختیاری ہے۔ حاضرین و منتظمین کے ارادہ و اختیار سے عمل میں آتا ہے۔ تو

انتظام کے لیے تعیین یوم و تخصیص تاریخ ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام سرانجام نہ پاسکے گا۔ اور اگر یوں کہیے کہ ایک عہدے پر تعیین نہ کیجئے۔ ایک

ہفتہ قبل بھی نہیں۔ تو ایک دن، ایک گھنٹہ یا پانچ دس منٹ پہلے، کیا تعیین، تعیین نہ ہوگی۔ ضرور ہوگی۔ تو مذہب و ہابیت کے گلے پر چھری

اب بھی چل گئی کہ وہاں تو بلا تعیین کی چھری ہوئی ہے۔ اور تعیین بدعت، اور ہر بدعت ضلالت اور ہر ضلالت فی النار ہے۔

۷۔ منکرین تعیین و تخصیص ذرا اپنی بھی خبر لیں کہ جب تعیین و تخصیص بدعت ہے۔

اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت فی النار، تو آخر اپنے مدارس کے

لیجے، کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ طریقہ معینہ ان تمام مدارس کا طریقہ سنت

کے خلاف ہے۔ لہذا بدعت ہوا لہذا پھر بلا تعیین اوقاتِ مدرسہ و افعال

(ا) مدرسین و احکام منتظمین، درست ہے یا اس کے لیے کوئی خاص حکم آیا ہے کہ تقسیم اسناد کا جلسہ، سال بہ سال، وقت و تاریخ و یوم کی تخصیص و تعیین کے ساتھ، اروسائے شہر و ممبران مدرسہ و بعض دیگر خیر خواہان متفامی ہوں خواہ بیرونی، ان کی موجودگی میں منعقد ہو۔

(ب) اخبارات و جرائد میں اسے مشہور کیا جائے۔ اور خیر خواہان ملت کے نام دعوت نامے جاری کیے جائیں۔

(ج) ہر سہ ماہ کے بعد، ورنہ سال میں کم از کم ایک بار، عام ممبران مدرسہ کا اجتماع، اسی یوم و تاریخ و وقت کی قیود کے ساتھ، ضرور ہو۔

(د) اہل مشورہ ایسے ہوں کہ ان کو شریک ہونے کا حتی الوسع، انہیں تخصیصات کے ساتھ، التزام و اہتمام ہو۔

(س) وقت درس موسم سرما میں (۶) بجے سے (۱۱) بجے تک اور (۲) سے (۴) بجے تک۔ اور موسم گرما میں (۶) بجے سے (۱۰) بجے تک۔ اور شام کو (۳) بجے سے (۵) بجے تک ہوں۔

(س) پابندی وقت درس کی، جملہ طلبہ پر ضروری ہو۔

(ص) امتحان سالانہ کے لیے شعبان کی تعیین ہو۔

(ط) ۱۵ ایاس کے بعد شعبان کی کسی تاریخ سے سوال کی ۸-۱۰ تک مدرسہ کی تعطیل ہو۔

(ع) عربی خواندگی کے لیے ۸ جماعتیں ہوں اور ہر سال مقررہ مندرجہ نقشہ کی خواندگی،

ضرور پوری ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نہیں تو اپنے لیے یہ تقییدات یہ

توقیعات، یہ تخصیصات، یہ تعیینات کہاں سے جائز کر لیں۔ اور اسے بدعت

لیکنہ اجتماع بدعات کیوں نہ ٹھہرایا۔ اور کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالہ فی النار کا

فتویٰ ان پر کیوں نہ لگایا۔ کیوں نہیں کھل کر کہہ دیا کہ ان بدعتوں کے مرتکب ناری

جہنمی مستحق عذاب الیم ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ انتظام و انصرام کے لیے یہ

تعیین وقت و یوم و تخصیص تاریخ و ماہ و سال ضروری ہے تو مویش سے بیگانو!

اہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تعینات و تخصیصات بغرض تحفظ و یاد دہانی ہوتے ہیں۔ کہ امور اختیار یہ میں تعین و تخصیص کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ مگر بات آپ جیسے منکرین کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہرادران اسلام یہاں اتنی بات اور یاد رکھیں کہ اعراس کی تعین میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اولیائے کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن، قبور کریمہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے، اخذ برکات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

(مواہب ارواح قدس مصدقہ المفلوٹا ۱۷)

چونکہ بعض طریقوں میں سماع کی عادت ہے، اس لیے تجدید حال اور از زیادہ ذوق و شوق کے لیے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ پس اصل اعراس کی اس قدر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ بعض علمائے بعض حدیثوں سے بھی اس کا استنباط کیا ہے۔ رہ گیا شبہ حدیث "لا تَتَّخِذُوا قُبُورَ عِبَادِ اللَّهِ كَمَا تَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ" کا، سو اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا۔ اور خوشیاں کرنا، اور زینت و آراستگی، و دھوم دھام کا اہتمام، یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ زیارات مقابر، واسطے عبرت اور تذکرہ آخرت کے ہے۔ نہ عقلمند اور زینت کے لیے۔ اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع۔ ورنہ مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا، واسطے زیارتِ روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا و ہذا باطل۔

اٹھ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ باجے گاجے کھینل نماشے کرنا، اور مزارات پر لوگوں کا مرکبِ بدعات و لہو و لعب ہونا، کہ ضرور ممنوع و حرام ہیں، یہ درکنار، سماع بھی داخل ماہیتِ عرس نہیں۔ سماع کو اعراس کا جز لازمی اور ماہیتِ عرس میں داخل ماننا محض کم ہمنی و عنناد ہے۔ جس طرح اکثر اعراس مع سماع و

مزا میر موتے ہیں بہتر کے اعراض، اس سے خالی بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد کا عرس برابر کرتے اور امور مذمومہ و سماع و مزا میر اس میں سے کچھ نہ ہوتا۔ تو ان وجوہ سے نفس عرس ہرگز ممنوع و ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ممنوعات شرعیہ کو منع کیجئے۔ کون ان سے منع کرتا ہے۔ مگر یہ نفس و شیطان کی دھوکا دہی ہے کہ ہنی عن المتکر (برائی سے روکنے) کے پردے میں متاع الخیر (خیر سے روکنے والا) بن جائیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ دیکھ لیجئے یہ دیو، کہیں آپ میں تو بند نہیں۔

۷۲ ابھی اوپر گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر سال اُحد تشریف لے جاتے۔ الحدیث۔ یہ ہر سال شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جانا اور سلام علیکم بما صبرتم فرمانا، تو زیارت قبور اور حجاز اعراض پر دلالت کرتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں لفظ کان اور علی راس کُلِّ حَوْلِ (ہر سال) بھی موجود ہے۔ آخر یہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے۔ یا یوہین زائد، لغو و فضول ہے۔ زیارت قبور تو "یا قِ قُبُورِ الشُّہَدَاءِ" (قبور شہدائے اُحد پر تشریف لے جاتے) ہی سے مفہوم ہوتی ہے۔ ان دونوں لفظوں کا کیا فائدہ ہے۔ یہ آپ کے ذہن نارسا میں نہ آئے۔ تو ہم سے سنئے۔ علی راس کُلِّ حَوْلِ تو یوم وفات کی تعیین و تخصیص پر دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ کان مداومت اور ہمیشگی پر۔ کہ یہ ہمیشہ معمول گرامی رہا۔ اور راس کُلِّ حَوْلِ سے ابتداء ماہِ حَرَمِ مَراد لینا ہرگز قطعاً درست نہیں کہ تیسین سنہ ہجری اور ماہِ حَرَمِ سے اس کی ابتداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کی گئی تھی۔ یہ تو زمانہ خلافت راشدہ امیر المؤمنین عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرار پائی ہے۔ لہذا ہر سال سے مراد ہے، شہدائے اُحد کی تاریخ شہادت۔ اس لیے کہ حَوْلِ کے معنی ہیں دورہ۔ حَرَمِ سے ابتداء کی جائے یا صفر سے۔ ذی قعد سے ہو یا ذی الحجہ سے۔ یکم ہو یا دسویں بیسویں یا بائیسویں۔ غرض جس جزء سے ابتداء کی جائے اس جزء تک تاریخ و ماہ کے آجانے کا نام حَوْلِ ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام جو فرضیتِ زکوٰۃ کے بارے میں حَوْلانِ حَوْلِ

رسالہ کا گزر جانا) تخریر فرماتے ہیں۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ جس یوم و تاریخ و ماہ کو آدمی مالک نصاب ہوا، اس کے ایک سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی وہی عربی مہینہ وہی تاریخ، دوسرے سال کے آنے تک اس کے پاس نصاب باقی رہی تو وہی تاریخ وہی مہینہ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ نہ یہ کہ ماہ رمضان ہی کو ابتدائے اسلام قرار دے دیا جائے۔ عرض اس حدیث کو جواز عرس کے دلائل میں پیش کرنا بے سود نہیں۔ اور نہ تقریب یوم و تاریخ کے لیے اس سے استدلال میں کوئی حرجی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۳۶ حدیث شریف لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا (میرمی قبر النور کو تم عید نہ بنانا) میں ممانعت اس امر کی ہے کہ میری قبر کے پاس عید کے لہو و لعب کے ساتھ مجتمع نہ ہو۔ کہ موجب غفلت و قسوت قلب و سنگدلی ہے۔ قبر النور تو قبر النور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ ستر ہزار صبح آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں۔ عصر کے وقت یہ بدل دیئے جاتے ہیں۔ ستر ہزار دوسرے آتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں۔ پھر قیامت تک بدلی ہوگی۔ اور جو ایک بار آئے وہ دوبارہ نہ آئیں گے۔ کہ منظور سب ملائکہ کو، یہاں کی حاضر ہی سے مشرف فرمانا ہے۔ اگر یہ تبدیل نہ ہوتے تو کروڑوں محروم رہ جاتے۔ پھر روضہ پر نور، تجلی الہی کا گھر، عطائے الہی کا دروازہ ہے کہ اللہ عزوجل کے نکل اول و اتم و اکمل و وظیفہ مطلق و قاسم ہر نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں۔ تو اس مبارک و منور مقدس و معطر بقعہ زمین کے پاس، اس کے متصل یا اس کے قریب و جوار میں، لہو و لعب کے لیے جمع ہونا، یقیناً ہزار در ہزار نعمتوں بركاتوں سے محروم ہونا اور فتاوت قلبی کا موجب ہے۔ جبکہ علماء کرام نے فرمایا کہ عوام المسلمین کے قبرستان میں جائیں تب بھی موت اور احوال و احوال قبر کو پیش نظر رکھیں کہ "آج یہ، کل ہماری باری ہے" دنیا کی باتیں نہ کریں اور نہ منشی مذاق دل لگی میں پڑیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازہ کے ساتھ منستے دیکھا تو فرمایا کہ "تو جنازہ میں منستا ہے۔ تجھ سے کبھی کلام نہ کر و نکا۔"

اور دوسرے معنی علمائے یہ بیان فرماتے کہ میری قبر کو تم عید نہ بنانا۔ یعنی جس طرح عید کے لیے سال میں صرف دو دن جمع ہوتے ہیں، میری زیارت کو صرف دو دن پر منحصر و مقصور، مفید و محدود نہ کر دینا۔ بلکہ اکثر حاضر ہو کر وہ کہہ بیٹھے ہزاروں ہزار رحمت و برکت کا، اور ذریعہ ہے بیرون از شمار، انواع سعادت کے حصول کا۔
(مرقاۃ المفاتیح)

- ۱۔ خود عالم اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:
- ۱۔ جو میری قبر کی زیارت کرے، اس کے لئے میری شفاعت واجب (واقطنی بہتقی وغیرھا)
 - ۲۔ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد، میری قبر کی زیارت کی، تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ (واقطنی طبرانی)
 - ۳۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، تو گویا اُس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ اور جو حرمین میں مر گیا، قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھیکا رہیگی
 - ۴۔ جو شخص میری زیارت کرے گا، قیامت کے دن میں اُس کا شفیع یا شہید ہونگا۔ اور جو حرمین (حرم مکہ و حرم مدینہ) میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن امن والوں میں اُٹھائے گا۔ (بہتقی)
 - ۵۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اُس نے مجھ پر جفا کی۔ (یعنی میرا حق ادا نہ کیا) (ابن عدی)

اور جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا**۔ اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں، تیرے پاس حاضر ہو کر، خدا سے بخشش چاہیں، اور رسول ان کی مغفرت مانگے، تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں۔

مسلمان بغور دیکھیں۔ آیت کریمہ صاف صریح ارشاد فرما رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبہ ہیں۔ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ، بیکس پناہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں، اپنی مغفرت و بخشش، بارگاہ رب العزت سے چاہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و خبیر ہے۔ ہر جگہ سنتا ہے۔ ہر ایک کی سنتا ہے۔ ہر ایک کی جانتا ہے۔ اس کا علم، اس کا سمع، اُس کا شہود، سب جگہ یکساں ہے۔ مگر حکم ہی فرمایا کہ میری طرف توجہ چاہو۔ میری عطا و بخشش اور فضل و کرم کی توجہ چاہو، تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم حیات ظاہری میں، تو یہ حضورِ یہ حضور ہی، یہ حاضر ہی، ظاہر تھی۔ اب روضۃ پر انوار پر حاضر ہی ہے۔ اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو، تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریادِ استغاثہ اور طلبِ شفاعت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ (مولانا علی قاری)

اللہ اللہ قرآن فرمائے، میرے محبوب کے روضۃ انوار پر حاضر ہی دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، میرے مرقدِ اطہر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اور منکرینِ زیارت اقدس لا تتخذوا قبری عیدا کو مبنی بنا کر مسلمانوں کو ہچکائی اور مزار پر انوار پر حاضر ہی سے ڈرائیں دھمکائیں۔

بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا بہ کجا

وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤنگا۔ (ترمذی ابن ماجہ وغیرہما) وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے ارشادِ حقانی ہوا کہ "اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہمیں مکہ محبوب ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ۔ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے اور اُس کے صلح و مد میں برکت عطا فرما۔ اور یہاں کے بنجار کو منتقل کر کے جحفہ میں بھیجے" (صحیح مسلم) اور یہ مضمون کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے واسطے دعا کی کہ مکہ سے دو چند یہاں برکتیں ہوں۔ اور بھی احادیث میں وارد ہے۔ ہاں ہاں یہ بارگاہِ بکس پناہ ہے۔ ان کی ایک نگاہِ کرم، کبائر کو حسنات سے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ جب تو ارجم المرآئین جل جلالہ نے گناہگاروں، خطاواروں، تباہ کاروں کو ان کا

اور واژه بتایا۔ واللہ رب العالمین مگر منکرین کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

پس حق یہ ہے کہ زیارتِ مقابر، انفراداً و اجتماعاً، دونوں طرح جائز اور ایصالِ ثواب و طعام بھی جائز۔ اور تعیینِ تاریخ، مصلحتاً بھی جائز۔ تو سب مل کر بھی جائز رہا۔ یہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور آیت فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا کی مخالفت ہوتی ہے۔ سو اولاً تو علماء نے لکھا ہے کہ خارجِ نماز کے لیے یہ امر مستحبات کے لیے ہے ترکِ مستحب پر اتنا شور و غنجل تا مناسب ہے۔ ورنہ لوگوں کا مکاتب میں پڑھنا ممنوع ہوگا۔ دوسرے اگر کسی کو یہی تحقیق ہو کہ یہ وجوب عام ہے تو اصل عمل کے منع کرنے سے بہتر ہے کہ امرِ تعلیم کر دیا جائے۔ یہی جواب ہے سووم میں قرآن پکار کر پڑھنے کا۔

۵۵ نہایت سیدھے سادے الفاظ میں شاہ صاحب نے وہی بات ارشاد فرمائی جو علمائے کرام تحریر فرماتے آئے اور گزشتہ صفحات میں ہم نے نقل کیا کہ عرسِ مجموعہ ہے امورِ مستحسنہ کا۔ اور امورِ مستحسنہ کا مجموعہ بھی مستحسن ہوتا ہے تو ان امور کے اجتماع سے کوئی ایسا نیا حکم جو احاد و افراد کے منافی ہو، پیدا نہیں ہوتا۔

(ملاحظہ ہو صفحہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ)

۵۶ قاعدہ کلیہ اس باب میں وہ ہے جو ہمیں قرآن کریم نے عنایت فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

”جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سناؤ اور خاموش رہو“

رواحقہ میں بجوالہ بحر فرمایا کہ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِهَا أَمْرَانِ الْإِسْتِمَاعُ وَالسَّكُوتُ فَيُعْمَلُ بِكِلَيْهِمَا الْخ یعنی ما حاصل اس آیت کریمہ کا دو باتیں ہیں۔ کان لگا کر سناؤ۔ اور خاموش رہنا۔ لہذا دونوں پر عمل لازم ہے۔ البتہ پہلا حکم قرأتِ جہر سے

مختص ہے اور دوسرا غیر مختص۔ لہذا اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مطلقاً قرأت کے وقت خاموش رہنا واجب۔ (خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز)

اسی میں ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ نماز میں (مقدمی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں) وارد ہے تاہم اعتبار عموم الفاظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ لہذا خارج نماز بھی قرآن کریم باواز بلند پڑھا جائے تو اس وقت اسے کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ یہی بات کہ یہ امر وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے؟ تو اس باب میں علمائے کرام کے درمیان اختلاف ہے جس کے ذکر کا یہاں محل نہیں۔ صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں امر استحباب کے لیے ہے جیسا کہ بیضاوی میں ہے۔ اور شاہ صاحب موصوف کا اشارہ اسی طرف ہے۔

جبکہ عامہ علمائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے۔ اس پر عمل کرنا لازم۔ اور اس کا ترک مکروہ تحریمی۔ اس باب میں کھضرات علمائے دین نے جو مسائل استنباط فرمائے۔ ان میں چند یہ ہیں :-

۱۔ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن کریم کے استماع کے لیے کوئی فائز نہ ہو، وہاں جہراً تلاوت کرنے والے پر قرآن عظیم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنے کا وبال ہے۔ رمازوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو جائز کہنے والے بھی اس پر غور کر لیں کہ کہیں وہ تو اس وبال میں شریک نہیں!

۲۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے۔ یا طالب علم، علم دین کی تکرار کر رہے ہیں یا مطالعہ میں مصروف ہیں یا دینی فقہی مسائل لکھنے میں مشغول ہیں کہ قرآن کریم بغور نہ سن سکیں تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔

۳۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثریتوں یا قرآنی خوانی کی دوسری محفلوں میں، تمام شرکاء بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ ایک کی آواز، دوسرے کی آواز سے ٹکراتی ہے، یہ حرام ہے۔ اگرچہ اشخاص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے آہستہ پڑھیں۔

۴۔ بازاروں اور ایسے مقامات پر جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں، بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے جبکہ ان لوگوں کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا ہے، اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ۔ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو یہ گناہ نکار۔

۵۔ آرام و استراحت کے وقت کہ لوگ سو رہے ہیں اور نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں اور کوئی شخص اپنے بالاخانہ پر جا کر قرآن عظیم کی تلاوت شروع کر دے تو یہ خود گناہگار ہوگا۔ اور وجہ وہی کہ اس کا پڑھنا لوگوں کے اعراض اور قرآن کریم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنے کا باعث ہوگا۔ یا ان کی اذیت کا سبب کہ بے وقت ان کی نیند خراب کر دی۔ اور دونوں صورتیں شریعت مطہرہ کو ناپسند۔

۶۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ جمع بغرض سننے کے حاضر ہو۔ ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ کہ بعض علماء کے نزدیک استماع قرآن فرض کفایہ ہے تو ایسی صورت میں ایک دو کا سن لینا، حتیٰ قرآن کی اقامت کا موجب ہوگا کہ اس کے استماع پر لوگوں نے توجہ تو دی۔ اُسے ضائع تو نہ ہونے دیا۔

۷۔ قرآن مجید سننا، خود تلاوت کرنے اور نقل پڑھنے سے افضل ہے۔ (در مختار، غلبہ۔ فتاویٰ رضویہ وغیرہ) ان تمام مسائل پر ناظرین غور کریں اور پھر دیکھیں کہ مانعین زیارت مقابر کی یہ دلیل کہ ”وہاں سب پکار کر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آیہ کریمہ کی مخالفت ہوتی ہے“ کیا اپنے اندر کوئی وزن رکھتی ہے۔ اب بھی انہیں اصرار ہو تو شاہ صاحب کے ارشادات کا کیا جواب دیں گے۔

البتہ جس مجلس میں امورِ منکرہ مثل رقصِ مروج و سجدہ قبور وغیرہ ہوں
اس میں شریک نہ ہونا چاہیے۔

حکم شرعی صرف اتنا ہی نہیں کہ رقص و سرود اور دوسرے ناجائز و حرام امور
پر مشتمل مجلسوں میں آدمی شرکت نہ کرے بلکہ جو لوگ اس کی ممانعت پر قدرت رکھتے
ہیں انہیں منع کرنا لازم۔ مسلم شریف میں ہے: "جو تم میں سے کوئی بُرائی دیکھے تو چاہیے
کہ مٹا دے اپنے ہاتھ سے۔ اور جو اس پر قدرت نہ رکھے تو زبان سے اس کی بُرائی بیان
کر دے۔ اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھے تو چاہیے کہ دل سے بُرا جانے۔ اور یہ بہت
ضعیف درجے کا ایمان ہے۔" صاف صریح مفاد اس حدیث پاک کا یہی ہے کہ جو
لوگ ذمی قوت اور اہل اختیارات ہیں کہ ان کے منع کرنے سے لوگ رُک جائیں گے ان
پر فرض ہے کہ جس طرح ممکن ہو لوگوں کو ایسی مجلس کے انعقاد اور ان امورِ منکرہ
سے روک دیں۔ انہیں صرف قلب سے بُرا جاننا کافی نہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ جانتے
ہیں کہ ان کے امر بالمعروف کرنے کو لوگ قبول کریں گے۔ اور بُرائی سے باز آجائیں گے
تو ان پر امر بالمعروف واجب ہے۔ اُسے چھوڑ نہیں سکتے۔ شرح شفا ملا علی قاری
میں ہے۔ اَلْاِنْكَارُ الْقَلْبِيُّ لَا يَكُونُ كَافِيًا اِلَّا لِلْعَاجِزِ عَنِ اِنْكَارِهِ بِيَدِيهِ اَوْ لِسَانِهِ۔
یعنی انکارِ قلبی اور صرف دل سے اُسے بُرا جاننا کافی نہ ہوگا۔ مگر اُس شخص کے لیے
جو عاجز ہے انکارِ لسانی (زبان سے اُس کی بُرائی بیان کرنے) سے، یا ہاتھ سے
اپنی قوت و رسوخ و اختیار سے) منع کرنے سے۔ اور جو شخص اس پر قدرت رکھتا
ہے اور پھر باوصفِ قدرت اُسے ترک کر دے گا اور اپنے اختیار و رسوخ کو کام
میں نہ لائے گا وہ ضرور گناہگار ہوگا۔

مولائے کریم قولِ حق و قبولِ حق کی توفیق بخشے۔ آمین۔ الحاصل عرس اولیائے کرام
کہ منکراتِ شرعیہ سے خالی ہو، جائز و مستحسن ہے اور رقص و سرود اور دوسری ایسی ہی
غیر شرعی بلکہ شرعاً ممنوع و ناجائز اور حرام باتوں کا خلط ملط، جس طرح جاہلوں میں معمول و

مروج ہے اس پر اصرار فسق و جہالت۔ وہابیہ کہ مطلقاً اسے شرک و بدعت بتاتے اور زیارت قبور وغیرہ کو کھینچ تان کر ممنوع ٹھہراتے ہیں۔ یہ خود اپنی جہالت بلکہ ضلالت میں گرفتار ہیں۔ لَسْأَلُ اللّٰهَ الثَّبَاتَ عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے جو سجدہ قبور کا ذکر کیا، اس باب میں مسلمان صرف اتنا ہی سمجھ لیں تو ان کے لیے کافی کہ سجدہ حضرت عزت عزوجلہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اُس کے بغیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک و کفر ہے جیسے کافروں کا معمول ہے کہ وہ صنم و صلیب اور شمس و قمر کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ یقیناً کفر و شرک ہے اور سجدہ تحیت و تسلیم وہ مطلقاً حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ جاہلوں غافلوں میں رائج ہے کہ وہ "مشائخ نما" پیروں کو یا مزارات کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تحیت کو کفر و شرک ٹھہرانا جیسا کہ وہابیہ نجدیہ کا مذہب ہے جہل صریح اور ضلال مبین ہے۔

ابطال شرک کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اور جمہور اہل اسلام کے قول پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی کافی ہے۔ محال ہے کہ مولیٰ عزوجل کبھی کسی مخلوق کو اپنا شریک کرنے کا حکم دے۔ اگرچہ پھر اسے بھی منسوخ فرمادے۔ اور محال ہے کہ بلکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے کوئی کسی کو، ایک ان کے لیے شرک یا خدا بتائے یا اُسے روا ٹھہرائے۔ وہابیہ نے اس سجدہ تسلیم و تحیت پر، شرک نامنخور کا حکم لگا کر، آدم و یعقوب و یوسف و بلکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام سب کو معاذ اللہ مشرک بنا دیا۔ اور رب عزوجل کو (خاک بدین گتاخ) شرک کا حکم دینے والا اور جائز رکھنے والا ٹھہرا دیا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مختصر یہ کہ وہ جو بہت جاہل ظالم پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہر حال میں حرام قطعاً ہے۔ چاہے قبلہ کی جانب ہو یا اور طرف۔ اور علماء و مشائخ کے سامنے زمین بوسی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اور کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہگار کہ وہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ اور قبر کو سجدہ بلکہ قبر کی طرف سجدہ، دونوں حرام۔ اور ان کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ مولیٰ عزوجل ہر فتنہ و شر و جہالت و ضلالت

سے امان بخشنے۔ آمین۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

رہا مسئلہ سماع کا۔ یہ بحث از بس طویل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ سماع محض میں بھی اختلاف ہے۔ جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر شرائط جواز مجتمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہوں تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ کما فضلہ الامام الغزالی رحمہ اللہ۔ اور سماع بالآلات میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے احادیث منع کی تاویلیں کی ہیں اور نظائر فقہیہ پیش کیے ہیں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر آداب شرائط کا ہونا باجماع ضروری ہے۔ جو اس وقت اکثر مجالس میں مفقود ہے۔ تاہم ہذا پنج انگشت یکساں نہ کر دو۔

۱۶ مسئلہ سماع میں یہ فقیر بے توقیر اپنے علم و دانش اور فہم و دانست کی روشنی میں سماع کے شائقین کو تین جماعتوں میں تقسیم کرتا، اور ہر ایک سے متعلق چند بنیادی امور کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ ناظرین اگر اسے حق و صواب پر مشتمل پائیں تو اپنی نیک دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ اور قصور و کوتاہی کو حق و صواب میں خلل انداز نہ کیجیں تو اسے فقیر کی ہچمدانی و کم علمی پر محمول فرمائیں اور فقیر کی اصلاح کو اپنا معمول بنائیں۔

اقول و باللہ التوفیق سماع جن حضرات کا معمول رہا جن کی جانب منتسب ہے ان میں سرفہرست ان عارفان باخدا، اور پاک نفسان باصفا کا گروہ حق پروردہ ہے جن کے متعلق صوفیان حق آگاہ نے فرمایا کہ

کسانیکہ یزدان پرستی کنند
باواز و ولاب مستی کنند

ہر وہ نغمہ اور ہر وہ آواز جو ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ ان کے لیے علم
بالا سے ایک نیا پیام لاتی اور انہیں عالم وجد میں لاکر، بے خود و مدہوش بنا دیتی ہے
تو ان کا سماع محض حروف و الفاظ اور نغمہ و آواز کا سننا نہیں ہوتا بلکہ اُس کے ہر پردہ
میں عالم غیب کے انوار، ان پر متحلی اور اسرار و رموز غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں۔
اب نہ نفس سرکش کی موٹھ زوریاں، ان کی راہ روکتی ہیں اور نہ نفسانی خواہشات ان
کے لیے سدِ راہ بنتی ہیں۔ یہ حضرات ہر این و آن سے بے نیاز، اپنے رب بے نیاز
کی بارگاہ میں سرسجود رہتے ہیں۔ ایسے محبوبانِ بارگاہِ الہی اور مقربانِ جلالتِ پناہی
کا وجد و سماع، اگر بطریقِ شرعی بھی، مزا میر کے ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے، تب
بھی ان کی بارگاہوں میں زبانِ اعتراض، دراز کرنا ادب و احتیاط سے گزر کر، سوء
ادبی و محرومی کے وبال میں گر جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

دوسرا گروہ سماع میں مشغول رہنے والوں کا ان تباہ حال، گریبان چاک و امن
آلودہ، در و دندانِ نامراد، گناہگار ان ناشاد کا ہے جن کا دامن توشہٴ آخرت سے خالی
اور جن کا نامہٴ اعمال، اعمالِ صالحہ سے عاری ہے۔ تہی دست، آلودہ دامن، نفس
امارہ کے ہاتھوں مجبوراً اور بادہ غفلت سے محمور۔ ناگاہ کسی ساز یا کسی خوش آواز یا کسی
نغمہ جہاں گداز کے سنتے ہی اُسے اپنی بد کاریوں، اور خدا و رسول کے احکام کی خلاف
ورزیوں کا خیال آجاتا ہے تو بے اختیار، آہ و فریاد کرنے اور عبرت کی آنکھوں سے
ندامت کے آنسو بہانے، کفِ افسوس ملتے اور بیقرار و بے چین ہو کر کچھاریں کھانے
لگتا ہے۔ رحمتِ الہی کی آس باندھے، مغفرت و بخشش کی بھیک مانگتا آگے بڑھتا
اور بابِ کریم کھٹکھٹاتا ہے۔ تو وہ نغمہ و ساز، اور وہ دل میں اتر جانے والی آواز، اس کے
حق میں ہمیز و ذریعہ ہے رشد و ہدایت کا، اور وسیلہ و واسطہ ہے اس کی بخشش و
مغفرت کا۔ کہ اُسی آواز جہاں نواز کی جارب کے ذریعے وہ گناہوں کی حس و خاشاک سے
اپنا سینہ شفاف، اور اپنے دل کا صحن، پاک و صاف کرتا اور تقرب حاصل کرتا ہے
تو جس کی یہ کیفیت ہو وہ بھی سماع سے معذور سمجھا جانا چاہیے۔ کیا عجیب کہ سماع سے

پیدا ہونے والی اس کی یہ کیفیت اُسے مقربانِ بارگاہ تک پہنچا دے اور اُس پر محبوبیت کا پرتو پڑ جائے۔ گناہگاروں کی آنکھوں سے ندامت و شرمندگی کا ایک ایک آنسو بارگاہِ رحمت میں بڑھی وقعت رکھتا ہے۔ احادیث میں وارد کہ رحمتِ الہی شکستہ دلوں سے بہت قریب ہے اور یہ شرم و ندامت باعث ہے دل شکستگی کا۔ اور اس حالتِ دل شکستگی میں جو دُعا بندہ کے مومنین سے نکلتی ہے، اس پر اجابتِ دُعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتِ الہی اس کی دستگیری فرماتی ہے۔ تو زبانِ طعن اُس پر بھی دراز نہ کریں اور نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دیں کہ گناہ و حرام ہے۔ اے عزیز! تجھے کسی کے دل پر کیا اطلاع۔ قلب کے عیوب پر، عالمِ الغیوب ہی کی نظر ہے۔ اور وہ ربِ کریم ستار و خطا پوش۔ تو تو زبانِ اعتراض کھولنے والا کون۔ اگرچہ ایسے اشخاص اور ان صفات کی اہلیت رکھنے والے افراد، نادر الوجود اور کمیاب سہی مگر تو کیا جانے کہ جو بندہ خدا ان کیفیات سے گزر رہا ہے وہ دریائے رحمت کا شناور ہے یا شیطان کا مسخرہ جیسے شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالے کھینچ رہا ہے۔

الحاصل ایسا سماع جو ایسے نتائج لائے، ایک غفلت شعار، معصیت کوش کو، دروازہ رحمت تک پہنچائے اور ایک سیاہ کار کو اس کے معاصی پر آگاہ کر کے اُسے توبہ و ندامت پر آگسائے، اس پر انکار سے زبان روکنا ہی مقتضائے احتیاط ہے خصوصاً عوام الناس کے روبرو۔ کہ وہ اس رد و انکار کو افسانے کا رنگ دیں گے اور بڑوں پر زبانِ طعن کھولیں گے۔ اور ان دونوں کے عین مقابل، اُن کے احوال و کیفیات سے سے نرا جاہل، شائقینِ سماع کا تیسرا گروہ ہے جس کے افعال و اعمال، حالات و احوال ہر ذمی عقل، صاحبِ الرائے پر روشن۔ سماع کا جلسہ ہے۔ حاضرین میں نام نہاد صوفیوں، علانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے جاہلوں، بلکہ ناخدا ترس گھرانوں کی عورتوں، بے ریش مردوں، نوجوان و نوجو بریوں، بلکہ کوئی بُرائے مانے تو کہوں کہ شراب نوشوں، حرام خوروں، رسولؐ کے زمانہ بے شرموں بد لحاظوں کی اکثریت ہے خود صدر نشینِ محفلِ سماع، عموماً علمِ شریعت و آدابِ طریقت سے خالی، علومِ باطن و

اسرارِ تصوف تو ان بے دولتوں کے نصیب میں کہاں، بزرگانِ دین کے اوراد و وظائف، اپنے مشائخِ بیعت و ارادت کے خاندانی ریاض و مجاہدہ سے بھی کالے کوسوں دور احکامِ شرع متین سے عملاً نفور، بلکہ بعض تو نماز پنجگانہ سے بھی لاتعلق و بیگانہ ہوتے ہیں۔ اور جوان میں نمازی کہلاتے ہیں وہ آداب و مستحبات و رکنازِ فرائض و واجبات، مفسدات و مکروہاتِ نماز سے ناواقف محض ہیں۔ مگر جاہل عوام میں اپنی جھوٹی کھوٹی مشیخت کا بازار گرم رکھنے اور ان سے نذرانے کے نام پر ٹکے سیدھے کرنے کے لیے مجالسِ سماع کے انعقاد اور اس میں شرکت کو لازم و فرض عین جانیں۔ اور پھر اس محفل کی رنگ رلیوں میں اشتغال و انہماک کا یہ عالم کہ نہ اذانوں کی پروا۔ نہ جماعتوں کا لحاظ۔ نہ مسجدوں کی حرمیتوں پر نگاہ، نہ نمازوں کا پاس۔ فرائض چھوٹیں، واجبات فوت ہوں۔ نمازیں جائیں۔ جماعتیں ہاتھ نہ آئیں مگر مسرور ہیں کہ لذتِ سماع تو ہاتھ لگی۔ گناہ بے لذت کے طعن سے توجان چھوٹی۔ ولا حول و قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

پھر ذرا ایک نظر ان قوالوں پر بھی ڈال لیجئے جو قوالی کی ایسی محفلوں کی جان ہوتے ہیں۔ وارٹھیاں مونڈائے، مونچھیں بڑھائے، رندوں کے انداز میں فسق و فجور میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر خوش آواز ہیں تو سب کچھ گوارا۔ بلکہ شرابی کبابی ہوں۔ (جیسا کہ بعض قوالوں کے متعلق سنا جاتا ہے کہ وہ نشہ میں دھت، قوالیاں سناتے ہیں) مگر ہیں خوش الحان، تال سر سے گائیوالے، تو حاضرینِ محفل ان کے دیدار کے لیے بے تاب۔ اور کہیں اگر ان کے ساتھ کوئی نوجنیز، خوش آواز امر و نہی تو ان کے نزدیک سونے پر سہاگہ۔ ہر طرف اُس کے ایک ہی نغمہ پر واہ وا کاشور، اور اس شور میں ناچنے والوں کا زور۔ اور ایسے کہ اچھے سے اچھے قاری کی قرأتِ قرآن پر اور بہتر سے بہتر نعت خواں کی نعت خوانی پر کبھی ان کے دل نہ پیچے۔ مگر اس محفل میں، "ان ناز کے پالوں" پر ایسے رکھے کہ آواز کان میں پڑھی اور لگے ناچنے کو دے تھرکنے اور چیخ و پکار، اس پر مستزاد۔ یہ گویا عالمِ وجد میں ہیں۔ کیفیت ان پر طاری ہے اور یہ

یاد جاناں میں منہمک ہیں۔ اور انہماک و استغراق بھی کیسا کہ قوالوں کے موند سے نکلنے والے اشعار و ابیات، جتنے زیادہ قیدِ شرع سے آزاد، اور جس قدر بے قیدی و آزاد روی پر مشتمل ہوں، اتنے ہی زیادہ ان کے حق میں شور و غوغا کے باعث۔ علمائے دین کہ اساطینِ شرع و ملت ہیں، ان کی توہین و صریح اہانت، یا کم از کم کنایتِ اشارت، جن اشعار و ابیات سے ہویدا ہو، ان کی تکرارِ عبث، ان کے ذوقِ بد ذوقی کی موجب۔ تو کیا ایسے نفس پرستوں کے، ایسے مجموعہ فسق و فجور، اور بیہودگیوں، ناخدا ترسیوں پر مشتمل، ایسی قوالیوں کی، ایسی محفلوں کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ حاشا ہرگز نہیں۔ خذرا! دل صاحبِ انصاف سے، انصاف طلب ہے۔ "کیا قوالیوں کی ایسی آلودہ محفلوں کو، ان پاک بازانِ عشق کی مجالسِ سماع سے کوئی بھی نسبت متصور ہو سکتی ہے اور کیا ان نفس پروروں کی ایسی محفلوں کو، ان پاک نفسانِ باصفا کی مجالسِ سماع پر قیاس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔"

امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ "ایسی قوالی حرام ہے حاضرین سب گناہگار ہیں۔ اور ان سب کا گناہ، ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے۔ اور قوالوں کا بھی گناہ، اُس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والوں کے ماتھے، قوالوں کا گناہ جانے سے، قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے۔ یا اس کے اور قوالوں کے ذقے، حاضرین کا وبال پڑنے سے، حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو۔ نہیں بلکہ حاضرین میں سے ہر ایک پر اپنا پورا گناہ۔ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ۔ اور سب حاضرین کے برابر جُدا۔ اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جُدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔"

وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا۔ ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلا یا۔ اور قوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا۔ یہ ڈھول سارنگی نہ سناتے (طبلہ ہار موہنیم اور دوسرے مزامیر و آلاتِ لہو و لعب کا دامن نہ بچھاتے)، تو حاضرین اُس گناہ میں کیوں پڑتے۔ اس لیے ان سب کا گناہ، ان دونوں پر ہوا۔ پھر قوالوں کے اس گناہ

کا باعث، وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا، نہ بلاتا، تو یہ کیونکر آتے بجاتے۔ لہذا قوالوں کا بھی گناہ اُس بلانے والے پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو کسی امرِ ہدایت کی طرف بلائے، جتنے اُس کا اتباع کریں، اُن سب کے برابر ثواب پائے۔ اور اس سے ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ آئے۔ اور جو کسی امرِ ضلالت کی طرف بلائے جتنے اُس کے بلانے پر چلیں، اُن سب کے برابر اُس پر گناہ ہو۔ اور اس سے اُن کے گناہوں میں کچھ تخفیف راہ نہ پائے۔ (مسلم شریف وغیرہ)

باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔ از انجملہ اجل و اعلیٰ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہوں کو یعنی زنا کو، اور لاشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔" بعض جہال بدست یا نیم ملا، شہوت پرست، یا مھولے صوفی بادیدہ مست، کہ احادیث صحیح، مرفوعہ محکمہ کے مقابل، بعض ضعیف قسے یا ختمہ واقعہ یا متشابہ پیش کرتے ہیں، اُنھیں اتنی عقل نہیں، یا قصد اے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متیقن بالیقین اپنے معنی پر متعین) کے آگے محتمل (کہ شاید یہ معنی ہوں، شاید وہ مراد ہوں) محکم (جس میں کوئی اشتباہ نہیں) کے حضور متشابہ (جس کی قطعی مراد، پر وقوف نہیں) واجب ترک ہے (ولہذا حدیث صحیح کے ہوتے حدیث ضعیف پر عمل غیر مقبول۔ جس کی مراد بالقطع والیقین معلوم اس کے سامنے محتمل پر عمل، غیر معتبر۔ یوہیں محکم کی موجودگی میں متشابہ کو سند بنانا، غیر مستند۔ لازم ہے کہ ان پر عمل نہ کیا جائے) پھر کہاں قول، کہاں حکایتِ فعل۔ پھر کجا محرم (وہ دلیل جس سے کسی فعل کی حرمت ثابت ہو کجا مبیح (کہ جواز و اباحت کا نتیجہ لاتا ہے) ہر طرح یہی واجب العمل۔ اسی کو ترجیح۔ (یہی سند، یہی قابل استناد) مگر ہوس پرستوں کا علاج کس کے پاس ہے۔ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے۔ اقرار لاتے۔ یہ ڈھٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں۔ اپنے لیے حرام کو حلال بنا لیں۔

پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ معاذ اللہ، اس کی تہمت محبوبانِ خدا، اکابرِ سلسلہ عالیہ
چشتِ قدست اسرارِ ہم کے سر دھرتے ہیں۔ نہ خدا سے خوف، نہ بندوں سے شرم
کرتے ہیں۔ حالانکہ خود محبوبِ الہی سیدی و مولائی نظام الحق والدین، سلطان الاولیاء
رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنابہم، فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں۔ مزار میر حرام ست۔
مولانا فخر الدین زراوی، خلیفہ حضور سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور
زمانہ مبارکہ میں، خود حضور کے حکمِ حکم سے مسئلہ سماع میں رسالہ کشف القناع عن
اصول السماع تحریر فرمایا۔ اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ "اما سماع مشائخنا رضی اللہ

تعالیٰ عنہم فبرئ عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة
من کمال صنعت اللہ تعالیٰ۔ ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سماع
اس مزار میر کے بہتان سے بری ہے۔ وہ تو صرف قوال کی آواز ہے، ان اشعار
کے ساتھ جو کمالِ صنعتِ الہی سے خبر دیتے ہیں۔"

لہذا صاف! اس امامِ جلیل خاندانِ عالی چشت کا یہ ارشاد مقبول ہو گا۔ یا آج کل
کے مدعیانِ خامکار کی تہمت بے بنیاد، ظاہرۃ الفساد، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
العلی العظیم۔

سیدی مولانا محمد مبارک بن محمد علوی کرمانی، مریدِ حضور پیر نور شیخ العالم فرید الحق
والدین گنجشکر، خلیفہ حضور سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتاب مستطاب سیر الاولیاء
میں فرماتے ہیں۔ "حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیزی فرمود کہ چند چیزیں چہرے پر
سماع مباح شود، مسموع و مستمع و مسموع و آلہ سماع۔ مسموع یعنی گوشہ مرد تمام باشد
کوہک نہ باشد و عورت نہ باشد۔ و مستمع آنکہ می شنود، از یاد حق غالی نباشد۔ و مسموع
آنچہ می گویند، فحش و مسخرگی نباشد۔ و آلہ سماع مزار میر ست۔ چون چنگ و رباب و مثل آل۔
می باید کہ در میان نباشد۔ این چند چیزیں سماع حلال ست۔"

یعنی سماع مباح وہ ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ مسموع۔ مسموع۔
مسموع اور آلہ سماع۔ مسموع یعنی سنانے والا پورا مرد ہو، نو چیز لڑکا اور عورت نہ ہو۔

مُشْتَمِعٌ یعنی سننے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ یادِ حق سے خالی نہ ہو۔ مسموع
جو کلام سنایا جائے اس میں فحش کہ قابلِ مواخذہ شرعی ہو اور مسخرہ پن نہ ہو۔ اور آلہ سماع
مرا میر ہیں مثلاً طبلہ، سارنگی، ستار وغیرہ ان میں سے کچھ موجود نہ ہو۔ ان شرائط
کو ملحوظ رکھ کر سماعِ حلال ہے۔ محمد خلیل عفی عنہ

مسلمانو! یہ فتویٰ ہے سرور و سردار سلسلہ علیہ شہادت سلطان الاولیاء رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا۔ کیا اس کے بعد بھی مفسر یوں کو موخہ دکھانے کی گنجائش ہے نیز سیر الاولیاء
شریف میں ہے کہ یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرضداشت کہ دریں روز ہا

بعضے از درویشان آستانہ دارا در مجمعے کہ چنگ ورباب و مرا میر بود، رقص کردند۔
فرمود نیکو نکرده اند۔ انجہ نام شروع ست ناپسندیدہ است۔ بعد ازاں یکے

گفت، چوں این طائفہ ازاں مقام بیرون آمدند۔ یا ایشان گفتند کہ شما چه کردید۔
در اں مجمع مرا میر بود۔ سماع چگونہ شنیدید و رقص کردید۔ ایشان جواب دادند کہ ما چنان

مستغرق سماع بودیم کہ ندانستیم کہ این جا مرا میر است یا نہ۔ حضرت سلطان المشائخ
فرمود، این جواب ہم چیزے نیست۔ این سخن در ہمہ معصیت ہا بیاید!

یعنی ایک بار حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی آجکل بعض
خانقاہ دار، درویشوں نے ایسی محفل میں جہاں طبلہ، سارنگی، ستار وغیرہ تھے رقص کیا۔
ارشاد فرمایا: "ان لوگوں نے یہ اچھا نہ کیا۔ جو بات شرعاً ناروا ہے وہ کسی طرح پسندیدہ

نہیں!"

کسی نے عرض کیا، جب وہ لوگ اُس محفل سے اُٹھ کر آئے تو دوسرے لوگوں نے ان
سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہاں تو مرا میر تھے۔ تم نے وہاں قوالی کیسے سنی، پھر رقص
بھی کیا۔ وہ بولے ہم ایسے مستغرق تھے کہ ہمیں مرا میر کی خبر ہی نہ ہوئی۔

حضرت شیخ المشائخ نظام الحق والدین نے فرمایا "یہ جواب تو شرعاً کوئی حیثیت
ہی نہیں رکھتا۔ یہ حیلہ تو تمام گناہوں کے لیے سنبھایا جاسکتا ہے۔"

محمد خلیل عفی عنہ

مسلمانو! کیسا صاف ارشاد ہے کہ مرزا میرنا جاننا ہے۔ اور اس عذر کا کہ ہمیں استغراق کے باعث، مرزا میر کی خبر نہ ہوئی، کیسا مسکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا جلد تو بہر گناہ میں چل سکتا ہے۔ شراب پئے اور کہدے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب ہے یا پانی۔ زنا کرے اور کہدے، غلبہ حال کے سبب ہمیں تمیز نہ ہوئی کہ جرّوار (بیوی) ہے یا بیگانی۔

اللہ تعالیٰ اتباع شیطان سے بچائے اور ان سچے محبوبانِ خدا کا سچا اتباع عطا فرمائے
آمین الہ الحق آمین بجاہم عندک آمین والحمد للہ رب العلمین۔ کلام یہاں طویل ہے۔
اور انصاف دوست کو اسی قدر کافی واللہ الہادی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(احکام شریعت حصہ اول ملخصاً)

سیدی و مرشدی سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارہری قدس سرہ
نے اسی مسئلہ سماع کی بحث میں اصح التواریخ جلد اول صفحہ ۱۳۷ پر تحریر فرمایا کہ
”حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، جو اجلہ خلفائے حضرت سلطان المشائخ
اکابر مرشدان عالی شان چشت سے ہیں قدس سرہ ہم، ان کی نسبت حضرت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مجموعہ مکتوبات موسومہ المکاتیب والرسائل الی ارباب
الکمال والفضائل میں ہے۔ منتسبان سلسلہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ تعالیٰ
سرہ غایت اجتناب و احتراز از شنیدن مرزا میر دارند۔ وایشان می گویند کہ شیخ فرمودند
کہ ہر کہ سماع مرزا میر کند از عقد بیعت و مریدی ما برآید۔“

حضرت مخدوم شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سلسلہ والے نہایت
احتراز اور پرہیز، مرزا میر کا گانا سننے سے رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے
جو کوئی مرزا میر کا گانا سنے گا وہ ہماری بیعت و مریدی سے نکل جائے گا۔“

نیز حضرت شیخ محقق اسی مجموعہ مکاتیب میں فرماتے ہیں ”از سید الطائفہ جنید بغدادی
قدس سرہ می آرنکہ در مبادی حال سماع کردے و باہل سماع شستے و در آخر ترک کرد۔ گفتند
چرا سماع نہ کنی و شنوی۔ فرمود از کہ بشنوم و با کہ بشنوم۔“ اشارت کرد۔ بقصد اخوان پیاراں،

کہ از انہامی شنید و بانہامی نشست۔ زیر کہ سماع ایشاں از اہل بود و باہل بود، چہ
 اختیار مشائخ سماع را، در جایگہ کردہ اند بشرط و آداب بود کہ در کتب ایشاں مذکور و
 مسطورست۔ و گاہ گاہے بود، نہ بر طریق استمرار و عادت۔ و چون جنید رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ترک سماع، در زمان خود، بجهت فقہ احوال و شرائط کرد، و بگہ چہ تو اں گفت۔
 یعنی حضرت سید الطائفہ سرگروہ سلاسل صوفیہ صافیہ حضرت سیدنا جنید
 بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے حال میں سماع سنتے اور اہل سماع کے ساتھ بیٹھتے۔
 آنحضرت میں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کیوں سماع نہیں سنتے۔ حضرت نے جواب
 دیا، کس سے سنتوں اور کس کے ساتھ سنتوں۔“

شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت نے اپنے دوستان طریق اہل سماع
 کے جاتے رہنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جن سے آپ سماع سنتے اور جن کے ساتھ
 بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس لیے کہ ان حضرات کا سماع سنانے والے بھی اہل ہوتے تھے۔ اور اہل
 ہی کے ساتھ بیٹھ کر ہوتا تھا۔ کہ مشائخ کرام نے جہاں بھی سماع سنا ہے۔ وہ اس کی شرطوں
 اور آداب ہی کے ساتھ سنا ہے۔ جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور کبھی کبھی سنا
 ہے نہ ہمیشہ اور عادت کے طور پر۔“

شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے اپنے عہد مبارک میں (حضرت کا وصال شریف ۲۹۶ھ میں ہوا کما فی الرسالۃ القشیریہ)
 سماع کے اہل لوگوں کے جاتے رہنے، اور اس کے شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے
 چھوڑ دیا تھا تو دوسرے لوگ بعد والے کیا کہہ سکتے ہیں۔“

فقیر (محمد میاں قادری) کہتا ہے غفر اللہ تعالیٰ لہ، خصوصاً اس چودہویں صدی
 میں جبکہ فسق و فجور کی یہ کثرت اور زور ہے، اور خود سماع سنتے اور سنانے والے،
 سب کی وہ حالت ہے جس کا مختصر بیان گنہرا، کون عاقل ایمان دار، اس میں ایک
 لمحے کے لیے تاہل کر سکتا ہے۔ کہ یہ سماع قطعاً سخت اشد حرام اور یہ لوگ سماع کے
 قطعاً نااہل ہیں“ انتہی

اور یہ فقیر قار دی برکاتی عرض کرتا ہے کہ اکابر کرام کی ان تصریحات کے بعد بھی ہمس زیارت قبور سے عوام و خواص کو روکنے کے لیے، اس سماع کو حیلہ بنانا محض ضد و نفاست پر مبنی ہے کہ جہاں عوام کے افعال کو سند بنانا، کسی سفیہ غیر فقیہہ کا کام ہے۔ مگر وہاں یہ کو اسی کا التزام ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

بہر حال وہ حدیث خبر واحد ہے اور محتمل تاویل۔ گویا تاویل بعید ہے۔ اور غلبہ سہاں کا بھی احتمال موجود۔ ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا از بس و شوار ہے۔ مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرو مرشد کی روح مبارک ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہوئی، تو مولود پڑھا جاتا ہے۔ پھر ماہر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اور زوائد امور، فقیر کی عادت نہیں۔ نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا۔ نہ خالی۔ نہ بالات۔ مگر دل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں جو محض ریاکار مدعی ہو وہ بڑا۔ مگر یقین اس کا کہ وہ ریاکار ہے۔ بلا حجت شرعیہ نادرست ہے۔ اس میں بھی عمل درآمد، فریقین کا یہی ہونا چاہیے۔ جو اوپر مذکور ہوا۔ کہ جو لوگ نہ کریں، ان کو کمالِ اتباع سنت کا شائق سمجھیں جو کریں ان کو اہل محبت میں سے جانیں۔ اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں۔ اور جو عوام کے غلو ہوں ان کا لطف و نرمی سے السداد کریں۔

۶۹ امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر وہ وجد صادق ہے اور حال غالب، عقل مستور اور اس عالم سے دور، تو اس پر تو قلم ہی جاری نہیں۔ ع

”کہ سلطان نہ گیر و حنراج از خراب“

اور اگر تکلف وجد کرتا ہے۔ تو لچکے توڑے کے ساتھ حرام ہے۔ اور بغیر اس کے اگر ریادہ
 اطہا کے لیے ہے تو جہنم کا مستحق ہے۔ اور اگر صادقین کے ساتھ تشبہ بہ نیتِ خالصہ
 مقصود ہے کہ بنتے بنتے بھی حقیقت بن جاتی ہے تو حسن و محمود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں "ہن تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کا مشابہ بنے وہ انہیں
 میں سے ہے۔ انتہی بلفظہ تو بلا دلیل شرعی اُس پر زبانِ اعتراض نہ کھولنا ہی موجب
 خیر و صلاح ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ۔

نہ صاف ظاہر ہو کہ عرس اولیائے کرام کے لیے محفلِ سماع کا اہتمام و انصرام،
 نہ عرس کی حقیقت میں داخل ہے۔ نہ اس کے انعقاد کے لیے شرط و لازم۔ ہاں قرآن
 خوانی و فاتحہ خوانی و لغت خوانی و وعظ و ایصالِ ثواب و اطعامِ طعام، اور تقسیمِ تبرک،
 جیسے امورِ مستحسنہ کا مجموعہ ضرور ہے اور مجموعہ امورِ مستحسنہ کا مستحسن ہوتا ہے اور ان کے
 اجتماع سے کوئی ایسا نیا حکم پیدا نہیں ہوتا، جو احاد کے احکام کے منافی ہو، بلکہ حتی
 یہ ہے کہ اُس کا حسن، بہر واحد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گزرا کہ جیسے بالوں کی
 رسی۔ بہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ اور بڑھی جماعت کی خبر، احاد کے ظنی رہنے
 کے باوجود، مفید یقین کی ہو جاتی ہے۔ اور حدیثِ ضعیف کہ متعدد طریق سے مروی ہو
 حسن ہو جاتی ہے۔ کما فی اشعۃ اللمعات و غیرہا من الاسفار۔

الغرض نفسِ عرس و فاتحہ کا جائز و مستحب، محبوب و مستحسن ہونا۔ حضراتِ علماء
 کرام اہلسنت نے اس طرح ثابت کر دیا کہ کسی عاقل کو سوائے تسلیم کے چارہ نہیں جس کا
 نفیس خلاصہ اس فقیر نے توفیر نے اس مختصر رسالہ میں کر دیا اور جس کا فیصلہ حضرت شاہ صاحب
 علیہ الرحمہ نے اپنے فیصلہ سہفت مسئلہ میں کر دیا۔ باقی رہا عرس میں امورِ غیر شرعیہ کا کہیں کہیں جاہلوں
 ناواقفوں کی جانب سے پایا جانا تو اولاً یہ حرکات ناواقف عوام الناس کی ہیں اور عوام کا لانعام مشہور۔
 تو ان کے کسی فعل کو درمیان میں لاکر، عرس کے بدعت ہونے کا ایک عام حکم لگا دینا، دیانت و
 حق پرستی کے خلاف ہے۔ ہاں صاحب الرائے جانتا ہے کہ اگر کہیں کسی وقت، کوئی غیر شرعی
 امر لاحق و عارض ہو جائے تو اس سے نفسِ مستحسن، قبیح نہیں ہو سکتی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

چند اصول شرعیہ

ایصالِ ثواب وغیرہ کی مختلف صورتوں کے احکام انہیں اصول پر مبنی ہیں

۱۔ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اعمال پر ثواب، آدمی کی نیت کے مطابق مترتب ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر رکھتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

۲۔ جو کام دینی فائدے اور دنیاوی جائزہ نفع سے خالی ہو وہ عبث ہے۔ اور عبث خود مکروہ ہے۔ اور اس میں مال صرف کرنا اسراف ہے اور اسراف حرام۔ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّ أَنْتُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْرِفِينَ۔

۳۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلاشبہ محبوب شائع اور مطلوب شرع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچائے تو پہنچائے۔ (مسلم شریف)

۴۔ معظمان دینی اور الہی حرمتوں، نشانیوں کی تعظیم قطعاً مطلوب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو خدا کے شعاروں کی تعظیم کرے وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ وقال تعالیٰ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَذَلِكَ حَبِيرٌ عِنْدَ رَبِّهِ۔ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس!

۵۔ قبورِ اولیائے کرام و عباد اللہ الصالحین، بلکہ عام مقابرِ مومنین، ضرور مستحقِ ادب و تکریم ہیں۔ ولہذا ان پر بیٹھنا ممنوع۔ پاؤں رکھنا ممنوع۔ یہاں تک کہ ان سے

تنبیہ لگانا ممنوع۔ عمارہ بن حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ فرمایا۔ او قبر والے، قبر پر سے اتر۔ نہ تو صاحبِ قبر کو ایذا دے۔ نہ وہ تجھے۔ (احمد و حاکم) اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "میں آگ، یا تلوار پر چلوں، یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے گانٹھوں (اور ہاتھ سے مدد نہ لوں) مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔"

زیارتِ قبور سے متعلق چار مسائل

۱۔ قبر پر چراغ جلاتا۔ اگر اس کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں یعنی خاص قبر پر چراغ رکھنا، تو یہ مطلقاً ممنوع ہے۔ اور اولیائے کرام کے مزارات میں، اور زیادہ ناجائز۔ کہ اس میں بے ادبی و گستاخی اور حق میت میں تصرف و دست اندازی ہے اور اگر قبر سے جدار روشن کریں۔ اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے۔ نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے بیٹھا ہے۔ نہ وہ قبر سہراہ واقع ہے۔ نہ کسی معظم ولی اللہ یا عالم دین کا مزار ہے۔ غرض کسی منفعت و مصلحت کی امید نہیں تو ایسا چراغ جلاتا ممنوع ہے کہ جب مطلقاً فائدے سے خالی ہوا، اسراف ہوا، اور بحکم اصلِ دوسم ناجائز ٹھہرا۔ خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ یہ جابلانہ زنگم ہو کہ میت کو اس چراغ سے روشنی پہنچے گی۔ ورنہ اندھیرے میں رہے گا۔ کہ اب اسراف کے ساتھ اعتقاد بھی فاسد ہوا۔ والعیاذ باللہ۔

اور اگر وہاں مسجد ہے۔ یا تالیان قرآن (تلاوت قرآن کرنے والے) یا ذکرانِ رحمن کے لیے روشن کریں۔ یا قبر سہراہ ہو اور نیت یہ کی جائے کہ گزرنے والے

دیکھیں اور اسلام و ایصالِ ثواب سے خود بھی نفع پائیں اور میت کو بھی فائدہ پہنچائیں۔
یا مزار ولی یا عالم دین کا ہے روشنی سے نگاہِ عوام میں اس کا ادب و اجلال پیدا کرنا
مقصود ہے تو ہرگز ممنوع نہیں بلکہ حکم چار اصولِ باقیہ مذکورہ، مستحب و مندوب ہے
بشرطیکہ حد افراط پر نہ ہو۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدسنا اللہ بسره القدسی، حدیقہ
ندیۃ، شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ "قبور میں شمعیں روشن کرنے کی ممانعت
صرف اُس حالت میں ہے کہ نفع سے بالکل خالی ہو۔ ورنہ اگر موصح قبور میں مسجد
ہو (کہ روشنی سے نماز ہی کو آرام ملے گا اور مسجد میں بھی روشنی ہوگی) یا قبر سہرا ہے
کہ روشنی سے راہگروں کو بھی نفع پہنچے گا اور اموات کو بھی۔ کہ قبر مسلم دیکھ کر سلام کریں گے
فاتحہ پڑھیں گے۔ دعا کریں گے۔ ثواب پہنچائیں گے۔ گزرنے والوں کی قوت زائد ہے
تو اموات برکت لیں گے۔ میت کی قوت زیادہ ہے تو گزرنے والے فیض حاصل
کریں گے۔ یا وہاں کوئی بیٹھا ہے (کہ زیارت یا ایصالِ ثواب، یا افادہ، یا استفادہ،
کے لیے آیا ہے روشنی سے اُسے آرام ملے گا۔ قرآنِ عظیم دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ
سکے گا) یا مزار کسی ولی اللہ یا محقق عالم دین کا ہے۔ وہاں ان کی روح مبارک کی تعظیم
کے لیے روشنی کریں، جو اپنے بدن کی مسطح پر ایسی تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین
پر۔ تاکہ اس روشنی سے لوگ جائیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تو اس سے تبرک کریں۔ اور
وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو، تو یہ جائز امر ہے۔ اس سے
اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ انتہی

۲۔ عود لوہان وغیرہ سُلگانا۔ کوئی چیز نفسِ قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز

کرنا چاہیے۔ اگرچہ کسی برتن میں ہو۔ اس لیے کہ قبر کے اوپر سے دھواں اُٹھنے میں
بدفالی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور قبر کے قریب سُلگانا، اگر کسی تلاوت کنندہ، یا ذاکر یا زاہد،
حاضر خواہ عنقریب آنے والے کے واسطے نہ ہو، بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لیے جلا کر،

چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ اسراف و اساعت (رببادی) مال ہے۔ میت صالح و نکو کار اُس غرفے (کھڑکی) کے سبب، جو اس کی قبر میں، جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں رزم ہوائیں، بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں، دنیا کے اگر عود و لوبان سے عثی و بے نیاز ہے۔ اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہو، اُسے اس سے انتفاع نہیں۔ توجیب تک سب مقبول سے نفع معقول نہ ثابت ہے، سبیل احترام و اجتناب اور پرہیز ہے۔ اور اس پر قیاس نہ ہوگا کہ قبروں پر گلاب اور پھول رکھنا متعدد کتابوں کی تصریح سے مستحب ہے۔ اس لیے کہ وہاں علماء نے علت یہ بیان کی ہے کہ پھول جب تک تر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ خوشبو اس کی وجہ نہ بتائی۔

اور اگر موجودین یا آنے والے زائرین کے لیے حضور صا وقت فاتحہ خوانی، یا تلاوت قرآن عظیم و ذکر الہی سلگائیں تو بہتر و مستحب ہے۔ اور قدیم سے آج تک اُس سے تلاوت و ذکر کی تعظیم اور مجلس مسلمانان کا اُس سے خوشبو کرنا معہود و معمول ہے۔ جو اسے فسق و بدعت بتائے، محض جاہلانہ جرات کرتا، یا وہابیت کے اصول مردود پر مرتا ہے۔ بہر حال یہ شرع مطہر پر افتراء ہے۔ اس کا جواب انہیں دو آیتوں کا پڑھنا ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صدقین (تم کہو لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو) قل اللہ اذن لکم علی اللہ تفرون (تم کہو کیا اللہ نے تمہیں یہ اذن دیا یا اللہ پر بہتان دھرتے ہو۔

۳۔ تر میت اولیائے کرام پر غلاف ڈالنا۔ مذکورہ بالا انہیں اصول

سے مزارات اولیائے کرام پر چادر ڈالنے کا بھی جواز ثابت ہوا کہ اس سے نگاہِ عوام میں تعظیم اولیاء پیدا کرنا مقصود ہے کہ صاحب مزار کی تحقیر نہ کریں۔ اور اس لیے کہ اہل غفلت جب زیارت کو آئیں تو ان کے دل ٹھکیں اور ادب کمیں کہ ویسے وہ زیارت میں اولیائے کرام کا ادب نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی روح مبارک،

ان کے مزارات کے پاس حاضر ہوتے تو اس غرض سے مزارات پر غلاف ڈالنا جائز ہے۔ اس سے ممانعت نہ چاہیے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں قبور مسلمین کی حرمت باقی نہ رہی۔ قبروں کے ساتھ عوام کیا کچھ نہیں کرتے۔ پاؤں رکھ کر ان پر چلیں۔ باتیں وہ بٹھ کر ان پر مٹکائیں۔ واپس باتوں میں ان پر چم کر وقت وہ گنوائیں۔ ناپاک جوتے پہنے، قبور مسلمین پر دوڑتے وہ پھریں۔ اور جو زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ و بے باک ہیں، وہ چوس و شطرنج اور تاش و جوائن پر بٹھ کر کھیلیں۔ کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کسی عزیز کی خاک عزیز، زیر پا ہے۔ یا کبھی ہمیں بھی یوہیں خاک میں سونا ہے۔ اور بار بار دیکھا کہ جہاں قبروں پر بٹھ کر جوا کھیلتے، فحش بکتے، قہقہے لگاتے ہیں، وہاں بعض کی یہ جرات کہ معاذ اللہ، مسلمانوں کی قبر پر پیشاب کرنے میں باک نہیں رکھتے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ لہذا درو مندان دین نے ادھر مزارات اولیائے کرام کو ان ناخفاظیوں اور ان جراتوں سے محفوظ رکھنے، اور ادھر جاہلوں کو ان کے ساتھ گستاخی کی آفت عظیم سے بچانے کے لیے مصلحت و حاجت شرعیہ سمجھی کہ اولیائے کرام کے مزارات طیبہ، عام قبور سے ممتاز رہیں۔ تاکہ عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو۔ اور بیباکانہ برتاؤ کر کے ہلاک میں پڑنے سے باز رہیں۔ لہذا پہچان کے لیے غلاف درکار ہوئے۔ اس سے کم حاجت کے باعث علماء نے مصحف شریف کو سونے وغیرہ سے مزین کرنا، مستحسن سمجھا ہے کہ ظاہر میں اسی ظاہری زینت سے جھکتے ہیں۔ اور غور کیجئے تو پوشش کعبہ معظمہ میں بھی ایک بڑی حکمت یہی ہے۔ تو یہاں کہ نہ فقط قلت تعظیم، بلکہ معاذ اللہ ان شدید بے حرمتیوں کا اندیشہ تھا۔ چادر ڈالنے، روشنی کرنے، امتیاز دینے، اور قلوب عوام میں وقعت لانے کی سخت حاجت ہوئی۔ اب اس سے منع کرنے والے یا تو سخت کج فہم و جاہل اور حالت زمانہ سے نرے غافل ہیں۔ یا وہی بے ادب محروم جن کے قلوب میں عظمت اولیاء سے غار اور تعظیم معظمان دینی سے بخار ہے۔ والعیاذ باللہ۔ آخر نہ دیکھا کہ بہت چیزوں کا حکم، زمانہ اور مکان کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اسی قبیل

سے مسجدوں کے کنگرے اور برج بنانا کہ زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ بلکہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی۔ منڈی بنانے کا حکم ہوا کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم "مسجد میں بناؤ اور انھیں بے کنگرہ رکھو (بیہقی وغیرہ) مگر تغیر زمانہ سے جبکہ قلوب عوام، تعظیم باطن پر تنبہ کے لیے تعظیم ظاہر کے محتاج ہو گئے تو اس قسم کے امور کو علماء و عامہ مسلمانین نے مستحسن رکھا۔ پوپس مساجد کی آرائش ان کی دیواروں پر سونے چاندی کے نقش و نگار کہ صدر اول میں نہ تھے۔ مگر اب ظاہری تزک و احتشام ہی قلوب عامہ پر اثر تعظیم پیدا کرتا ہے۔ لہذا ائمہ دین نے حکم جواز دیا۔

مزایات اولیاء اللہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا، فاتحہ پڑھنا، ان پر چادریں چڑھانا، غلاف ڈالنا، ان امور میں سے ہیں جنہیں سادات صلحاء و اکابر علماء، بلا تکبر، بلکہ مجوم کثیرہ کے ساتھ، چم غفیر عامہ مسلمانین کے مجمع میں، شرفاً و عزاً کرتے چلے آئے ہیں تو ہرگز ہرگز نہ یہ گناہ و بدعت ہے اور نہ ہرگز ہرگز گمراہی و ضلالت۔

اور چادروں کے سبز و سرخ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ریشمی ہونا بھی روا کہ وہ محبت نہیں۔ البتہ باجے نا جائز ہیں۔ اور جب چادر موجود ہو اور وہ مہنوز پرانی، یا خراب نہ ہوئی ہو کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جو عام اس پر صرف کریں، ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کے لیے محتاج کو دیدیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر، جب حاجت سے زیادہ ہو خدام و مساکین و حاجت مند لے لیتے ہیں اور اسی نیت سے ڈالے تو مضائقہ نہیں کہ یہ تصدق بھی ہو گیا۔ ہاں چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔

۴۔ مچھولوں کی چادر شہر پر ڈالنا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ

نیت حسن سے حسن ہے۔ جیسے بالائے کفن ڈالنا، کہ وہ جب تک تر ہیں تسبیح کرتے ہیں۔ اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور رحمت آتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے فرمایا کہ
 "ان دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہے بلکہ
 ان میں کل ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔" اس کے بعد کھجور کی
 ایک ترشاخ کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر نصب فرمایا اور
 یہ فرمایا اِنِّیْ لَا اُرْجُو اَنْ یَّخْفَفَ عَنْهَا مَا لَمْ یَبْسَا۔ مجھے امید ہے کہ جب تک پختک
 نہ ہوں، ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی، اسی حدیث کی وجہ سے بعض ائمہ متاخرین نے
 یہ فتویٰ دیا ہے کہ پھولوں اور ترشاخوں کو قبروں پر رکھنے کی جو عادت ہے وہ سنت
 ہے۔ اسی لیے علمائے کرام نے فرمایا کہ قبروں پر سے سبزہ اور ترگھاس کا کاٹنا مکروہ
 ہے۔ (ردالمحتار) اور وجہ اس کی وہی کہ جب تک وہ تر رہے گی تسبیح کرے گی
 جس سے میت کو انس حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ تر کی تسبیح، خشک کی تسبیح سے بڑھ کر
 ہے۔ کہ تر میں ایک قسم کی حیات ہے۔

۵۔ اولیائے کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا۔

اولیاء کرام کے محبوبان

خدا اور آیہ رحمت ہیں، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے اور اس پر نظر رحمت
 رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا رب عزوجل فرماتا ہے:
 هُمُ الْقَوْمُ لَا یَشْقٰی بِهٖمْ حَبِیْسٌ وَّهٗ وَهٗ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ لَوْکَ
 بھی بد بخت و نامراد نہیں رہتا۔ تو دور و نزدیک سے سفر کر کے، خاص ان کے
 مزارات طیبہ پر حاضر کی نیت سے، ان مقامات مقدسہ پر حاضر ہونا، سمجھ میں
 نہیں آتا کہ منکرین، کیوں اسے ناجائز و ناروا اور بدعتِ سیئہ مٹھراتے ہیں۔ آخر
 نہ دیکھا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ہر سال کے سرے
 پر شہدائے اُحد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور سلام علیکم بما صبرتم و نفعہ
 عُقْبٰی الدَّارِ فرماتے (سلامتی ہو تم پر اُس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا۔ پس کیا اچھا
 ہے عاقبت کا گھر۔)

تو اس امر خیر یعنی مزاراتِ طیبہ پر حاضری کی طرف خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ہدایت فرمائی اور مزاراتِ شہدائے کرام پر ہر سال تشریف لے جا کر اُس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اور کس موجد کی ضرورت ہے۔ یہ بحث بالتفصیل گزر چکا۔

اولیائے کرام کے مشاہد و مقابرو مزاراتِ طیبہ کی طرف سفر کرنے کو ناجائز قرار دینے والے، آنکھ پھینک کر، حدیث شریف لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا (بخاری و مسلم) یعنی کجاوے نہ کسے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف۔ مسجد حرام۔ مسجد اقصیٰ اور یہ تیسری مسجد طیبہ۔ کو اپنے دعویٰ پر بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف میں اُس کے دعویٰ کے ثبوت کی بوجہ نہیں۔ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظِ کریمہ، بیانگِ دہل یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مساجدِ ثلاثہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور مسجد کی طرف، فزونی و کثرتِ ثواب کی نیت سے سفر کرنا نہ چاہیے۔ وجہ اس کی ظاہر کہ ان تین مسجدوں میں ادائیگیِ نماز کا ثواب بے شک فزوں و متضاعف ہے۔ اس لیے کہ ان تینوں مسجدوں کو، ساری دنیا کی مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے جبکہ دوسری مسجدیں، درجہ میں متساوی ہیں۔ کسی مسجد کو کسی دوسری مسجد پر، کثرتِ ثواب کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں۔ اور باعتبار فضیلت، ان میں باہم کوئی تفاوت نہیں۔ تو ان کی جانب محض زیارتِ ثواب کے حصول کی نیت سے سفر کرنا، خواہ خواہ اپنے آپ کو تعب و مشقت میں ڈالنا ہے۔ حاشیہ مشکوٰۃ میں اسی حدیث شریف کے تحت ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر مشاہد و مقابرو علماء و صالحین کی جانب سفر سے ممانعت کی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں۔ زیارتِ قبور کا حکم تو خود حدیث شریف میں آیا ہے۔ لہذا اس حدیث میں ممانعت اس بات کی ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ، کسی شہر کی کسی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ کہ ساری مسجدیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ، یکساں

اور متمثل ہیں۔ جبکہ اولیاء و صالحین و علمائے کاملین باہم متساوی نہیں۔ بلکہ ان کی زیارت کی برکات، عند اللہ ان کے مراتب رفیعہ کے مطابق ہیں۔ پھر کیا اس حدیث شریف کی بنیاد پر انبیائے کرام و مرسلین عظام کے مزارات طیبہ پر حاضری پر بھی یہی حکم دیا جائیگا۔ یہ حکم تو منکرین بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جب یہ جائز ہے تو اس کے جواز میں کیا قباحت ہے۔ انتہی۔

الغرض مقابر و مشاہد و مزارات اولیائے کرام کی زیارت کے لیے سفر کرنا، موجب خیر و برکت، اور عند اللہ جائز و مشروع و مستحب ہے۔ حدیث بالا کی نہی کے تحت داخل نہیں اور وہابیہ کا اس پر اعتراض، وہ ان کی جبلت کے عین مطابق

ہے۔ ۱۲

وہابیہ کے مورث اعلیٰ ابن تیمیہ

نے یہ ظلم کیا کہ کھلے الفاظ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے قصد و نیت سے سفر کو گناہ و معصیت ٹھہرا کر، امت مسلمہ میں نیا فتنہ کھڑا کر دیا۔ نتیجہ اسے شعبان ۷۲۶ھ میں دمشق کے قلعہ میں قید کر دیا گیا۔ اور قیدی کی حالت میں ۷۲۸ھ کو اس دنیا سے سدھارا۔ اس کی نسبت خاتم المحدثین علامہ شیخ احمد شہاب الدین بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ حدیثیہ میں بہت کچھ تخریب فرمایا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ ایک بندہ ہے جسے ہڈانے رسوا کیا۔ گمراہ کیا۔ اندھا کیا۔ بہرا کیا اور ذلیل کیا۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح کی۔ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہ بدعتی گمراہ، گمراہ کن، اور غالی قسم کا جاہل ہے۔ اللہ اس کے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ کرے اور ہمیں اس جیسے اور دوسروں کے عقیدے، طریقے اور عمل سے بچائے۔ آمین۔

وہابیہ ان مسائل میں اسی کے خوشہ چین اور اسی کے زیرہ خوار ہیں۔ جو اُس نے اُگلا۔ ان لوگوں نے اُسے تبرک بطور نگلا۔ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے عقیدوں کو اُس اُویش سے ملوث کرنے کے لیے کہیں آنکھوں دیکھے، اور کہیں پس پردہ، اُن کے دلوں میں لسی ہوئی، زبانوں پر آجاتی ہے۔ مسلمان ہوشیار رہیں۔ ہرگز مرگنے اُس نام سے دھوکا نہ کھائیں۔ جو اُس کا نام، یا اس کی کتاب و تحریر کا حوالہ دے، ہرگز اُس کی بات پر کان نہ لگائیں۔ خبردار خبردار ہوشیار ہوشیار۔ احتیاط، احتیاط۔ اسی میں مسلمانوں کا مہلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔

۶۔ مزاراتِ طیبہ کے قریب مسجد بنانا

اولیائے کرام کی ارواحِ مقدسہ

اپنے مزاراتِ طیبہ کے پاس تشریف فرما رہتی اور حاضرین کو اپنے فیضان سے نوازتی ہیں۔ اس لیے کنارِ قبر میں مسجد بنانا ہرگز ممنوع نہیں۔ بلکہ مزارِ بندہ صالح سے تبرک مقصود ہو تو محمود ہے۔ مجمعِ بجا والا نوار میں ہے کہ "جو کسی نیک بندے کے قرب مزار میں مسجد بنائے۔ یا مقبرہ میں اس ارادہ سے نماز پڑھے کہ میت کی روح سے استمداد کرے۔ اُس کے فیضان سے اپنا دامن مراد بھرے) یا اپنی عبادت کا اثر برکات اُس تک پہنچانا چاہے۔ (یعنی جیکہ اس کی قوت، اموات سے زائد ہے) نہ یہ کہ نماز میں اس کی طرف منہ کرے۔ نہ نماز سے اس کی تعظیم کا قصد رکھے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مزار مبارک خود مسجد الحرام شریف میں حطیم مبارک میں ہے۔ پھر اس میں نماز تمام مساجد سے افضل ہے۔" اور خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا۔ (اصحابِ کہف کی وفات کے بعد اُن کے گرد عمارت بنانے میں) وہ لوگ جو اس کام میں غالب رہے تھے (یعنی بیدروس بادشاہ اور اُس کے ساتھی) بولے قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے (جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ مدارک) اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا،

اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا، اور اس سے منع نہ کرنا، اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

۷۔ اولیاء و صلحاء کے لیے منت ماننا

یاد رکھنا چاہیے کہ غیر خدا کے لیے

نذر فقہی کی ممانعت ہے۔ اولیائے کرام کے لیے ان کی حیاتِ ظاہری، خواہ باطنی میں جو نذریں کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی نہیں۔ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کریں اُسے نذر کہتے ہیں۔ بادشاہ نے دربار کیا اُسے نذریں گزریں، اسی محاورہ میں ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذر میں لکھتے ہیں: "نذریکہ اینجامِ مستعمل می شود نہ بر معنی شرعی است۔ چہ عرف آنست کہ انجہ پیش بزرگان می برند، نذرو نیازی نامند۔"

امام اجل سیدی عبدالعزیز نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندویہ میں فرماتے ہیں

ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بصرائح الاولياء والصالحين والنذر لهم، بتعليق ذلك على حصول شفاء و قدوم غائب. فانها مجاز عن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكاة يفقرو سماها قرضاً، صح لان العبرة بالمعنى لا باللفظ۔

یعنی اسی قبیل سے ہے زیارتِ قبور، اور مزاراتِ اولیاء و صلحاء سے برکت لینا، اور بیمار کی شفاء، یا مسافر کے آنے پر، اولیائے گزشتہ کے لیے منت ماننا، کہ وہ ان کے خادمانِ قبور پر تصدق سے مجاز ہے (کہ اگرچہ نام ہے نذر و منت کا، مگر اس سے مراد ان کی معنی مجازی ہیں۔ یعنی خدامِ درگاہ پر تصدق) جیسے فقہاء نے فرمایا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دے (دل میں یہی نیت رکھے) اور زبان سے قرص کا نام لے تو صحیح ہو جائے گی کہ اعتبار معنی مراد کا ہے نہ کہ لفظ کا۔"

ظاہر ہے کہ یہ نذر فقہی ہوتی تو احوال (زندوں) کے لیے بھی نہ ہو سکتی۔ حالانکہ دونوں حالتوں میں یہ عرف و عمل، قدیم سے اکابر دین میں معمول و مستبول ہے۔

بہجتہ الاسرار شریف میں محدثانہ اسانید صحیحہ معتبرہ سے اس باب میں نفیس اقوال اور کرامات و احوال منقول۔ جن سے ثابت کہ حضرات اولیائے کاملین کی زیارت کے لیے دوسرے اولیاء و علماء اور عامۃ المسلمین، حاضر آتے تو ان کی خدمات میں تدریس لاتے۔ بلکہ واقعات سے آپ نے ثابت کیا کہ حضور پُر نور سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدریس قبول فرماتے اور ان میں سے بذاتِ اقدس بھی تناول فرماتے۔ اگر یہ نذر فقہی ہوتی تو حضور کو اجدہ ساداتِ عظام سے ہیں۔ اس سے تناول فرمانا کیوں کر ممکن تھا۔ اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ نذر اولیاء کو ماہلہ بہ لغیر اللہ میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایسا ہوتا تو امہ دین کیونکر اُسے قبول فرماتے اور کھاتے کھلاتے۔ ۱۲

انتباہ ضروری

مسجد میں چراغ جلانے، یا طاق بھرنے، یا کسی بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے، یا گیارہویں کی نیاز دلانے، یا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ کرنے، یا حضرت جلال بخاری کا کونڈا بھرنے، یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے، یا میلاد کرنے کی منت مانی، جیسا کہ عموماً عورتوں میں مروج و معمول ہے، یہ منت، شرعی منت یا نذر فقہی نہیں۔ نہ ایسی منتوں کا خصوصاً اسی صورت معینہ میں پورا کرنا لازم و واجب۔ مگر یہ کام بذاتِ خود ممنوع بھی نہیں کرے تو اچھا ہے۔ بلکہ اسی میں بہتری و بھلائی۔ مبادا کہ کوئی حالتِ مکروہہ ناپسندیدہ بقضائے الہی درپیش آجائے اور لوگ کہیں کہ فلاں کام ہم نے نہیں کیا، اس لیے یہ سزا پائی اور یہ صورت ناپسندیدہ سامنے آئی۔ حالانکہ سب کچھ بتقدیر الہی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔

ہاں البتہ اس کا خیال رکھیں کہ کوئی بات، خلاف شرع اُس کے ساتھ نہ ملائیں۔ مثلاً طاق بھرتے میں رت جگا ہوتا ہے جس میں کنبہ کی اور رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر ڈھول پیٹتی، صاؤ ہو کی محفل جماتی اور گاتی بجاتی ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یا چادر چڑھانے کے لیے بعض لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ یا مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ جلاتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ مال ضائع کرنا ہے۔ اور ناجائز ہے۔ مٹی کا چراغ کافی ہے۔ اور گھی کی بھی ضرورت نہیں۔ مقصود روشنی ہے۔ وہ تیل سے حاصل۔ یوہیں میلا و شریف میں عورتیں باواز بلند نعت خوانی کرتی ہیں اور ان کی آوازیں، گھر سے باہر غیروں کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ اس کی بھی مناسب طریقے پر روک تھام کی جائے۔ الغرض ان جائز کاموں میں، ناجائز کاموں کو خلط ملط کر کے انہیں ناپسندیدہ و ناجائز امور کا ملغوبہ نہ بنائیں کہ بجائے ثواب اُلٹے گناہ میں بلوث ہو جائیں۔ (بہار شریعت وغیرہ)

۸۔ مزاراتِ اولیائے کرام پر عمارت کی بنا و تعمیر علماء و سادات

کی قبور پر قبۃ وغیرہ بنانا بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ دلیل و نشانِ تعظیم ہے۔ اور اہل اللہ کی تعظیم، دلیلِ ایمان و موجبِ رضا ہے جیسا کہ اوپر گذرا۔ نظیر اس کی مسجدوں کی عالی شان عمارتیں بنانا اور ان کی زیبائش و آرائش ہے۔ حالانکہ احادیث سے مستنبط کہ مسجدوں کی آرائش مکرمہ ہے کہ نمازی کا خیال بٹے گا۔ یا اس لیے کہ مال بیجا خرچ ہوگا۔ یوہیں مساجد کے لیے کنگرے بنانا کہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پر اطلاع کا سبب ہیں اگرچہ صدر اول میں نہ تھے۔ مگر لوگوں میں جیسے جیسے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی گئیں ویسے ہی ان کے لیے فتوے نئے ہوئے۔ کہ اب مسلمانوں کا فروں، سب نے اپنے گھروں کی گچ کاری اور آرائش اور بلند سے بلند تر تعمیریں شروع کر دیں، اگر ہم ان بلند بلند عمارتوں کے درمیان، جو مسلمین تو مسلمین، کافروں کا بھی ہوں گی۔ کچی اینٹ اور نیچی دیواروں کی مسجدیں بنائیں، یا انہیں منڈھی بنائیں،

ان میں کنگرے نہ رکھیں، یا اُونچے مینار نہ اُٹھائیں تو غیر مسلموں کی نظروں میں خصوصاً ان کی بے وقعتی ہوگی۔ اور مسجدوں کی بے وقعتی، اسلام و مسلمین کی بے وقعتی، بے قدری کے مترادف ہے اور یہ شرع مطہرہ کو ہرگز پسند نہیں۔

مزاراتِ اولیا کرام و علمائے عظام قدسُتِ اسرارِ ہم پر عمارات کی بنا و تعمیر حالانکہ حدیث صحیح میں صراحتاً اس کی ممانعت ارشاد ہوئی، مگر اسی دلیلِ تعظیم اور نشانِ ادب کے پیش نظر سلفاً و خلفاً ائمہ کرام و علمائے اعلام نے جائز رکھی اور اب بلا نیکر مسلمانوں میں رائج ہے اور "مادۃ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن۔"

میں داخل مجمع بجاہ الاوار جلد ثالث میں ہے۔ قد اباح السلفُ البناء علی قبور

الفضلاء الاولیاء والعلما لیزورہم الناس و یسترحیون فیہ۔

یعنی بے شک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء و علماء کے مزارات پر عمارت بنانا

مباح فرما دیا۔ کہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس میں راحت پائیں۔ جو اہر اغلاطی

میں ہے ہو وان کان احد انا فهو بدعت حسنہ و کم من شیء کان

احداً و هو بدعت حسنہ و کم من شیء یختلف باختلاف الزمان

والمکان۔ یعنی یہ اگرچہ نو پیدا ہے پھر بھی بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں

ہیں کہ نئی پیدا ہوئیں اور ہیں اچھی بدعت۔ اور بہت احکام ہیں کہ زمانہ یا مقام کی

تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایسی جگہ احکام سابقہ سے کہنا لانا حماقت ہے۔

جو حاجت اب واقع ہوئی، اگر زمانہ سلف میں واقع ہوتی تو وہ بھی یہی حکم کرتے

جو ہم کرتے ہیں اس وقت۔ جیسے ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے، جو باتیں عورتوں نے

اب نکالی ہیں تو انہیں مسجدوں سے منع فرما دیتے۔ جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع

کی گئیں۔ اور آخر ائمہ دین نے عورتوں کو مسجدوں سے منع فرما ہی دیا۔ حالانکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی باندیوں کو، مسجدوں سے منع نہ کرو۔ (مسلم)

کیا ائمہ دین نے نظر بہ حال زمانہ، جو حکم فرمایا، اسے حدیث کی مخالفت کہا جائے گا۔

حاشی اللہ ایسا نہ کہے گا۔ مگر احمق کم فہم۔ کج برائے کج روار

یوہیں یہ تازہ تعظیموں کے احکام ہیں۔ سلف صالح کے قلوب تعظیم شعائر اللہ سے مملو و لبریز تھے۔ ظاہری تزک و احتشام کے محتاج نہ تھے۔ تو ان کے وقت میں یہ باتیں عبث و بے فائدہ تھیں۔ اور ہر عبث مکروہ۔ اور اس میں مال صرف کرنا ممنوع۔ اب کہ بے تزک و احتشام ظاہری قلوب عوام میں وقعت نہیں آتی۔ ان باتوں کی حاجت ہوئی۔ مصحف شریف پر سونا چڑھانے کی اجازت ہوئی۔ مسجدوں میں سونے کے کلس، سونے چاندی کے نقش و نگار کی اجازت ہوئی۔ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے، غلاف ڈالنے، روشنی کرنے کی اجازت ہوئی۔ اور اسی بنیاد پر ان کے مزارات طیبہ پر قبہ بنانے کی اجازت ہوئی۔ ان تمام افعال پر بھی احادیث و احکام سابقہ نہ پیش کرے گا مگر سفیہ نا فہم۔

پھر ان عمارات کی تعمیر سے مقصود، خشیت و گل (اینٹوں اور مٹی) کی تعظیم حاشا و کلا ہرگز نہیں۔ بلکہ روح محبوب کی تعظیم مقصود ہے جو بلاشبہ محمود ہے اور اعمال کا مدار نیت پر ہے۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبد العزیز نابلسی قدسنا اللہ بسیرہ القدسی اپنی بے نظیر کتاب مستطاب حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد دوم میں صاف ارشاد فرما چکے تعظیماً لروحہ المشرقة علی مراتب جسدہ الخ یعنی مزارات اولیاء کرام پر شمعیں روشن کرنا، ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے ہے جو اپنے بدن کی خاک پر ایسی تجلی ڈال رہی ہیں جیسے آفتاب زمین پر۔ تاکہ اس روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار ہے تو اس سے تبرک کریں اور وہاں اللہ عزوجل سے دُعا مانگیں کہ ان کی دُعا مقبول ہو۔

گویا آپ نے اپنے نورِ باطن سے ادراک فرمایا تھا کہ بعض کم فہموں کو یہ شبہات عارض ہوں گے۔ سب کا جواب ان دو لفظوں میں دے دیا کہ تعظیماً لروحہ۔ کہ مقصود روح محبوب کی تعظیم ہے نہ کہ خشیت و گل کی۔ اور اس تعظیم کو عبادت قرار دینا اور ہر تقریب

تعب و بندگی ٹھہرانا، ہزار ہا بندگانِ صالحین و اہل اللہ کو شرک و کفر سے ملوث کرنا، اور مسلمانوں پر صریح ظلم، سخت بدگمانی اور شدید افتراء ہے۔ اور ایسی سخت بدگمانی پھر اُس پر جزم و یقین، ایہ خاصہ ہے وہابیہ کا۔ مولیٰ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ۱۲

۹۔ زیارتِ تبرکات

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفیہ کی تعظیم، دینِ مسلمان کا فرضِ عظیم ہے۔ اور تو اتر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کوئی علاقہ، بدنِ اقدس سے چھونے کا ہوتا، صحابہ و تابعین و ائمہ دین، ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اُس سے طلبِ برکت فرماتے آئے۔ اور دینِ حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی۔ کہ اس کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں۔ بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامِ پاک سے مشہور ہو، اُس کی تعظیم شعائرِ دین سے ہے۔ اور اس تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے۔ نہ کوئی خاص سند۔ بلکہ صرف نامِ پاک سے اُس شے کا مشہور و مشہر ہونا کافی ہے۔ ایسی جگہ، کسی یقین و سند کے ادراک کے بغیر، تعظیم سے باز نہ رہے گا۔ مگر بیمار دل، پرہیزگار دل، جس میں نہ عظمتِ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وجہ کافی موجود۔ نہ اُس کا ایمان کامل۔ اور جہاں سند و یقین موجود ہو، پھر تو تعظیم و اعزاز و تکریم سے باز نہیں رہ سکتا، مگر کوئی کھلا کافر۔ یا چھپا منافق۔

یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تبرک اور حصولِ برکاتِ زمانہ اقدس حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک بلا نیکیر رائج و معمول اور باجماعِ مسلمین مندوب و محبوب ہے۔ اور پرہیزگار کہ اولیاء کرام و علمائے اعلام، حضور کے ورثا ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ کہ آخر وارثِ برکات بھی ہیں اور وارثِ ایراثِ برکات بھی۔ کہ ان کے طفیل، ان کے صدقہ برکات آتی اور بلیات جاتی ہیں۔

تابوتِ سکینہ کا ذکر قرآنِ عظیم میں ہے۔ جس سے روشن ہے کہ بزرگان کے

تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول اور حاجتیں روا ہوتی ہیں۔ اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا موجب ہے۔

(بدرالانوار وغیرہ) ۱۲

۱۰۔ غسل مزارات غسل مزارات کے جواز کے لیے اتنی ہی سند کافی کہ

خانہ کعبہ کا غسل آج بھی ان ہاتھوں کے ذریعے جائز ہے جنہیں شعائر اللہ کی تعظیم، خصوصاً اولیاء اللہ کی تکریم، محبوبانِ حق کی توقیر سے چڑھتا ہے۔ ۱۲

تنبیہ حلیل

وہابیہ کی نگاہ میں قبورِ مسلمین، بلکہ خاص مزاراتِ اولیائے کرام علیہم الرضوان ہی کی کچھ قدر نہیں۔ بلکہ حتیٰ الوسع ان کی توہین چاہتے ہیں۔ اور جس جیلے سے قابو چلے، انہیں نیست و نابود و پامال کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان مرا اور پتھر ہوا۔ جیسے وہ خود اپنی حیات میں ہیں کہ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئاً۔ حالانکہ شرع مطہر میں مزاراتِ اولیاء تو مزاراتِ اولیاء عام قبورِ مسلمین مستحق تکریم و ممتنع التوہین ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر پاؤں رکھنا گناہ ہے کہ سَقَفِ قَبْرِ مَحْبِبٍ حَقِّ مِیْتٍ هُوَ۔ قَنِیہ میں امام علائے ترجمانی سے ہے یَا ثَمُوبُوطَ الْقُبُورِ لِأَنَّ سَقْفَ الْقَبْرِ حَقُّ الْمِیْتِ۔

حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نعلین پاک کی خاک، اگر مسلمان کی قبر پر پڑ جائے، تمام قبر، جنت کے مشک و عنبر سے مہک اُٹھے۔ اگر مسلمان کے سینے اور مونہ اور سر اور آنکھوں پر اپنا قدم اکرم رکھیں، اس کی لذت و نعمت و

راحت و برکت میں ابدالآباد تک سرشار و سر فراز رہے، وہ فرماتے ہیں کہ "بے شک چنگاری یا تلوار پہ چلنا، یا جوتا پاؤں سے گاتھنا، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔" (ابن ماجہ) اور وہابیہ کو اس کی فکرت ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی قبروں پر مکان بنیں۔ لوگ چلیں پھریں۔ قضائے حاجت کریں۔ بھنگلی اپنے ٹوکے لے لے کر چلیں۔

اگر اس سے پسند تو نصیبت باوا۔

علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت، مردہ زندہ برابر ہے۔ (فتح القدیر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کی ہڈی توڑنا، اور اُسے ایذا پہنچانا، ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "مسلمان مردے کو

ایذا دینا، ایسا ہے جیسے زندہ کو۔" (ابوبکر بن ابی شیبہ)

علماء فرماتے ہیں: "جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے، مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں۔" یہاں تک کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ قبرستان میں جو نیاراستہ نکالا گیا ہو، اُس میں آدمیوں کو چلنا حرام ہے (ردالمحتار وغیرہ) اور فرماتے ہیں "مقبرے کی سبز گھاس کاٹنا مکروہ ہے۔ کہ جب تک وہ تر رہتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس سے انوات کا دل بہلتا ہے اور ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں خشک گھاس کاٹنا جائز ہے۔ مگر وہاں سے تراش کر، جانوروں کے پاس لے جائیں یہ ممنوع ہے۔ کہ انھیں گورستان میں چرنے چھوڑ دیں۔" (ردالمحتار عالمگیری)

انہیں سے اور انہیں جیسی دوسری احادیث سے ہمارے علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے بے ضرورت قبر پر چلنے، اور اُس پر بیٹھنے اور پاؤں رکھنے سے منع فرمایا۔ کہ یہ سب حرمت مومن کے خلاف ہے اور ترک ادب و گستاخی ہے۔ اور ضرورت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً قبرستان میں، میت کے لیے قبر کھودنے، یا دفن کرنے جانا چاہتے ہیں۔ بیچ میں قبریں حائل ہیں۔ اس حاجت کے لیے اجازت ہے۔ پھر بھی جہاں تک

بن پڑے بچتے ہوئے جائیں۔ اور ننگے پاؤں ہوں اور اموات کے لیے دُعا و استغفار کرتے جائیں۔

امام علامہ محقق علی الاطلاق، اُن لوگوں پر اعتراض فرماتے ہیں، جن کے اعزہ و اقارب کے گرد مخلوق دفن ہے اور وہ اُن کی قبروں کو روندتے ہوئے، اپنے عزیزوں کی گورت تک جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کنارہ گورستان سے زیارت اور دُعا کر لیں۔ اور ان کی قبروں کے قریب نہ جائیں۔ (فتح القدیر)


غرض علمائے کرام کی تصریحات سے یہ مسئلہ مثل آفتاب روشن ہے۔ کہ قبور مومنین اہلسنت کو ٹوڑ کر، بلکہ ان کو کھود کر، اُن پر اپنی رہائش و آسائش کے مکان بنا کر، ان میں لذات دنیا میں مشغول و منہمک ہونا، قطعاً یقیناً اصحاب قبور کو ایذا دینا، اور اُن کی اہانت و توہین کرنا ہے۔ جو کسی طرح جائز نہیں۔ اہلسنت کے نزدیک انبیاء و شہداء و اولیاء علیہم التحیۃ و الثناء، اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کے ابدان لطیفہ، زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ اُن کو کھاوے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمۃ و الثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں۔ وہ حضرات روزی و رزق دئے جاتے ہیں۔

اور بعض عامہ مومنین اور لبقیہ اموات کے ابدان، جو سلامت نہ رہتے ہوں، تاہم ان کی قبور پر بیٹھنے، بلکہ ان پر تکیہ لگانے اور قبرستان میں جوتوں کی آواز کرنے سے اُن کو ایذا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قدرے ابھی مذکور ہوا۔ اور اظہر من الشمس ہے کہ قبور کو کھود کر، اُن پر رہنے کا مکان بنانا، تو چلنا پھرنا بیٹھنا لیٹنا، قبور کو پاؤں سے روندنا، اُن پر پاخانہ پیشاب جماع سب ہی کچھ ہوگا اور کوئی دقیقہ بے حیائی اور اموات مسلمین کی ایذا رسانی کا باقی نہ رہے گا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین،

علماء فرماتے ہیں جہاں چالیس مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مقابر مسلمین میں صد ہا مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں تو بالضرورتہ ان میں بندگان مقبول بھی ہوں گے تو مقابر مسلمین کھود کر اُن پر رہائش

کی گستاخیاں عوام مومنین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضرات اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہونگی۔ اور اشد و اعظم مصیبت اُس کی جو اولیاء کی جناب میں گستاخ ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی باندھے تو بے شک میں نے اُس سے لڑائی کا اعلان کر دیا۔

ان جملہ مسائل کی تفصیل کے لیے دیکھیں احکام شریعت اور دوسرے رسائل امام اہلسنت قدس سرہ (۱۲ محمد خلیل عفی عنہ



پوچھا مسئلہ • نداء غیر اللہ

اس میں تحقیق یہ ہے کہ نداء سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق، کبھی تحسّر، کبھی منادی کو منانا، کبھی اس کو پیغام پہنچانا۔ سو مخلوق غائب کو پکارنا اگر محض واسطے تذکرہ اور شوق وصال اور حسرتِ فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتے ہیں۔ اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ مجنوں کا قصہ، مثنوی میں مذکور ہے۔ اشعار:-

دید مجنوں را کہ صحرانورد	در بیابان غمش بنشسته فرد
رگ یک کاغذ بود، انگشتان قلم	می نمودے بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنوں نشید اہلیست این	می نویسی نامہ بہر کیست این
گفت ہنسی نام لیلا می کنم	خاطر خود راستی می دہم

ایسی نداء صحابہ سے بجزرت روایات میں منقول ہیں۔ کمال الخفی
علی المتبحر المتسع النظر۔

۱۵۔ یہاں فقیر بقدر ضرورت چند احادیثِ کریمہ کے ذکر پر اکتفا کرتا ہے۔
را، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو دعوتِ تعلیم فرمائی کہ بعد نمازیوں
کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمٰتِ ط
یا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تُوْجِّہُ بِکَ اِلَیَّ الرَّحْمٰتِ فِی حَاجَتِیْ هٰذِہٖ لِتَقْضِیَ لِیْ۔ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْہُ
فِیَّ۔ الہی میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے۔ کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سے، اپنے رب کی طرف، اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ (نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہم)

اور اگر صحابہ کرام کا شوقِ وصال، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی، اسمِ گرامی کی چاشنی کی لذتوں میں ان کا استغراق، اور اس شیریں دہن، شیریں بیان، شیریں سخن، شیریں زبان کے تصور میں، ان جاں نثار عشاق کے اہٹاک کا نظارہ کرنا ہو تو دیکھئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا۔ کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے۔ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے باواز بلند کہا یا محمدؐ۔ فوراً پاؤں کھل گیا۔ (بخاری فی الادب المفرد۔ وغیرہ)۔

انام نوومی شارح صحیح مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار میں اس کا مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا کہ ان کا بھی پاؤں سویا تو یا محمدؐ راہ کہا۔ اچھا ہو گیا۔ "اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا، اوروں سے بھی مروی ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدؐ راہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ امام مجتہد فقیر اجل عبد الرحمن ہذلی کو فی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں۔ سر پر بلند ٹوپی رکھتے جس پر لکھا تھا۔ محمدؐ یا منصور۔ اور ظاہر ہے کہ القلم احدی اللسانین (قلم بھی ایک زبان ہے)۔

فائدہ نفیسہ

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے کے عمدہ دلائل سے التحیات ہے جسے ہر نماز ہی نماز کی دو رکعت میں پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام سے ہے عرض کرتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ سلام

حضور پر اے نبی - اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں - "اگر نذا معاذ اللہ شرک ہے تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

اور یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسی ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے۔ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نذا۔ حاشا وکلا! شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں۔ نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے کہ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ سے حمد الہی کا قصد رکھے۔ اور السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر اے نبی - اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے لَا بُدَّ أَنْ يَقْصَدَ بِالْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيَهَا الَّتِي وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللَّهُ تَعَالَى وَسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى - اسی طرح تنویر الابصار اور اس کی شرح درمختار میں ہے - اسی طرح علامہ حسن شرنبلالی مرافی الفلاح شرح نور الايضاح میں، اور بہت علمائے اپنی اپنی تصانیف میں اس مضمون کی تصریح فرمائی۔ اور جب کلمات تشہد سے ان کے معنی کا قصد اور انشاء ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذا کہنا ایسا جائز ثابت ہوا کہ نماز میں واجب ہے۔

مسلمانو! اب ان سے کہو کہ اپنے شریکوں کو جمع کریں اور قہروالے عرش کے مالک سے لڑائی لیں کہ تو نے کیوں ایسی شریعت جھجھی جس نے نماز کی ہر دو رکعت پر التحیات واجب کی۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا واجب کیا۔

(الوارالانتیاء) ۱۲

محمد خلیل عفی عنہ

اور اگر مخاطب کو اسماع رسنانا مقصود ہے تو اگر تصفیہ باطن سے
 منادی کا مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز، اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن
 سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اُس کو خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت
 بالدلیل ہو، تب بھی جائز ہے۔ مثلاً ملٹکہ کا درود شریف حضور اقدس
 میں پہنچانا، احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص
 الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے، کچھ مضائقہ نہیں۔

۸۶ اور یہ عذر یہاں نہ گنہنا چاہیے کہ صلوٰۃ و سلام پہنچانے پر ملٹکہ مقرر ہیں تو
 ان میں نذا جائز۔ اور ان کے ماوراء میں نذا جائز۔ یہ جہالت ہے اور بڑی بد مزہ
 جہالت۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت
 کے تمام اقوال و افعال و اعمال و احوال، روزانہ دو وقت سرکار عرش و قار حضور
 سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں۔ احادیث کثیرہ میں تصریح ہے
 کہ نہ صرف برزخ میں، پیش از قیامت، بلکہ دنیا ہی میں، امتیوں کے تمام اعمالِ حسنہ
 ہوں یا سیئہ، اچھے ہوں یا بُرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بار عرض
 کئے جاتے ہیں، بہرات کے عمل صبح کو، اور ہر دن کے شام کو، پھر جمعرات سے الوار
 تک کے اعمالِ پیر کو، اور پیر سے بدھ تک کے جمعرات کو۔ پھر ہفتہ بھر کے اعمال
 جمعہ کو۔ اور پھر تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور والدین و اعزہ و
 اقارب، سب پر اعمالِ پیش ہوتے ہیں۔ سند کے لیے اتنا ہی کافی کہ امام اجل
 عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
 راوی کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمالِ امت،
 صبح و شام، پیش نہ کئے جاتے ہوں۔ تو حضور کا اپنے امتیوں کو پہنچانا، ان
 کی علامت اور ان کے اعمال دونوں وجہ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ
 و صحابہ و شرف و کرم۔
 اور ملائکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امتی کا درود و سلام پہنچانا، بہت

احادیثِ کریمہ سے ثابت۔ ازاں جملہ آنکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

۱۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فارغ فرشتے ہیں، جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، میری امت کا سلام، مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ (نسائی دارمی)

۲۔ جو میری قبر النور کے پاس، مجھ پر درود بھیجے، میں بہ نفس نفیس اُسے سُناتا ہوں۔ اور جو مجھ سے دور ہو اور درود بھیجے۔ وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی باتیں سننے اور سنا دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ میرے روضۃ النور کا مجاور ہے۔ تو

جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتا ہے کہ یا بنی اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور

پھر اللہ تعالیٰ اُس پر درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے دس درود۔ (طبرانی نزہۃ المجالس)

مسلمانو! ہزار جانِ گرامی، ایسے وسیلے پر قربان جس کے باعث، جس کے طفیل،

ہم سے روک سبب، ہم سے کسیہ کار، ہم سے آلودہ گناہ، ہم سے گناہگار، پاک نبی کے پاک دربارِ دُرُور میں ذکر کیے جائیں۔

کیوں نہ مر جانے کی حسرت، جانِ بسمل میں لے ہے

میں نہ ہوں اور ذکر میرا، تیری محفل میں رہے

غرض یہ سمجھنا اور عوام کو سمجھانا کہ صلوٰۃ و سلام میں ندا جائز ہے کہ فرشتے اس

کے حضور اقدس میں پہنچانے پر مامور ہیں، اور صلوٰۃ و سلام کے علاوہ دوسرے مواقع پر جائز نہیں کہ بلا دلیل ہے۔

ہم بتا چکے کہ یہ محض جہالت اور بد مزہ جہالت ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تجاہل عارفانہ

ہے۔ جان بوجھ کر حق سے مُکنا، حق سے موٹھ پھیرنا اور حق سے کترانا ہے۔

ابھی اوپر ایک حدیث گزری کہ خود حضور پر نورؐ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے

کب نابینا کو قضاے حاجت کے لیے بعد فراغ نماز چند دعائیہ کلمات تعلیم فرمائے کہ بعد

نماز کہے۔ اور ان کلمات کو صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زمانہ اقدس میں۔ اور حضور کے بعد زمانہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاجت روائی کا ذریعہ بنایا۔ اُس میں کیا تھا؟ یہی ناکہ یا رسول اللہ میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔ اس حدیث میں کہیں درود و سلام کا ذکر نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت جائزہ محمودہ کا اس میں ثبوت ہے۔ اور یہ وہ حدیث شریف ہے کہ صحاح ستہ سے تین صحاح، جامع ترمذی، سنن نسائی، اور ابن ماجہ میں مروی ہے۔ اور اکابر محدثین مثل امام طبرانی و امام بیہقی و ابو عبد اللہ حاکم وغیرہم اُسے صحیح فرماتے آئے۔ اور صحابہ و تابعین میں مقبول اور ان کا معمول یہ رہی۔ اب بھی اگر کوئی عالم نما جاہل، نجدیت و وہابیت کے نشہ کی ترنگ میں، جیسا کہ پانی نمر سے گزار کر، بیدھک یہ کہدے کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی مت ماری گئی ہے۔ کہ اُسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پاس ہے، نہ صحابہ و تابعین کے تعلیم و عمل کا لحاظ۔ اور نہ اکابر حفاظ حدیث کی تصحیح کا خیال۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اور یہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ حدیث شریف صحابہ و تابعین کی معمولہ و مقبولہ صحیح حدیث ہے امام طبرانی کی معجم میں یوں ہے کہ "ایک حاجت مند اپنی حاجت کے لیے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا۔ امیر المؤمنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے۔ اُس نے عثمان بن حنیف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا "وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ۔ پھر دعا مانگ کہ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔" اور اپنی حاجت ذکر کر۔ پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے کہ وہ بھی صحابی یا لا اقل کم از کم، کبار تابعین سے تھے، یوہیں کیا۔ پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے۔

دربان آیا۔ اور ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور لے گیا۔ امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا۔ مطلب پوچھا۔ عرض کیا۔ فوراً روا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اتنے دنوں میں اس وقت تم نے اپنا مطلب بیان کیا۔ پھر فرمایا جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے چل کر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المؤمنین، میری حاجت پر نظر، اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اُن سے میری شفاعت کی۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، میں نے تو تمہارے معاملہ میں امیر المؤمنین سے کچھ نہ کہا۔ مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یوں ہی اُس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر یہ دعا کرے۔ "خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا۔ گویا کبھی اندھانہ تھا۔"

اب مشرک کہنے والوں سے صاف صاف پوچھنا چاہیے کہ عثمان بن حنیف و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر، شاہ ولی اللہ و شاہ عبد العزیز صاحب اور اُن کے اساتذہ و مشائخ تک کہ نذا و استعانت کرتے اور اس کی اجازتیں دیتے آئے۔ سب کو کافر و مشرک کہتے ہو یا نہیں۔ اگر انکار کریں۔ تو الحمد للہ ہدایت پائی اور حق واضح ہو گیا۔ اور بے دھڑک ان سب پر کفر و شرک کا فتویٰ جاری کریں تو اُن سے اتنا کہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت کرے۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو، کسے کہا اور کیا کچھ کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور دل میں جان لیجئے کہ جس مذہب کی بنا پر، صحابہ سے لے کر، اب تک کے اکابر، سب معاذ اللہ مشرک و کافر ٹھہریں وہ مذہب خدا و رسول کو کس قدر دشمن ہوگا۔ صحیح حدیثوں میں آیا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے خود کافر ہے۔ اور نہایت ائمہ دین نے مطلقاً اس پر فتویٰ دیا جس کی تفصیل امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بدایونی قدس سرہ العزیز نے الہی الاکید میں ذکر کی اور فرمایا ہم اگرچہ

بحکم احتیاط تکفیر نہ کریں، تاہم اس قدر میں کلام نہیں کہ ایک گروہ ائمہ کے نزدیک یہ حضرات کہ یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا غوث الثقلین کہنے والے مسلمانوں کو کافرو مشرک کہتے ہیں، خود کافر ہیں تو ان پر لازم کہ نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنی عورتوں سے نکاح جدید کریں۔ درمختار میں ہے۔ ما فیہ خلاف یومر بالاستغفار والتوبۃ وتجدید النکاح - ۱۲ (انوار الانتباہ وغیرہ)

اور اگر نہ مشہور ہو، نہ پیغام پہنچا یا مقصود ہو، نہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ دلیل سے موجود ہو، وہ ندامت منوع ہے۔ مثلاً کسی ولی کو دور سے ندا کرنا، اس طرح کہ اُسے سنانا منظور ہے۔ اور روبرو نہیں۔ نہ ابھی تک اس شخص کو یہ ثابت ہو کہ ان کو کسی ذریعہ سے خبر پہنچے گی، یا ذریعہ متعین کیا۔ مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ یہ اعتقاد افتراء علی اللہ اور دعویٰ علم غیب ہے۔ بلکہ مشابہ شرک کے ہے۔ مگر بے دھڑک اس کو شرک و کفر کہہ دینا، جرأت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس بزرگ کو خبر پہنچا دے ممکن ہے۔ اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں۔ مگر چونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں، اس لیے ایسی ندائے لالیعنی کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو ندائیں نص میں وارد ہے مثلاً یا عباد اللہ اعینونی، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے۔

۸۳ اور ہم کچھ تعالیٰ یہ ثابت کریں گے کہ عامۃ المسلمین، جن کا طبقہ علماء میں شمار نہیں، مگر علمائے اہلسنت کی صحبت سے شرفیاب، ان کے فیضان سے مستفیض اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اولیائے کرام کو اللہ عزوجل نے بہت بڑی قوت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں،

ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیاہ و سپید کے مختار بنا دیئے جاتے ہیں۔ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تصرفات و اختیارات ملتے ہیں۔ تمام خوارقِ عادات اُن سے ممکن ہیں۔ طے ارض یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، اُن کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ وہ اپنی قبور میں حیاتِ ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ قوی ہیں۔ اُن کے افعال و ادراکات جیسے دیکھنا سُننا بولنا سمجھنا آنا جانا چلنا پھرنا، سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اُن کی قوتیں بعد مرگ اور صاف اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حالتِ حیات میں جو کام ان آلاتِ خاکی یعنی آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان سے لیتے تھے، اب بغیر ان کے، ان کی ارواح کرتی ہیں اگرچہ جسمِ مثالی کی یاوری سہی۔ شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں۔ روح راقرب و بعید مکانی یکساں است۔

توجیب اولیاء اللہ کے لیے کسی مقام و مکان کا قریب و بعید ہونا یکساں اور ان کے آلاتِ خاکی، پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ قوی، اور کوئی بندہ مومن، اپنی کسی مشکل میں انہیں ندا کرتا ہے تو کون سا مانع، کون سا حائل ہے جو اس کی آواز، ان تک نہ پہنچنے دے، یا ان کی مدد و نصرت کو، اُس تک نہ آنے دے۔ کیا اس پر کوئی دلیل قطعی شرعی قائم ہے یا یہ عقلاً یا عادتاً محال ہے۔ یا مشرع مطہر نے فرما دیا ہے کہ اب وہ نہ سن سکیں گے۔ اب کسی کے کام نہ آسکیں گے۔ کسی کی مشکل کشائی نہ فرما سکیں گے۔ اور قبر کی مٹی ان کے اور اس کے درمیان ایسی حائل ہے کہ اب اُن کے لیے اس کی آواز سُننی، صورت دیکھنی محال ٹھہری۔ تو کیا ان اللہ علی کُلِّ شئی قَدیر۔ پر بھی ایمان نہیں۔

اور ہاں خطا معاف ایہ کہاں سے ثابت کہ آدمی اسی کام کو اپنے لیے حلال جانے، جس کے بکار آمد ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ باقی کو حرام سمجھے، پھر تو واجب کہ نماز روزہ اور تمام اعمالِ حسنة کو حرام جانے کہ وہ جب تک قبول نہ ہوں، کارآمد نہیں۔ اور اس کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے تمام اعمال، بارگاہِ الہی میں شرف

قبولیت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ لامحالہ کہنا پڑے گا کہ امید ہی کافی ہے اور امید ہی وہ چراغ ہے جس سے منزل کا سراغ ہاتھ آتا ہے۔ تو نذا کرنے والے کو کرم الہی سے ہر وقت یہ توقع و امید رہتی ہے کہ باذن اللہ تعالیٰ یہ حضرات اولیائے الہی کہ محبوبانِ خدا ہیں، اور ان کے ہاتھوں، قدرتِ الہی کا ظہور ہوتا ہے، توجہ خاص فرمائیں گے اور ہماری فریاد سن لیں گے۔

واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے

اتنا تو ہو کوئی جو آہ کمرے دل سے!

اور اگر کہے کہ اولیائے کرام کے ادراکات کا، بعد وصال، اور زیادہ قوی ہو جاتا تو ہمیں مسلم۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس نذا کرنے والے کی سن لیں۔ یوں ان کے افعال کا قوی تر ہو جانا ہمیں تسلیم، لیکن یہ کہاں سے ثابت کہ وہ اس حالت میں خاص اس نذا کرنے والے کی آواز بھی توجہ سے سن رہے ہیں اور اس کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ "تو جو باپ ہی کہا جائے گا کہ اگرچہ ان کا سننا اور اس کی فریاد رسی کرنا، ان کے ادراکات کے زائد و قوی ہو جانے کو لازم نہیں، مگر یہ بھی تو لازم نہیں کہ وہ نہ سنیں اور اس کی حاجت روائی نہ فرمائیں۔ تو دونوں ہی صورتیں محتمل رہیں۔ پھر آپ نے ایک امر محتمل پر، کفر و شرک کا جزئی حکم کیونکر لگا دیا۔ کیا قرآن حکیم کی کسی آیت کریمہ سے مستفاد ہوا۔ یا حدیث شریف میں یہ حکم حمی آیا۔ جب کہ شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں دن کو نعمتِ الہی مٹھا کر، اس کے منافع و فوائد میں لکھتے ہیں کہ

"از اولیائے مدفونین انتفاع و استفادہ جاری ست۔"

یعنی اولیائے کرام جو زیر زمین دفن ہیں ان سے انتفاع اور استفادہ جاری ہے۔ یہاں لفظ "جاری ست" پر نظر رکھیں کہ اس سے مراد نہیں مگر مسلمانوں میں جاری ہونا۔ اور جو مسلمانوں میں جاری ہو، ہرگز شرک نہیں۔ کہ جن میں شرک جاری ہوا ہرگز مسلمان نہیں۔

الغرض اولیائے کرام کی کرامتیں، اپنے متوسلین پر ان کی مرحمتیں، اور ان کے

تصرفات و برکات بعد وصال بھی بدستور باقی رہتے ہیں۔ برنزخ میں بھی اُن کے فیوض جاری، اور غلاموں کے ساتھ وہی شان امداد و یاری، باقی رہتا ہے۔ اولیائے کرام سے استمداد و التجا، اور اپنے مطالب میں طلبِ دعا، اور حاجت کے وقت اُن کی نذا، جائز و روا ہونے کے باب میں فقیر اتنی بات اور عرض کرتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے "انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ" سے روشن کہ شاہ صاحبِ طالا مناقب اور ان کے اساتذہ، جو اہرِ خمسہ تصنیف حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمۃ الباری اور خاص دعائے سیفی کی اجازتیں لیتے اور اپنے مریدین کو اجازت دیتے آئے۔ اسی جو اہرِ خمسہ کی سیفی میں وہ جو اہر دارِ سیفِ خوِ نخوار موجود ہے جسے دیکھ کر وہا بیتِ بیچاری "سخت مصیبت میں گرفتار اور اپنا خون دینے پر تیار ہے۔ وہ کیا۔ نادِ علی۔ جو اہرِ خمسہ میں ترکیبِ دعائی سیفی میں فرمایا۔

" نادِ علی ہفت بار یا سہ بار، یا یک بار بخواند و آں نیست

نادِ علیاً مظهر العجائب تجدہ عوناً فی النوائب

کل ہم و عمّ سینجلی بولادیتک یا علی یا علی یا علی

یعنی پکار علی المرتضیٰ کو کہ مظهرِ عجائب ہیں۔ تو انہیں اپنا مددگار پائے گا مصیبتوں میں۔ سب پریشانی و غم اب دور ہوئے جاتے ہیں۔ حضور کی ولایت سے۔ یا علی یا علی یا علی اگر مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگامِ غم و تکلیف اس جناب کو نذا کرنا۔ یا علی یا علی یا علی کا دم بھرنا، شرک ہو تو معاذ اللہ، منکروں کے نزدیک، حضرات مذکورین سب کفار و مشرکین ٹھہریں۔ اور سب سے بڑھ کر مہارہی مُشرک، کٹر کافر، عیاذ باللہ، شاہ ولی اللہ صاحب ہوں۔ جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے۔ اپنا شیخ و مرشد و مرجح سلسلہ مانتے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں اُن سے لیتے، مدتوں ان کی خدمت گاری و کفش برداری کی داد دیتے۔ انھیں شیخِ ثقہ عادل بتاتے اور ان کی ملاقات کو بلفظ دست بوسی تعبیر فرماتے ہیں تو محدثی کا تمغہ، حدیث کی سندیں، یوں ہی برباد ہوئیں کہ اتنے مشرکین

اُن میں داخل ہیں۔ والعیاذ باللہ رب العلمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
مسلمان دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو مذاکرے، یا علی یا علی یا علی کہنے کو مشرک
ٹھہرانے کی، ان منکروں کو کیا سزا ملی۔ نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے۔ نہ اگلوں
پچھلوں کے مشرک بننے کی یہ مصیبت سہتے۔ اس سے یہی بہتر کہ راہِ راست پر آئیں
سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں۔

دیدمی کہ خونِ ناحق پر واندہ شمع را

چنداں اماں نہ داد کہ شب را سحر کند

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْعَاقِبَةِ آمِينَ۔

ہاں ہمارا مقصود اس کلام سے عوام اہلسنت کو بیدار کرنا ہے کہ بھائیو اب
بھی وضوعِ حق میں کچھ کسر باقی ہے۔ جس نا عہد مذہب، ناپاک مشرب کی رو سے
صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و علمائے دین و اولیائے کاملین، قرونِ ثلاثہ سے
لے کر آج تک سب کے سب معاذ اللہ مشرک کافر، بدعتی خاصر ٹھہریں، ظاہر ہے
کہ وہ طائفہ کیسا ہوگا۔ اور اُسے سنت و جماعت سے کتنا علاقہ ہوگا۔ سبحان اللہ
سنتِ جماعت کو مشرک بنائیں۔ جماعتِ سنت کو مشرک ٹھہرائیں، پھر سنتی ہونے
کا گیت گائیں۔ خود کو سوادِ اعظم اہلسنت کہیں اور کہلائیں اور اپنی گمراہی کو یوں چھپائیں
گویا تلی کا

۸۴۔ ہم قارئین پر واضح کر چکے یہ بات کہ عامۃ المسلمین کی نذا بھی عبت کی حامل و
بے مقصد نہیں ہوتی۔ کم از کم ہر مذاکرے والے کے دل میں امید و توقع کا ذیادہ روشن
ہوتا ہے کہ ہماری فریادِ باذنہ تعالیٰ ان تک پہنچے گی۔ اور بعونہ تعالیٰ جلد یا بدیر وہ ہماری
حاجت روائی، مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اس کی ظاہر مثال یہ ہے کہ عام سائل
گدا اگر جن دروازوں پر جا کر سوال کرتے ہیں، وہ ہر وقت فراخ دست، آمادہ سخا، اور
منتظر سوال و نذا نہیں ہوتے کہ کوئی دستِ سوال دراز کرے اور یہ عطا کریں، کوئی دامن
چھیلانے اور یہ اُس کا دامن گوہر مراد سے بھریں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے خود سائل

بھی واقف ہوتے ہیں۔ پھر کون سی چیز ہے جو انہیں کشاں کشاں، محلہ محلہ، گھر گھر لے جاتی اور آمادہ سوال کرتی ہے۔ بلکہ سچ پوچھتے تو تزکیہ نفس کی خاطر، بہت اکابر اولیاء نے وقت حاجت اس پر اقدام فرمایا ہے۔ اور کتب فقہیہ شاہد عادل ہیں کہ بعض صورتوں میں علمائے کرام نے سوال فرض فرمایا ہے۔ غرض کہنا یہ ہے کہ اس یقین کے باوجود کہ ہمیں ہر گھر سے بقدر حاجت مل جانا یقینی نہیں صرف ایک امید اور ایک توقع ہوتی ہے۔ جو انہیں اس اقدام پر آمادہ کرتی اور سوال پر ابھارتی ہے۔ یوں ہی ایک عام مسلمان بوقت حاجت، کسی ولی کامل کو پکارتا ہے تو اس امید و توقع پر، کہ اگر خود سن کر توجہ فرمائی۔ یا کارکنان قدرت نے ان تک میری فریاد پہنچائی، تو کیا عجب کہ التفات خاص فرمائیں اور دستگیری فرما کر ساحل مراد تک پہنچائیں۔ یہی ما حاصل ہے اس مشہور شعر کا کہ

آنانکہ خاک را بہ نظر کمیما کنند

آیا بود کہ گوشہ چشمی بہ ما کنند

تو اب اس "لا یعنی" ندا کی نسبت اگر ہو سکتی ہے تو صرف ایسے مسلمانوں کی نہ طبقہ علماء میں شمار ہوتے ہیں نہ مسائل علمیہ کا ذوق رکھتے ہیں۔ نہ علماء کی صحبت و خدمت گزارا سے شرفیاب ہیں۔ نہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تفصیل سے آگاہ ہیں اور نہ فرائض و ارکان اسلام سے واقف۔ صرف اجمالاً یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے سب حق ہے۔ اور ایسے مسلمان نہیں مگر وہی جو کوردہ اور جنگل اور دروازہ پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے مسلمانوں کے کسی فعل کو بنیاد بنا کر عامۃ المسلمین کی جانب کسی فعل کی نسبت کیونکر جائز قرار دی جا سکتی ہے چہ جائیکہ انہیں کفر و شرک کی آلائشوں میں ملوث کرنے کے لیے ہر حیلے بہانے اپنی کوششوں میں مصروف رہنا۔ اسی لیے شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اسے "لا یعنی ندا" فرمایا۔ اور اسے کفر و شرک کہہ دینے کو اجرات و بیباکی فرمایا۔ ۱۲

۱۵ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ "جب تم میں سے کسی

کی کوئی چیز کم نہ ہو جائے یا راہِ مجھو لے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہم و ہم نہیں، تو اُسے چاہیے کہ یوں پکارے یا عباداً اللہ اعینونی۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ (رواہ الطبرانی) دوسری حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے۔ "اے اللہ کے بندو! روک دو۔ (ابن السنی)

اور ایک اور حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ندا کرے مدد کرو اے اللہ کے بندو۔ (ابن ابی شیبہ) یہ حدیثیں کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت فرمائیں، قدیم سے اکابرِ علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و معمول و محترَب ہیں۔ اور ایسے ہی مضامین پر مشتمل بہت احادیث مروی ہیں مثلاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "فضل میرے رحم و دل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ اُن کے سایے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ (ابن حبان)

نیز حضور والا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم "میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو۔ اُن کے ظلِ عنایت میں آرام کرو گے (حاکم) اصفاف کی آنکھیں کہاں ہیں۔ ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں کہ احادیث کریمہ کیسے صاف صاف و اشکاف بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرنے، اُن سے حاجتیں مانگنے، اُن سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری حاجتیں بکثادہ پیشانی روا کریں گے۔ ان سے مانگو تو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے، اُن کے دامنِ حمایت میں چین کرو گے۔ ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے۔" یارب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا صورتِ استعانت ہوگی۔ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحم دل ہوگا کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا کر، اُن سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائیگا۔ مزید کلام آگے آتا ہے۔

الحمد للہ حق کا آفتاب بے پردہ و حجاب، روشن ہوا۔ مگر وہاں بیہ کاموں کا موٹھا، خدانے مارا ہے انہیں اس عیشِ چلین، آرام، خیر و برکت، سایہ رحمت، دامنِ راحت میں حصہ کہاں جس کی طرف مہربان خدا کا مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بلا رہا ہے۔

ہاں مسلمانانِ اہلسنت، مقلدانِ ائمہ ملت کو خوشی و شادمانی کہ انہیں محبوبانِ خدا کے سایہ رحمت اور دامنِ خیر و برکت میں، عیش و آرام کا حصہ وافر ملا۔ اور ان کے مخالفوں کو حسرت و پشیمانی کہ محرومیوں نے ان پر ڈیرا ڈالا۔ وہ اس قابل کہاں کہ ارواحِ اولیائے کرام ان پر نظرِ کرم فرمائیں۔ سنتِ الہیہ ہے کہ منکر کو محروم رکھتے ہیں۔ حدیثِ قدسی میں ہے انا عند ظن عبیدی بی میں بندہ سے وہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ جب ان کے گمان میں ادا و محال تو ان کے حق میں ایسا ہی ہوگا۔

سے گم رہے تو حرامست، حرامت باور

۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اور جو اہل خصوصیت ہیں ان کا حال جدا ہے اور حکم بھی جدا۔ کہ ان کے حق میں یہ فعلِ عبادت ہو جاتا ہے۔ جو خواص میں ہوگا۔ خود سمجھ لے گا۔ بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہے حکم و ذمہ ^{۱۱۶} یا شیخ عبد القادر شیبانیؒ کا۔ لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے تو منجر الی الشکر ہے۔ ہاں اگر وسیلہ ^{۱۱۷} و ذریعہ جانے، یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے۔ کچھ حرج نہیں۔ یہی حقیقی ہے اس مسئلہ میں۔

۱۱۶ اور وہ حکم شرعی کیا ہے؟ یہی کہ ان سے تو سئل کرنا، شرعاً جائز و مرغوب و محبوب ہے کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا ذریعہ

قویہ ہیں۔ امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے "سُئِلَ عَمَّا يَفْعَلُ مِنَ الْعَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْتِغَاثَةِ الخ یعنی ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء صالحین سے فریاد کرتے اور یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر الجیلانی اور ان کے مثل کلمات کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علما سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی مدد فرماتے ہیں۔"

علامہ خیر الدین رملی، استاذ صاحب درمختار فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں قولہم یا شیخ عبدالقادر نداء فما الموجب الحرمۃ۔ لوگوں کا کہنا کہ یا شیخ عبدالقادر یا یہ ایک نداء ہے۔ پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔ سیدی جمال بن عبد اللہ بن عمر مکی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں سَأَلْتُ عَمَّنْ يَقُولُ فِي حَالِ الشَّدَائِدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا عَلِيَّ أَوْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرٍ مِثْلًا الخ یعنی مجھ سے سوال ہوا اُس شخص کے بارے میں، جو مصیبت کے وقت میں کہتا ہے یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبدالقادر مثلاً آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ "ہاں اولیاء سے مدد مانگنی اور انہیں پکارنا، اور ان کے ساتھ توسل کرنا، شرع میں جائز اور پسندیدہ چیز ہے۔ جس کا انکار کرے گا، مگر سبٹ و صرم یا صاحبِ عناد۔ اور بے شک وہ اولیائے کرام کی برکت سے محروم ہے۔"

خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف رفع ہو۔ اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو۔ اور جو کسی حاجت میں اللہ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آور آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے۔ ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اُس کی وہ

حاجت روا ہو۔

اکابر اولیاء کرام و علمائے عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ میں یہ کلمات رحمت آیات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے آئے ہیں۔

فصلے حاجت کے لیے یہ ایک مجرب نماز ہے جو علماء و صوفیہ و اولیاء ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں اس نماز کا نام صلوة الاسرار ہے۔ جو امام ابو الحسن نور الدین علی بن حجر بیہقی شطنوفی مصنف ہیجۃ الاسرار شریف کہ اعظم علماء و ائمہ قرأت و اکابر اولیاء و سادات طریقت سے ہیں اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صرف دو واسطے رکھتے ہیں، اپنی کتاب ہیجۃ الاسرار میں، اور ملا علی قاری و شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھے سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام عرض کرے (خواہ درود کا صیغہ کوئی بھی ہو) پھر گیارہ بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات (اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچئے اور میری مدد کیجئے۔ میری حاجت پوری ہونے میں اے تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے) پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے۔ ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین ویا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات (اے جن وانس کے فریاد رس اے ماں باپ) دونوں طرف سے بزرگ۔ میری فریاد کو پہنچئے۔ اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں۔ اے حاجتوں کے پورا کرنے والے) پھر حضور کے توسل سے اللہ عزوجل سے توبہ کرے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں وقد جرب ذلك مراراً فصح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (بے شک یہ بارہا تجربہ کیا گیا۔ ٹھیک اُترا) اللہ کی رضا حضرت شیخ پر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۸۷ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے تو منجر الی الشکر ہے۔ شیخ کو وسیلہ و ذریعہ جانے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ان دو مختصر فقروں کی اجمالی تفصیل پر اکتفا کرتے ہیں کہ اہل انصاف کے لیے اتنا ہی کافی اور متعسف و معاند کو وفاتر بھی ناکافی۔

استعانت کی دو صورتیں ہیں۔ استعانت حقیقیہ۔ استعانت غیر حقیقیہ۔
استعانت حقیقیہ یہ کہ اُس سے مدد چاہے اُسے قادر بالذات و مالک مستقل اور غنی بے نیاز جانے۔ کہ بے عطاءئے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی کار ساز حقیقی ہے اور اپنی حد ذات میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ استعانت خواہ بلا واسطہ ہو یا آلات و ہذا م و احباب کے واسطے سے اہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہی مستعان حقیقی ہے۔ وہی مالک حقیقی اور کار ساز حقیقی ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے اور اُسی کے دستِ قدرت میں کارخانہ عالم کا تمام نظام اسی نے عالم اسباب میں مسبب کو اسباب سے مربوط فرما دیا ہے اور اُسی کے حکم سے تمام نتائج، اسباب سے وابستہ ہیں۔

اور اس معنی کے اعتبار سے کسی اور کو مستعان و فریادرس اور کار ساز حقیقی جاننا، اور اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد رکھنا، ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے نہ ہرگز کوئی مسلمان، غیر خدا کے ساتھ اس معنی کا قصد رکھتا ہے۔
دوسری استعانت غیر حقیقی، کہ جس سے استعانت کی جائے، جس سے آدمی مدد کا خواستگار ہو اور جس کی توجہ و التفات یا حاجت برآری کا خواہاں ہو، اُن سب کو عون الہی کا مظہر، وصول فیض کا ذریعہ اور قضائے حاجات کا وسیلہ و واسطہ جانے، اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزۃ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ بایں معنی استعانت بالغیر، ہرگز اُس حصر کے منافی نہیں جو اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی بندہ مقبول و محبوب خدا کو محض رحمت الہی کا واسطہ اور عون الہی کا مظہر و وسیلہ جان کر، کسی نعمت کے حصول

یا کسی مشکل میں دستگیری کے لیے بندہ مومن، التجا و التماس لائے اور انہیں نہ کار ساز حقیقی جانے نہ مستعان حقیقی بلکہ ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ تو یہ نہ صرف جائز و مشروع ہے بلکہ اکابر دین و ملت اور پاکبازان شریعت کا دستور و معمول رہا ہے جس کی ہزار ہا مثالیں، کتب معتبرہ میں مذکور ہیں۔

اس لیے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا مطلقاً شرک ہے۔ ایک عقیدہ باطلہ ہے۔ کیونکہ مقربانِ بارگاہِ الہی کی امداد، امدادِ الہی ہے۔ اور یہ استعانت در حقیقت حق تبارک و تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ استعانت بالغیر مرگز نہیں۔ اور نہ وایاک نستعین کے مرگز یہ معنی ہیں۔ کہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب سے قطع نظر کہ لیا جائے۔ تو استعانت و فریادِ رسی کی حقیقت خاص بخدا ہے۔ اور معنی وسیلہ و توسل و توسط، غیر کے لیے ثابت اور قطعاً روا ہے۔ بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں اللہ عزوجل، وسیلہ و واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اُس سے اوپر کون ہے کہ یہ اُس کی طرف وسیلہ ہوگا۔ اور اُس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔

اہل اسلام انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہی استعانت کرتے ہیں جو اللہ عزوجل سے کیجئے تو اللہ اور اُس کا رسول غضب فرمائیں اور اُسے اللہ جل و علا کی شان میں بے ادبی ٹھہرائیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس استعانت کے معنی اعتقاد کر کے، جناب الہی جل و علا سے کرے تو کافر ہو جائے مگر وہابیہ کی بد عقلی کو کیا کہئے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف۔ نہ ایمان کا پاس۔ نہ اسلام کا لحاظ۔ خواہی خواہی۔ اس استعانت کو بھی ایاک نستعین میں داخل کر کے جو اللہ عزوجل کے حق میں محال قطعاً ہے اُسے اللہ عزوجل سے خاص کئے دیتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم خدا سے توسل کر کے، اُسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ نہیں بنا سکتے، اسی وسیلہ کو ہم اولیائے کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ و واسطہ قضائے حاجات ہو جائیں۔

ایک بے وقوف وہابی نے کہا تھا۔ "وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے۔ جسے تم مانگتے ہو"

اولیاء سے۔

امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ

تو سئل کہ نہیں سکتے خدا سے اُسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

ایسی بے وقوفی کے ہر سوال کا جواب اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔
 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
 الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم (یعنی گناہ)
 کر کے تیرے پاس حاضر ہوں، پس اللہ سے معافی چاہیں، اور معافی مانگے ان کے
 لیے رسول، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے
 پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں گے۔
 آیت کریمہ صاف فرما رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبہ ہیں۔ ان کا دروازہ
 کرم توبہ و معذرت کرنے والوں اور بارگاہ الہی میں ان کی شفاعت کے خواستگاروں
 کے لیے ہمیشہ مفتوح ہے۔ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں
 بارگاہ ایندومی میں وسیلہ رحمت الہی بنا کر، انہیں شفیع مذنبان مان کر، توبہ و استغفار
 کریں۔ اللہ توبہ ہر جگہ سنتا ہے۔ اُس کا علم، اُس کا سمع، اُس کا شہود، سب جگہ ایک
 ہے۔ مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم حیات ظاہری میں یہ حضور، ظاہر تھا۔ حاضر می بارگاہ،
 روشن و پدید آہتی۔ اب حضور مزار پر انوار ہے کہ روضۃ النور پر حاضر می دیں۔ اور جہاں
 یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل،
 فریاد و استغاثہ اور طلب شفاعت ہے۔ مگر وہاں توجہ عقل نہیں رکھتے۔

خُدَا رَا انصاف! اگر آیت کریمہ ایک نستعین ہیں، مطلقاً استعانت
 کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو کہ مطلق استعانت اسی کے ساتھ مخصوص
 ہے، تا تو کیا صرف اولیاء و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی

کیا یہی غیر خدا ہیں۔ اور خدام و احباب اور سب اشخاص اور آلات و اشیاء، سب وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں۔ یا آیت میں خاص انہیں کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے۔ نہیں نہیں جب مطلقاً ذات احدیت سے استغانت کی تخصیص اور غیر سے شرک۔ ماننے کی ٹھہری، تو کسی ہی استغانت، کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی۔ کہ انسان ہوں یا جمادات، احوال ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ تو کیا جواب ہے آیت کہ میرے لیے رب عزوجل فرماتا ہے، **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔
 "استغانت کرو صبر و نماز سے" کیا صبر خدا ہے جس سے استغانت کا حکم ہوا ہے۔ کیا نماز خدا ہے جس سے استغانت کو ارشاد کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے۔
وَتَقَاوَلُوا عَلَى السَّبْرِ وَالتَّقْوَى۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو و محبت لائی اور پرہیزگاری پر۔"

کیوں صاحب جب غیر خدا سے امداد ملنی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہے تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مانگنے میں کیا زہر گھل گیا کہ وہ شرک قرار پایا۔ غرض استغانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ آدمی اس غیر کو منظر عین الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک اور کار ساز حقیقی جان کر، اس پر بھروسہ کرے۔ اور اگر منظر عین الہی اور واسطہ و وسیلہ رحمت سمجھ کر استغانت کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق، مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ایسی استغانت بالغیر کی ہے۔ **وَلٰكِن الْوَهَابِيَّةُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ**۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

فَاِنَّكُمْ مِلَّةٌ :- وہابیہ کے اصناف و اکابر، بیچارے کم علموں کو اکثر دھوکے دیتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہیں۔ فلاں عقیدہ یا معاملہ ان سے شرک نہیں۔ وہ مردہ ہیں ان سے شرک ہے۔ یا یہ تو پاس بیٹھے ہیں ان سے شرک نہیں۔ وہ دور

ہیں ان سے شرک ہے۔ وعلیٰ بذالقیاس۔ طرح طرح کے یہود و سواس۔ مگر یہ سخت جہالت بے مزہ اور جبارت بے لذت ہے۔ جو شرک ہے۔ وہ جس کے ساتھ کیا جائے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے لیے شرک نہیں تو وہ کسی کے لیے شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کا شریک مردے نہیں ہو سکتے، زندے ہو سکتے ہیں۔ دور کے نہیں ہو سکتے پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء نہیں ہو سکتے، حکماء و اطباء ہو سکتے ہیں۔ انسان نہیں ہو سکتے فرشتے ہو سکتے ہیں۔

حاشا للہ! اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مثلاً جو بات نذاخواہ کوئی شے، جس اعتقاد کے ساتھ کسی پاس بیٹھے ہوئے زندہ آدمی سے شرک نہیں، وہ اسی اعتقاد سے کسی دور والے یا مردے بلکہ اینٹ پتھر سے بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ اور جو ان میں کسی سے شرک ٹھہرے، وہ قطعاً یقیناً تمام عالم سے شرک ہوگی۔

اس استغانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر مدد مانگنا، بایں معنی اگر دفع مرض میں طبیب یا دوا سے استمداد کرے۔ یا حاجت فقیر میں امیر بادشاہ کے پاس جائے۔ یا انصاف کرنے کو کسی کچھری میں مقدمہ لڑائے۔ بلکہ کسی سے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے، جو بالیقین تمام وہابی صاحبان، روزانہ اپنی عورتوں بچوں نوکروں سے کرتے کرتے رہتے ہیں، سب شرکِ قطعی ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کے کر دینے پر انہیں خود اپنی ذات سے بے عطاۃ الہی قدرت ہے تو صریح کفر و شرک ہونے میں کیا شبہ رہا۔

اور جس معنی پر ان سب سے استغانت شرک نہیں، یعنی مظہرِ عون الہی، وواسطہ و وسیلہ و سبب سمجھنا، اس معنی پر حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے کیوں شرک ہونے لگی۔ مگر حکیم امیر جنٹ، انج، اولاد نوکر جو رو، ان سب کو مظہرِ عون و سبب و وسیلہ جاننا ماننا جائز ہے۔ شیر مادر کی مانند حلال ہے۔ اور ان حضراتِ عالیہ یعنی

انبیاء و اولیاء کو کہ وہ اعلیٰ منظر، اعظم سبب، افضل وسائل بلکہ منتہی الاسباب غایتہ الوسائط و نہایتہ الوسائل ہیں۔ انہیں پر تمام اسباب تمام واسطوں اور تمام وسیلوں کی انتہا ہے، ایسا سمجھنا شرک ہو گیا۔ ہزار تفت بریں بے عقلی و ناسواقی۔ غرض پانی وہیں مرتا ہے۔ کہ جو کچھ غصہ ہے وہ حضرات محبوبان خدا کے بارے میں ہے۔ جو دو ہا بار، پچھے مددگار، نوکر کار گزار، مگر انبیاء اولیاء کا نام آیا اور سر پر شرک کا جھوت سوار ہوا۔ یہ کیا دین ہے کیسا ایمان ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

برادران اسلام اس نکتے کو خوب محفوظ و ملحوظ رکھیں۔ جہاں ان چالا کوں عیاروں کو فرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عمل، فلاں عقیدہ، فلاں کے ساتھ شرک ہے۔ فلاں سے نہیں تو بالیقین جان لیں کہ یہ نہرے جھوٹے ہیں۔ جب ایک جگہ شرک نہیں تو اس اعتقاد سے کسی جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔ واللہ الہادی الی طریق سوتی۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے دیکھیں نفیس رسالہ لاجواب عجالہ برکات الامداد مصنفہ امام اہلسنت۔

۸۸ مسلمان دیکھیں کہ مسئلہ ندامت میں حضرت شاہ صاحب مسلمانوں کو وہابیہ کے شرک سے بچانے کی کسی کیسی تدبیر فرما رہے ہیں۔ مگر وہابیہ انہیں چین و چٹان جانتے مانتے ہوئے بھی، کرتے وہی ہیں جو انہیں شیخ نجدی کی محبت نے تقویت الایمان کے زہر میں گھول کر پلا دیا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

اب بعض علماء اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے اس ندامت سے منع کرتے ہیں۔ ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات (الحديث) مگر مصلحت یوں ہے کہ اگر ندامت کرنے والا سمجھ دار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے۔ اور جو محض عامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جائے

اگر اس کے عقیدے میں کوئی حُرابی ہو تو اُس کی اصلاح کر دی جائے
اور کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو تو بالکل روک دیا جائے
لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔

۸۹ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ادعا ہے کہ بندگانِ خدا، محبوبانِ خدا کو قادر بالذات
مالکِ مستقل اور غنی بے نیاز جان کر اور یہ مان کر استعانت کرتے ہیں کہ وہ بے عطائے
الہی خود اپنی ذات سے اس کار بر آری اور حاجت روائی و مشکل کشائی پر قدرت رکھتے
ہیں۔ ایک ایسی سخت بات ہے جس کی شناخت اور شرعاً مبعوض و معضوب اشد
مکروہ و معیوب ہونے پر اطلاع پاؤ تو مدتوں نہیں تو بہ کرنی پڑے۔ جن پر تم بدگمانی
سے یہ الزام ٹھوپتے ہو وہ مسلمان، صاحبِ ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں اور اہلِ لا الہ
الا اللہ ہیں۔ اور اہلِ لا الہ الا اللہ پر بدگمانی حرام۔ اور اُن کے کلام کو، جس کے
صحیح معنی بے تکلف درست ہوں، جن پر نہ عقلاً کوئی گرفت، نہ شرعاً کوئی مواخذہ
انہیں خواہی بخوابی معاذ اللہ، پناہ بخدا، معنی کفر کی طرف ڈھال لے جانا قطعاً گناہ کبیرہ ہے۔
سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ط** اے ایمان والو بہت گمانوں کے پاس نہ جاؤ۔ بے شک کچھ گمان
گناہ ہیں۔

اور فرماتا ہے **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ ط** ”مجھے نہ پڑ اس بات کے، جو تجھے تحقیق نہیں۔ بیشک
کان آنکورول سب سے سوال ہوتا ہے۔“

اور فرماتا ہے **لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ
خَيْرًا ط** ”کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اُسے سنا، تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے
اپنی جانوں یعنی اپنے بھائی مسلمانوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔“

اور فرماتا ہے **يُعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْفِتْنِ أِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ط**

" اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ کرنا، اگر ایمان رکھتے ہو۔"
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر
جھوٹی بات ہے۔"

اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اُس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا!
علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو، جس میں سو پہلو
نکل سکیں۔ ان میں ننانوے پہلو کفر کی جانب جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو
جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اُس نے خاص کوئی پہلو، کفر کا مراد لیا ہے، ہم اُسے
کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے۔ کیا معلوم شاید اُس نے یہی پہلو
یاد رکھا ہو کہ الاسلامُ یَعْلُو وَلَا یُعْلَىٰ اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں کیا جاتا۔
اللہ اللہ! کہاں تو خدایا اور رسول جل و علا کے احکام کی بنا پر، علمائے کرام کا یہ
ارشاد کہ کلمہ گو کے کلام میں اگر ننانوے معنی کفر کے نکلیں اور ایک تاویل اسلام کی پیدا
ہو، واجب ہے کہ اُسی تاویل کو اختیار کریں اور اُسے مسلمان ہی ٹھہرائیں۔ اور کہاں
بلاوجہ موٹھ زوری سے، صاف اظہار واضح، معلوم و معروف معنی کا انکار کر کے اپنی
طرف سے ایک ملعون و مردود اور مصنوع و مطرود احتمال کر لیں اور اپنے لیے علم
غیب اور احوال قلب پر اطلاع کا دعویٰ کر کے، زبردستی وہی ناپاک مراد مسلمانوں
کے سرِ محقوب دینا۔ قیامت تو نہ آئے گی۔ حساب تو نہ ہوگا۔ اور ان بہتانوں طوفانوں
پر بارگاہِ قہار سے مطالبہ جواب تو نہ ہوگا۔ ہاں ہاں جواب تیار کر رکھو اُس سخت
وقت کے لیے، جب مسلمانوں کی طرف سے جھگڑنا آئے گا لا الہ الا اللہ۔

یوں اعتبار نہ آئے تو اپنے شیخ اپنے مرشد، اپنے قائد اپنے رہبر، حضرت
شاہ صاحب علیہ الرحمۃ ہی کی مان کر، اپنے کذب کا امتحان کر لو۔ اہل استعانت
سے پوچھو دیکھو کہ تم انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ و الثناء کو معاذ اللہ خدا یا خدا
کا ہمسرا یا قادر بالذات یا معین مستقل جانتے ہو کہ وہ بے عطلے الہی، اپنی ذات
سے اس امداد و اعانت پر قدرت و اختیار رکھتے ہیں۔ یا انہیں اللہ عزوجل کے مقبول

مندے ، اس کی سرکار میں عزت و وجاہت والے ، اس کے حکم سے اُس کی نعمتیں
 بانٹنے والے مانتے ہو؟ دیکھو تو سہی کہ تمہیں کیا جواب ملتا ہے۔ سوچو تو سہی کہ پھر
 دنیا و آخرت میں تمہیں شرمندگی و حسرت نامرادی کے سوا کچھ اور بھی ہاتھ آئے گا۔

امام علامہ خاتمۃ المجتہدین ، تقی المملکت والدرین ، فقیہ محدث ، ناصر السنۃ ابو الحسن علی
 بن عبدالکافی سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب مستطاب شفاء السقام میں استمداد
 واعانت کو بہت احادیث صریحہ سے ثابت کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو خالق اور قاعیل مستقل ٹھہراتے ہوں
 یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا۔ تو اس معنی پر کلام کو ڈھال کر استعانت سے منع کر
 دینا“ من باب التلیس فی الدین والتشویش علی عوام الموحّدین۔ دین میں
 مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔“

ایمان سے کہنا اور خدا لگتی کہنا کسی دلیل شرعی کے بغیر، تمہاری بات معتبر ہوگی یا
 ان اکابر اہلسنت کا یہ ارشاد واجب الاتباع والقبول ہوگا کہ حقیقتہً یہ استعانت فریاد
 اللہ عزوجل کے حضور ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و اولیاء اُس کے اور اس
 فریاد ہی کے پیچ میں وسیلہ و واسطہ ہیں۔ مگر ہے یہ کہ وہابیہ کے پاس، جیانا نام کی
 کوئی چیز نہیں۔ جیانا ان کے پاس سے نہ گزری۔ (برکات الابداد وغیرہ ۱۲۱ محمد خلیل عفی عنہ

ایک بات کہ وہ بھی بہت جگہ کار آمد ہے یاد رکھنے کے قابل ہے وہ
 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں مبتلا ہو اور قرآن قویہ سے یقین
 ہو کہ یہ شخص اصل عمل کو ترک نہ کرے گا تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے
 ترک کرنے پر اُس کو مجبور کرے کہ بجز فساد و عناد کوئی ثمرہ نہیں۔ نہ اس کو
 بالکل مہمل و مطلق العنان چھوڑ دے کہ شفقت اور اخوت اسلامی کے
 خلاف ہے۔ بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کہ اُس میں جو خرابی ہو اس
 کی اصلاح کر دے۔ کہ اس میں امید قبول اغلب ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ

کا حکم ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة
الحسنة الایہ

۹۰ نے مخلوق خدا کو، ہدایت و رشد کی طرف بلانا، ایک مہتمم بالشان امر ہے اور اس کی
بجا آوری کے لیے ارشادِ ربانی ہے "کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور
اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔"

تبلیغِ حق و ترغیب الی الحق کے وہ آداب و طرق، جو وحشت زدہ گمراہوں،
اور بلائے معصیت میں گرفتار، کج رویوں کو، حق و صواب کی منزلوں تک پہنچائیں،
صاف صاف آیہ کریمہ میں بیان فرمائے گئے کہ تین ہیں۔

الحکمة یعنی وہ علمی دلائل، جو حق کو روز روشن کی طرح، آشکار کر دیں۔
اور شکوک و شبہات کی تاریکیوں کو نور ہدایت سے بدل سکیں۔

الموعظة الحسنہ یعنی ایسی پسند و نصیحت جو حق و صواب، اور خیر و فلاح
کی یاد دہانی اس اسلوب سے کرے کہ پتھر دل بھی موم ہو جائیں۔ بالفاظِ دیگر ترغیب و
ترہیب سے ان کے جذباتِ اعلیٰ ابھار کے، کہ حق کی جانب ان کا میلان قلب
زیادہ سے زیادہ بڑھے۔

التی تھی احسن۔ یعنی جب بحث آہی پڑے تو اندازِ خطاب شائستگی سے
مستور، اور طریقِ گفتگو اخلاقِ حسنہ سے بھرپور ہو کہ مخاطب کے دل میں گھر کر جائے۔
تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا کہ "ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت
کے لیے، اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہو سکتا ہے، اگر اس کے
پیش کیے ہوئے دلائل بوردے اور کمزور ہوں گے۔ اگر اس کا اندازِ خطاب درشت اور معاندانہ
ہوگا۔ اگر اس کی تبلیغِ اخلاص و للہیت کے نور سے محروم ہوگی تو وہ اپنے سامعین
کو اپنی دعوت سے متنفر کر دے گا۔ کیونکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا انحصار، تبلیغ
اور فقط تبلیغ پر ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے نہ کوئی رشوت پیش کی جاتی ہے

اور نہ جبر و اکراہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان ایمان ہی نہیں جس کے پس پردہ، کوئی دنیاوی لالچ یا خوف و ہراس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ اسلامی کے آداب کی تعلیم دی۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ دینِ اسلام کو سَبَّیْلِ رَبِّک کے عنوان سے تعبیر کر کے، اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دعوت کسی سیاسی جتھہ بندی کے لیے، کسی معاشی گروہ سازی کے لیے نہیں دی جا رہی، بلکہ اس راستہ کی طرف بلا یا جا رہا ہے جو بندے کو اپنے مالکِ حقیقی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو دوری اور بیگانگی کے صحراؤں سے نکال کر قرب و لطف کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا، تمہارا اندازِ خطاب ایسا ہونا چاہیے جس کے لفظ لفظ سے اخلاص و محبت کے چشمے ابل رہے ہوں اور تمہاری آواز کا زیر و بم، شفقت و پیار کا آئینہ دار ہو۔ تمہارے پیش نظر فقط حق کی سر بلندی ہو۔ تو جب تک کوئی مبلغ ان خوبیوں سے متصف نہ ہو اسے اس میدان میں قدم نہ رکھنا چاہیے۔ اس معیار پر پورا اترنے کے لیے علم و آگاہی کی وسعتوں کے علاوہ مکارمِ اخلاق اور محاسنِ خصائل سے مزین ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ نعمت کسی صاحبِ دل کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انتہی

غور فرمائیے! کہ آج کل وہابیہ نجدیہ نے قریہ قریہ بستی بستی، جو تبلیغ کا جال پھیلا یا ہے۔ ان میں کتنے ہیں جو اس معیار پر پورے اتریں۔ ۱۲۰ محمد خلیل عفی عنہ

۹۱ اور رسومِ جاہلیت کے شیوع کے جو احکام شرعیہ مقرر ہوئے ہیں ان میں غور کرنے سے اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے۔ مشرب اس فقیر کا یہ ہے کہ ایسی ندامتِ معمول نہیں۔ ہاں بعض اشعار میں ذوق و شوق سے صیغہ نداء بڑا لگایا۔ اور عملِ رآمد وہی رکھنا چاہیے جو اوپر تین مسئلوں میں بیان ہوا۔

۹۲ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو مہاپیتِ متانت اور نرمی سے اُسے

منع کرے اور اُسے اچھی طرح سمجھائے۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے۔ اُسے سخت کُست کہے۔ مگر گالی نہ دے۔ نہ فحش لفظ زبان سے نکالے۔ اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو اپنے اثر و رسوخ یا قوت بازو سے روک سکتا ہے روک دے۔ مثلاً وہ شراب پی رہا ہے تو شراب بہا دے۔ برتن توڑ مچھوڑ ڈالے۔ گانا بجاتا ہے تو باجے توڑ ڈالے۔

پھر رسومِ جاہلیت یا منکراتِ شرعیہ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے بھی پانچ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول علم کہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ دوم اس سے مقصود رضائے الہی و اعلاءِ کلمۃ اللہ ہو۔ سوم جس کو حکم دینا ہے اُس کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے۔ چہارم امر کرنے والا صابر و بردبار ہو کہ اذیت کو سنجیدگی سے برداشت کر سکے۔ پنجم یہ شخص خود اُس پر عامل ہو۔ ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا۔ کہ "کیوں کہتے ہو وہ بات، جس کو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو۔" اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ "کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔" (عالمگیری)

۹۲ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مناسک حج اور زیارتِ روضہ اطہر سے فراغت پا کر ہندوستان واپس تشریف لے آئے تو اپنے اشتیاقِ قلبی کو ان اشعار میں ظاہر فرمایا :-

مجھے دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ	ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ
مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ	کرو روئے منور سے مرہی آنکھوں کو نورانی
بس اب چاہے ہنسناؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ	اگر چہ نیک ہوں باید تمہارا سوچا ہوں میں
مرہی کشتی کناے پر لگاؤ یا رسول اللہ	پھینسا ہوں بے طرح گردابِ غم میں ناخدا ہو کر

اگر چہ میں ناقابل وہاں کے پر امید تھم سے کہ پھر مجھ کو دینے میں بلاؤ یا رسول اللہ
جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب چاہیے ڈباؤ یا تیراؤ یا رسول اللہ

پھنسا کر اپنے دام عشق میں اندر عاجز کو
بس اب قید و دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ

خود مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جنہیں وہابیہ کے اکابر و اصاغرنے اپنا سر و ستر تاج
مانا ہے۔ اور جو آج بھی وہابیہ و یوہندیہ کے معتمد علیہ اور مسلم الثبوت اکابر میں شمار ہوتے
ہیں اپنے ایک قصیدے میں لکھتے ہیں:-

اگر جواب دیا سبکوں کو تو نے بھی تو کوئی اتنا نہیں جو کرے کچھ استفسار
کر وڑوں جرم کے آگے یہ نام کا اسلام کہ گیا یا نبی اللہ کیا یہ میری پکار
بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
مدد کر اے کریم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے تمام بیکس کا کوئی حامی کار

منکرین ندا غور سے ان اشعار کو دیکھیں۔ ان میں خطاب بھی ہے۔ ندا بھی ہے اور
استمداد و استعانت بھی۔ اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو پھر مسلمانان اہلسنت پر، وہ فتویٰ
شُرک کیسا؟ اور شرک ہے تو پھر ان پر حکم شرک جڑنے میں تاقل کیا؟
یہ حضرات کہ حضور سے مانگ رہے ہیں۔ حضور سے عرض کر رہے ہیں، فریاد
کر رہے ہیں کیوں کر دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کنندہ و پناہ دہندہ وغیرہ
وغیرہ کہہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ سب کچھ جائز و روا۔ اور غریب مسلمان کریں تو
ان پر وار پر وار، شرک و کفر کے فتوؤں کی بھرمار۔ اور یہ تاویل و اعتدال کہ ان صاحبوں کا

خطاب و ندا کرنا، غلبہ شوق و وفور محبت سے تھا لہذا جائز ہے۔ اور عوام جو خطاب و ندا کرتے ہیں وہ انبیاء و اولیاء کو مستعان جہتی اور مستقل ذاتی سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایک جیتا جاگتا فریب و مغالطہ اور وہابیہ کا مہمل و بے معنی فلسفہ ہے۔ اور وہی مسلمان پر بہتان تراشی و افترا پروازی اور بدگمانی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ مگر اسے کیا کیا جائے کہ وہابیت کی بنیاد ہی اس بدگمانی پر رکھی گئی ہے اور نجدیت کے ناپاک دھرم کی یہی اساس و حشمتِ اول ہے۔ ایسے لوگوں ہی کے لیے کہا گیا ہے۔

نیم ملاحظہ خطبہ ایمان

کیا غلبہ شوق و جذبہ محبت میں عامۃ المسلمین کا کوئی حصہ نہیں رہا اس دولت پیش بہا و خیرینہ لائزوال کی تقسیم، کارکنانِ قضا و قدر نے، ان منکروں کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جسے چاہیں دیں اور جسے نہ چاہیں اُسے روک لیں۔ اور جب یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو پھر یہ جرم کیسا، اس حتمی حکم کے معنی کیا ہیں اور اس فتویٰ شرک کا باعث کیا۔ وہابیہ شاید اس نکتہ سے واقف نہ ہوں کہ جب شوق کا غلبہ ہوتا ہے تو مطلوب، ندا کرنے والے کے شعور میں موجود اور حاضر فی الذہن ہوتا ہے اور خطاب کا باعث یہی مطلوب کا حضورِ ذہنی ہے۔ یہی تصورِ مطلوب، اُسے خطاب پر ابھارتا اور ندا پر آمادہ کرتا ہے۔ عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور خواص کے غلبہ شوق کا اندازہ، تو سچی بات ہے وہی لگا سکتے ہیں۔ جنہیں اس چاشنی سے کچھ حصہ ملا ہے۔ نمازیں التیجات کے وقت خطابِ ندا کے سلسلہ میں جو کچھ گذشتہ اوراق میں لکھا گیا ہے۔ تارٹین ایک مرتبہ پھر اُسے دیکھ لیں۔

۱۲۔ محمد خلیل عقی عنہ

فائدہ جلیبہ

یہ وہی نالوتوی صاحب ہیں جو خاتم النبیین کے معنی، سب میں کھیلانی ہونے کو فرماتے ہیں کہ جاہلوں کا خیال ہے۔ اہل فہم کا نہیں۔ اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں۔ ایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح ہے۔ یہ معنی ہوں تو اللہ فضول گو ہو۔ عطا قرآن بے ربط ہو۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں۔ یہی صحابہ و تمام امت نے سمجھے۔ یہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں میں بتائے۔ عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مفسرین و اولیاء و علمائے عظام سب کے کہ آج تک خاتم النبیین کے یہی معنی بتائے، سمجھائے اور مانے جا رہے ہیں تو قطعاً یہی مراد آیت ہیں۔ یہ معنی اور ان معنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل علیہ میں ہونا ضروریات دین سے ہے۔ تو ان میں فضیلت سے انکار، قطعاً ضروریات دین کا انکار، اور حضور پر افسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سخت توہین اور شدید تنقیض ہے، پھر نالوتوی صاحب کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل و نا فہم ہوئے اور اللہ فضول گو۔ اور قرآن کریم بے ربط۔ یہ کفر و کفر صدہا کفر ہے۔ پھر صاف اقرار کیا کہ اس معنی متواتر کو جو تمام امت نے سمجھے، جاہلوں کا خیال بنا کر، جو معنی نالوتوی صاحب نے گڑھے وہ خود ان کی ایجاد ہیں۔ اکابر کا فہم ان تک نہ پہنچا اور اس کا عذر کم التفاتی گڑھا۔ یعنی صحابہ کرام سے کہ آج تک جملہ اکابر نے عقیدہ ضروریہ دینی ایمانی کی طرف کم التفاتی کی جس کے سبب اس کے سمجھنے میں غلطی کھائی۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

تفصیل کے لیے دیکھیں رسالہ مبارک الاستمداد ۱۲

ایمان افروز چند حکایات

۱۔ امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں 'تین اولیائے عظام کا عظیم الشان واقعہ' بسند مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی، سوارانِ دلاور، ساکنانِ شام تھے۔ کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کرتے۔ ایک بار نصارائے روم انہیں قید کر کے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا۔ تم نصرانی ہو جاؤ۔ انہوں نے نہ مانا اور نہ کی یا محمدؐ راہ۔ بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کر کر، دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ کہ ایک رومی سردار نے اسے اپنی تحویل میں لے کر اپنی بیٹی کے سپرد کر دیا۔ کہ اسے اپنے حسن و شباب کے ذریعہ نصرانیت کی طرف مائل کرے۔ مگر وہ لڑکی اس کی دیانت و پاک دامنی سے متاثر ہو کر، خود ہی مسلمان ہو گئی۔ اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے دوسری جگہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور دشمنوں کی نگاہ سے دور دستور رہے۔ یہاں تک وہ دونوں بھائی باذنہ تعالیٰ چھ ماہ کے بعد مع ایک جماعتِ ملٹکہ کے بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے۔ انہوں نے حال پوچھا فرمایا مَا كَانَتْ إِلَّا الْفَطْسَةَ الَّتِي رَأَيْتَ حَتَّى حَزَجْنَا فِي الْفِرْدَوْسِ بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم جنتِ اعلیٰ میں تھے۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں کَانُوا مَشْهُورِينَ بِذَلِكَ مَعْرُوفِينَ بِالشَّامِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ۔ "یہ حضرات زمانہ سلف میں شام میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف"۔ پھر فرمایا شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے از انجلہ

یہ بیت ہے نہ

سَيُعْطَى الصَّادِقِينَ بِفَضْلِ صِدْقِ
نَجَاةٍ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْمَمَاتِ

”قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو ان کے سچ کی برکت سے حیات و موت میں نجات بخشنے گا۔“

یہ واقعہ عجیب نفیس و روح پرور ہے۔ بخیاں تطویل اسے مختصراً

لکھا گیا۔ تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح صدور میں ہے۔ تفصیل درکار ہو تو اس کا مطالعہ کریں۔ یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت میں بہ نیت استعانت و فریاد رسی یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر الجیلانی اور ان کے مثل کلمات کہنا، اگر شرک ہے۔ جیسا کہ طائفہ وہابیہ نجدیہ کا مذہب ناہنذب کہتا ہے۔ تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی؟ کہ یہ دونوں نعمتیں تو ایمان پر مرتب ہیں۔ اور جنت الفردوس میں جگہ پائی، کیا معنی۔ کہ مشرک ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ ابد الابد تک جہنم میں پڑا سزا پاتا رہے گا۔ اور ان کی شادی میں فرشتوں کو بھیجا کیونکہ معقول کہ یہ پر بنائے اگر اہم ہے۔ اور مشرک کسی اکرام کا مستحق نہیں۔ اگر کہیے کہ یہ صرف ایک حکایت ہے۔ صدق و کذب ہر دو معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ اس لیے اسے سند و دلیل بنانا اے کند و ہلا دلیل بات ہے۔ تو جان برادر، ان ائمہ دین نے، جن کی جلالت شان، عالم آشکار ہے، یہ روایت کیونکر مقبول، اور ان کی شہادت و ولایت، کس وجہ سے مستلزم رکھی۔ کیا انہیں علم و شعور اور فہم و آگاہی میں وہ مقام بھی حاصل نہ تھا جو آج کے ان نو آموز ملاؤں کو میسر ہے۔ پھر وہ مروان خدا خرد بھی سلف صالح ہیں تھے کہ یہ واقعہ شہر طرس کی آبادی سے پہلے کا ہے۔ اور طرس ایک ثغر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر۔ جسے خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آباد کیا۔ کما ذکرہ الامام السیوطی فی تاریخ الخلفاء۔ ہارون رشید کا زمانہ، زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا۔ تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے، لا اقل تبع تابعین سے تھے۔

۲۔ امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الہ ربانی، کتاب مستطاب
 "لوائح الانوار فی طبقات الاحیاء" میں فرماتے ہیں کہ "سیدی محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے ایک مرید، بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اُن کے جانور کا پاؤں پھسلا۔ باوا زنگار
 یا سیدی محمد عمری! ادھر ابن عمر حاکم سعید کو حکم سلطان حقیق قید کیلئے لے جاتے تھے۔
 ابن عمر نے فقیر کا ندا کرنا سنا تو پوچھا: "یہ سیدی محمد کون ہیں؟ انہوں نے جواب
 دیا "میرے شیخ"۔ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں۔" یا سیدی محمد عمری لا حظنی! "
 "اے میرے سردار! اے محمد عمری مجھ پر نظر عنایت کیجئے۔" اُن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت
 سیدی محمد عمری تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اُن کی مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے
 لشکریوں کی جان پر بن گئی۔ مجبورانہ ابن عمر کو خلوت دیکر رخصت کیا۔

۳۔ اُسی میں ہے سیدی شمس الدین محمد حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں
 دو سو فرما رہے تھے۔ ناگاہ ایک کھڑاؤں سوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی۔ حالانکہ حجرے میں
 کوئی راہ اس کے سوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے
 اپنے پاس رہنے دے۔ جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام
 سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو
 جزائے خیر دے۔ جب چور میرے سینہ پر، مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں
 کہا یا سیدی محمد یا حنفی! اُسی وقت یہ کھڑاؤں عیب سے آکر اُس کے سینے پر لگی کہ
 عیش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے بہ برکت حضرت، اللہ عزوجل نے نجات بخشی۔

اس واقعہ میں ان کا دل میں ندا کرنا۔ اور ان حضرت کا سن لینا، اور باذنہ الہی
 اپنی کھڑاؤں کا سوا میں اچھاال دنیا، اور کھڑاؤں کا فضا میں اڑ کر وہاں تک پہنچ جانا، یہ
 سب باتیں، دل نشین کرنے کے قابل ہیں۔

۴۔ اُسی میں ہے۔ ولی حمد روح (سیدی شمس الدین محمد حقی) قدس سرہ کی زوجہ
 مقدسہ بیماری سے قریب المرگ ہو گئیں۔ وہ یوں ندا کرتی تھیں "یا سیدی احمد یا بدوی
 خاطرک منعی"۔ اے میرے سردار! اے احمد بدوی حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہو۔"

ایک دن سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں
 "کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فرما دیکرے گی۔ تو جانتی نہیں کہ تو ایک
 بڑے صاحب تمکین و تصرف اور بڑے بااثر و اختیار (یعنی اپنے شوہر کی حمایت
 میں ہے۔ اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اُس کی ندا پر اجابت نہیں کرتے۔
 یوں کہہ یا سیدی محمد یا حنفی۔ کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔" ان بی بی
 نے یوں ہی کہا۔ صبح کو خاصی تندہ دست اٹھیں۔ گویا کبھی مرض نہ تھا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! فرما دے اور مشکل کشائی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ خود
 حاجت روائی نہیں فرماتے تو دوسرے حاجت روائی فرما دیتے ہیں۔

یہی حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرماتے تھے کہ جسے
 کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کہ حاجت مانگے۔ میں روافرما دوں گا۔ کہ مجھ میں
 تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی حاصل ہے۔ اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں
 کر دے وہ مرد کا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 احوال شریفہ میں لکھا ہے۔ کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں ان میں ہوں جو اپنی قبور میں
 تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو، میرے پاس، میرے چہرہ النور کے
 سامنے حاضر ہو کہ مجھ سے اپنی حاجت کہے میں روافرما دوں گا۔" سچ فرمایا اے محبوب
 بارگاہ حق آپ نے۔ محبوبانِ خدا کی یہی شان ہے لیکن وہابیت اس کے فہم سے قاصر ہے۔
 ۵۔ اسی میں مروی ہوا ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشموونی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے وصو فرماتے ہیں ایک کھڑاؤں بلا در مشرق کی طرف پھینکی۔ سال بھر کے بعد ایک
 شخص حاضر ہوئے وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی۔ انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک
 بد وضع و بد قماش نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی۔ لڑکی کو اُس وقت
 اپنے باپ کے پیرو مرشد سیدی مدین بن احمد کا نام معلوم نہ تھا۔ لہذا اُس نے یوں ندا
 کی یا شیخ ابی لا حظنی اے میرے باپ کے پیر مجھے بچا بیٹے۔ یہ ندا کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی
 اور لڑکی نے نجات پائی۔ وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔"

سُبْحَانَ اللَّهِ! اولیائے کرام کے لیے زمان و مکان کے فاصلے تو بے شک کوئی چیز نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اُن کے جسم سے شرفِ اتصال پا جانے والی، کھڑاؤں جیسی چیز یا یہ اُن کی آن میں اتنے دور دراز فاصلے کیسے طے کر گئی۔ بے شک یہ حضرات بلکہ ان سے منتسب و منسوب اشیاء و وسیلہ و ذریعہ ہیں رحمت الہی کا۔ اور بے شک وہ حضرات گرامی مظاہر ہیں عون الہی کے اسی کتاب مستطاب میں سیدی موسیٰ ابو عمر ان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں فرمایا کہ جب اُن کا مزید، جہاں کہیں سے اُممیں نذا کرتا، جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا۔ یا اس سے بھی زائد۔"

حضور پرنور جگر پارہ شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و شرف و کرم ارشاد فرماتے ہیں: "جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہو۔ اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر نذا کرے وہ سختی رفع ہو۔ اور جو اللہ عزوجل کی طرف کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو۔ (انوار الانبیاء و صحیحہ) ۱۲۔"

۴۔ امام اجل سید ابوالحسن نور الملتہ والدین علی بن یوسف بن جریر لحنی شطنوفی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب مستطاب ہجرت الاسرار شریف میں محدثانہ اسانید صحیحہ معتبرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو العفاف موسیٰ بن عثمان بن موسیٰ بقاعی نے ۶۶۳ھ میں شہر قاہرہ میں حدیث بیان کی کہ ہمیں ہمارے والد ماجد عارف باللہ ابو المعانی عثمان نے ۶۱۲ھ میں شہر دمشق میں خبر دی کہ ہمیں دو ولی کامل حضرت ابو عمر و عثمان صریغینی و حضرت ابو محمد عبد الحق حریمی نے ۵۵۹ھ میں بغداد مقدس میں خبر دی کہ ہم ۳ صفر بروز یک شنبہ ۵۵۵ھ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر تھے۔ حضور نے وضو کر کے کھڑاؤں پہنیں اور دو رکعتیں پڑھیں۔ بعد سلام ایک عظیم لغزہ فرمایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی۔ پھر دوسرا لغزہ فرمایا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی۔ وہ دونوں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے ہیئت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ۲۳ دن کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا کہ ہمارے پاس حضور کی ایک نذر ہے۔ ہم نے حضور سے

اُس نذر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ حضور نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے ایک من ریشم اور خنز کے تھان اور سونا، اور حضور کی وہ کھڑاویں، جو اُس روز ہوا میں پھینکی تھیں، پیش کیں۔ ہم نے ان سے کہا یہ کھڑاویں تمہارے پاس کہاں سے آئیں۔ کہا۔ ۳ صفر بروز یک شنبہ ہم سفر میں تھے، کہ کچھ راہزن جن کے دو سردار تھے، ہم پر آپڑے ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے۔ اور ایک نالے میں مال تقسیم کرنے کو اترے۔ نالے کے کنارے ہم تھے۔ ہم نے کہا بہتر ہے کہ ہم اس وقت حضورِ غوثِ اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر حضور کے لیے کچھ مال نذر مانیں۔ ہم نے حضور کو یاد کیا ہی تھا کہ دو عظیم نعرے سننے۔ جن سے جنگل گونج اُٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آپڑے۔ یہ اگر ہم سے بولے آؤ اپنا مال لے لو۔ اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑھی۔ پھر ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ دونوں مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک کھڑاؤں پانی سے بھیکی رکھی ہے۔ ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال ہمیں پھیر دیئے اور کہا اس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے۔

مسلمانوں! تم نے دیکھا کہ دور دراز مقام پر لوٹے جانے والے محبت کے متوالے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور پروردگار اس پر مطلع ہو کہ بغداد معلیٰ میں تشریف آرزانی فرماتے ہوئے، ان مصیبت زدہ مسلمانوں کی حاجت روائی کے لیے اپنی دونوں کھڑاویں ہوا میں پھینک دیتے ہیں اور وہی کھڑاویں، ان کے دشمنوں کا کام تمام کر کے، ان غریب الدیار مسلمانوں کی فریادیں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذریں قبول فرماتے۔ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نذریں کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی و شرعی نہیں۔ بلکہ عرفی ہیں کہ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ پیش کرتے ہیں اُسے نذر و نیاز کہتے ہیں۔ یا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے دربار کیا اُسے نذریں گذاریں۔ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ

عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذوریں لکھتے ہیں۔ نذریہ اسے استعمال میں نہ رہے
 نہ بر معنی شرعی ست۔ چہ عرف آنست کہ انچہ پیش بزرگان می برند، نذریہ نامند
 یہ بحث پہلے گزر چکی۔ اس لیے ہم مذکورہ بالا عنوان کو ایک اور نفیس حکایت کے ذکر
 پر ختم کرتے ہیں۔

۷۔ اسی کتاب مستطاب میں باہمی امام بے نظیر فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو زید عبدالرحمن
 بن سالم بن احمد قرشی نے خیر دہی کہ میں نے عارف باللہ ابو الفتح بن ابی العناتم سے
 اسکندریہ میں سنا کہ اہل بطائح سے ایک شخص، دبلا بیل کھینچتا ہوا ہمارے شیخ
 حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور لایا اور عرض کی "اے میرے آقا!
 میرا اور میرے بال بچوں کی روزی کا ذریعہ یہی ایک بیل ہے۔ اور اب یہ ضعیف ہو
 گیا ہے۔ اس کے لیے قوت و برکت کی دعا فرمائیے" حضرت نے فرمایا، شیخ عثمان
 بن مرزوق (بطائحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس جا۔ اور انہیں میرا سلام کہہ۔ اور
 ان سے میرے لیے دعا چاہ۔ وہ بیل کو لے کہ یہاں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ حضرت سیدی
 عثمان تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد شیر حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ یہ پاس حاضر ہوتے ڈرا۔
 فرمایا "آگے آ۔" قریب گیا۔ قبل اس کے کہ یہ حضرت رفاعی کا پیام پہنچائے۔ سیدی
 عثمان نے خود فرمایا کہ "میرے بھائی شیخ احمد پر سلام۔ اللہ میرا اور ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے،
 پھر ایک شیر کو اشارہ کیا کہ اٹھ اس بیل کو بچھاؤ۔ شیر اٹھا اور بیل کو مار کر اس میں
 سے کچھ کھایا۔ حضرت نے فرمایا اب اٹھ آ۔ وہ اٹھ آیا۔ پھر دوسرے شیر سے فرمایا
 اٹھ، اس میں سے کھا۔ وہ اٹھا اس میں سے کچھ کھایا۔ پھر اسے بلا لیا اور تیسرا شیر بچھا۔
 یوں ایک ایک شیر بھجوتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سارا بیل کھالیا۔ اتنے میں
 کیا دیکھتے ہیں کہ بطیح کی طرف سے ایک بہت فریب بیل آیا اور حضرت کے سامنے کھڑا
 ہوا۔ حضرت نے اس شخص سے فرمایا "اپنے بیل کے بدلے یہ بیل لے لو" اس نے اس
 بیل کو بچھڑا تو لیا مگر کہتا تھا۔ میرا بیل تو مارا گیا۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس بیل کو
 میرے پاس پہچان کر مجھے ستائے۔ ناگاہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے

دست مبارک کو بوسہ دے کہ عرض کی۔ "اے میرے مولیٰ میں نے ایک بیل حضور کی نذر کار کھا تھا۔ اُسے لطیحہ تک لایا۔ وہاں سے میرے ہاتھ سے چھین گیا۔ معلوم نہیں کہاں گیا۔ فرمایا وہ ہمیں پہنچ گیا۔ یہ دیکھو! یہ تمہارے سامنے ہے۔" وہ شخص قدموں پر گر پڑا اور حضرت کے پائے مبارک چوم کر بولا۔ "اے میرے مولیٰ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ہر چیز کی معرفت بخشی اور ہر چیز یہاں تک کہ جانوروں کو حضرت کی پہچان کرا دی۔" حضرت نے فرمایا، یا ہذا انّ الجیب لا یخفی عن حبیبہ شیئاً و من عرف اللہ عزوجل عرفہ کل شیء۔ اے شخص بے شک محبوب اپنے محبوبوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا۔ جسے اللہ کی معرفت ملتی ہے اللہ اُسے ہر چیز کا علم عطا فرماتا ہے۔"

پھر اُس بیل والے سے فرمایا کہ تو اپنے دل میں میرا شاکی تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بیل تو مارا گیا اور خدا جانے یہ بیل کہاں کا ہے۔ مبادا اُسے کوئی پہچان کر مجھے ایذا دے۔ یہ سن کر بیل والا رونے لگا۔ فرمایا کیا تو نے نہ جانا کہ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں جا اللہ اس بیل کو تجھ پر مبارک کرے۔"

وہ بیل لے کر چند قدم چلا۔ اب اُسے یہ خطرہ گذرا کہ مبادا مجھے یا میرے بیل کو کوئی شیر آڑے آئے۔ فرمایا شیر کا خوف ہے۔ عرض کی ہاں۔ حضرت نے جو شیر سامنے حاضر تھے، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اُسے اور اُس کے بیل کو بحفاظت پہنچا دے۔ شیر اٹھا اور ساتھ بولیا۔ اُس کے پاس سے شیر وغیرہ کو دور کرتا۔ کبھی اُس کے دلہنے کبھی بائیں، کبھی پیچھے چلتا۔ یہاں تک کہ وہ امن کی جگہ پہنچ گیا۔ اور اپنا قصہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ حضرت روئے اور فرمایا، ابن مرزوق کے بعد ان جیسا پیدا ہونا دشوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس بیل میں برکت رکھی کہ وہ شخص بڑا مالدار ہو گیا۔

(السینۃ الایقہ فی فتاویٰ افریقیہ)

مسلمان اس واقعہ پر بنگاہ ایمان غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ :-

۱۔ اولیائے کرام قدس است اسرارہم علوم غیب پر مطلع ہوتے گئے ہیں

- ۲۔ انہیں کارخانہ عالم میں تصرفات کا اختیار منجانب اللہ عطا فرمایا گیا ہے۔
 ۳۔ اولیاء سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز مخفی نہیں رکھتا۔
 ۴۔ دلوں کے خطروں اور اندیشوں سے بھی انہیں واقفیت بخشی جاتی ہے۔
 ۵۔ اولیاء اللہ کو اور ان کی عظمت کو جانور تک پہچانتے ہیں۔
 ۶۔ جنگلی درندے اُن کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔
 ۷۔ اُن کی دُعاؤں کی برکت سے، بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔
 ۸۔ اُن کے لیے نذریں ماننا، قدیم سے مسلمانوں میں رائج ہے اور یقیناً جائز۔
 ۹۔ اُن کے لیے مانی ہوئی نذروں کو پورا کرنا، عامۃ المسلمین میں ہمیشہ سے مروج چلا آ رہا ہے۔

۱۰۔ اولیائے کرام باہم بھی ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ مگر وہاں کی کور باطنی کا کیا علاج؟ ان کی خرافات اور وہابی تباہی۔ خواہی خواہی باتوں پر جایتے اور ان پر کان لگائیے تو خود اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے ایقان کو داؤ پر لگائیے۔
 مولائے کریم ہر مسلمان کو اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے۔

۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ



پانچواں مسئلہ ○ جماعتِ ثانیہ

یہ مسئلہ سلف سے مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کراہیت، اور امام ابو یوسف سے بعض شرائط کے ساتھ جواز منقول ہے۔ اور تمیز صحیح و تصحیح دونوں جانب موجود ہے۔ اس میں بھی گفتگو کو طول دینا، نازیبا ہے۔ کیونکہ جانبین کو گنجائش عمل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قولوں میں یوں تطبیق دی جائے کہ اگر جماعتِ اولیٰ، کاہلی اور سستی سے فوت ہو گئی ہے، اور جماعتِ ثانیہ میں شرکت کرنے سے منع کرنا اس شخص کے لیے موجب زجر و تنبیہ ہوگا۔ اس کے لیے جماعتِ ثانیہ کی کراہیت کا حکم کیا جائے۔ اور قائلین بالکراہیت کی تعلیل، تعلیلِ جماعتِ اولیٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی معقول عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔

۹۳ جماعتِ ثانیہ یا تکرارِ جماعت کی مختلف صورتیں ہیں اور اسی اعتبار سے اس کے احکام بھی جداگانہ۔ اور ضابطہ و قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے کہ جب جماعتِ اولیٰ، اہل مسجد یا اہل مذہب کی نہ ہو۔ یا اپنے مذہب میں فاسدہ یا مکروہ ہو تو ہمیں جماعتِ ثانیہ کی مطلقاً اجازت ہے۔ بلکہ در صورتِ کراہیت، اس امر کی رخصت ہے کہ جماعتِ اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں جبکہ جماعتِ ثانیہ، نظیہ بہر کراہیت سے پاک مل سکتی ہو۔ اور فساد کی صورت میں مثلاً جماعتِ اولیٰ کا امام، نماز میں ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، تو اس میں شرکت ہی سے صاف ممانعت ہے۔ اگرچہ جماعتِ ثانیہ بھی

میسر نہ ہو۔

اب اس ضابطہ کی روشنی میں جماعتِ ثانیہ سے متعلق چند مسائل سنئے :-
۱۔ تکرارِ جماعت کی وہ صورتیں جن میں اصلاً نزاع و اختلاف کی گنجائش نہیں،

یہ ہیں :-

۱۔ جو مسجد شارعِ عام یا بازار یا اسٹیشن یا سرائے کی ہے جس کے لیے اہل معین نہیں وقت پر جو لوگ گزرے یا اترے یا اٹھے، نماز پڑھ گئے۔ غرض کسی محلہ خاص سے خصوصیت نہیں رکھتی، تو ایسی مسجد میں بالاجماع تکرارِ جماعت، اذانِ جدیدہ و تکبیرِ جدیدہ کے ساتھ جائزہ۔ بلکہ یہی شرعاً مطلوب ہے کہ ہر آنے والا گروہ، نوبت یہ نوبت جدا جدا اذان و اقامت سے جماعت کرے۔

۲۔ مسجد محلہ جس کے لیے جماعتِ معین، امامِ معین ہے اور اُس مسجد میں اقامتِ جماعت انہیں کا حق ہے، اگر ان کے بغیر جماعت کر گئے تو اہل محلہ کو تکرارِ جماعت بلاشبہ جائز ہے کہ حق اہل محلہ کا تھا۔ جبکہ امام کی طہارت، قرأتِ عقیدے اور عمل میں کوئی خلل نہ ہو۔

۳۔ بعض اہل محلہ ہی جماعت کر گئے مگر بے اذان پڑھ گئے۔ یا اذان بھی وہی تھی مگر آہستہ۔ ان دونوں صورتوں میں بھی بعد کو آنے والے باذانِ جدیدہ پر وجہِ سنت، جماعت کا اعادہ کریں۔ کہ جماعتِ معتبرہ وہی ہے جو اذان سے ہو اور اذان وہ جو اعلان سے ہو۔

۴۔ جس نے جماعتِ اولیٰ کی امامت کی، فاسق العقیدہ، بد مذہب، بدعتی تھا۔ یا فاسق معلن تھا۔ مثلاً دارِ ہی منڈا یا شرابی یا آوارہ منش، کہ یہ لوگ ان بد مذہبوں کے مولویوں متقیوں سے بھی اگرچہ لاکھ درجے بہتر حال میں ہیں کہ ایمان کا دامن تو داغدار نہیں، پھر بھی ان کی اقتداء شرعاً نہایت ناپسند۔ انہیں امام بنانا گناہ اور نماز ان کی اقتداء میں مکروہ تحریمی۔ جبکہ بد مذہبوں کی اقتداء بکراہت شدیدہ سخت مکروہ۔ سخت ناپسندیدہ۔

(ب) تکرار جماعت کی وہ صورتیں جو شرعاً ممنوع و مکروہ و بدعت ہیں :-

۱- مسجد، مسجدِ محلہ ہے اور اہل محلہ، بروجہ سنون اذان دے کر، امام موافق المذہب سالم العقیدہ، متقی، نماز و طہارت کے مسائل سے واقف، صحیح حوال کی اقتداء میں نماز ادا کر چکے، اب غیر لوگ، یا اہل محلہ ہی جو باقی رہ گئے تھے وہ آئے۔ اور چاہتے ہیں کہ باذانِ جدید، ہیئتِ اولیٰ پر، دوسری جماعت کریں تو مکروہ تخریمی ہے جبکہ امام محرابِ مسجد میں کھڑا ہو۔

۲- جماعتِ ثانیہ کے لیے دوبارہ اذان و اقامت تو نہ ہوئی البتہ امام نے محرابِ مسجد میں (یعنی جہاں جماعتِ اولیٰ کا امام کھڑا ہوتا ہے، خواہ صحنِ مسجد ہو یا اس کا مسقف رچھیت والا حصہ) کھڑے ہو کر جماعتِ ثانیہ کرائی تو یہ صورت مکروہ تنزیہی ہے۔

۳- قصداً بلا وجہ شرعی، امام معین کے ساتھ، جماعتِ اولیٰ فوت کر دی۔ اور اب جماعتِ ثانیہ قائم کریں تو یہ حرکت قابلِ مذمت اور سخت ناپسندیدہ و مبغوض ہے کہ اس میں تفریقِ جماعتِ المسلمین ہے اور یہ ناجائز۔

فائدہ مہم

اہل ضرورت کہ امام معین سے پہلے اپنی جماعت کر لیں، وہ تفریقِ جماعت کے الزام سے برہی اور جماعتِ اہل محلہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ مثلاً جماعتِ اولیٰ کا ابھی وقت نہ آیا اور انتظار میں رہیں کہ وقت نہ رہے گا یا کوئی دشواری پیش آئے گی یا یہ لوگ کسی مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو شرعِ مطہر کا ہرگز یہ حکم نہیں کہ یہ لوگ مجتمع ہوتے ہوئے بھی جماعت نہ کریں، اپنی اپنی الگ پڑھیں اور رافضیوں سے تشبہ کریں البتہ امام اور اہل محلہ کے حق میں یہ جماعت، جماعتِ اولیٰ نہ ہوگی۔

بِالْجَمْعِ جَمَاعَتِ ثَانِيَةٍ، جس طرح عموماً ان بلاد میں رائج اور عام مسلمانوں میں معمول ہے، قول صحیح و مفتی بہ پر بلا کر اہت جائز ہے۔ کہ دوسری جماعت والے، نہ دوبارہ اذان کہتے ہیں نہ نئی تکبیر پڑھتے ہیں اور محراب یعنی وسط مسجد سے ہٹ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم پر لازم کہ ائمہ فتویٰ جس امر کی تہجیح و تصحیح فرمائے اُس کا اتباع کریں۔ پھر صحیح مذہب کا خلاف اختیار کر کے اُسے ناجائز و ممنوع بتانا، اور اُس کے سبب لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو گناہگار ٹھہرانا محض بے جا ہے۔

ہم نے یہ تمام مضامین فتاویٰ رضویہ سے اخذ کیے۔ مزید تفصیل کے لیے اُس کا مطالعہ فرمائیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بہار نے اسی فتاویٰ میں ارشاد فرمایا:-

شَرُّ اقْوَالٍ حَالِ زَمَانَةٍ كِي رِعَايَةِ اَوْر مَصْلِحَتِ وَقْتِ كَالْحَاظِ بِي مَفْتِي پَر
 وَاجِبٌ - علماء فرماتے ہیں مَنْ لَوْ يَعْرِفُ اَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ - اب دیکھئے نا
 کہ جماعت ثانیہ کی بندش میں، کوشش و کاوش سے یہ تو نہ ہوا کہ عوام، جماعت اولیٰ
 کا التزام تام کر لیتے۔ رہا وہی کہ کچھ آئے کچھ نہ آئے۔ ہاں یہ ہوا کہ آٹھ آٹھ دس دس
 جو رہ جاتے ہیں، ایک مسجد میں، ایک وقت میں اکیلے اکیلے نماز پڑھ کر ناسحق و وافض
 سے مشابہت پاتے ہیں۔ حضرات مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے
 زمانہ میں ایسی مشابہت پیدا ہونا درکنار، خود جماعت کی برکاتِ عالیہ، ظاہر یہ و
 باطنیہ سے محروم رہنا، ایک سخت تازیانہ تھا۔ جس کے ڈر سے عوام، خواہی نخواستہ
 جماعت اولیٰ کی کوشش کرتے۔ اب وہ خوف بالائے طاق اور اہتمام التزام معلوم
 جماعت کی جو قدرے وقعت نگاہوں میں ہے کہ اگر رہ گئے اور تنہا پڑھی تو ایک
 طرح کی خجالت و ندامت ہوتی ہے، جب بفتویٰ مفتیاں یہی انداز رہے اور اگر وہ
 کے گروہ اکیلے اکیلے پڑھا کیے، تو ایک تو مرگ انہوہ جشنے دارو، دوسرے شدہ شدہ
 عادت پڑ جاتی ہے۔ چند روز میں یہ رہی سہی وقعت بھی نظر سے گر جائے گی۔

اس کے ساتھ ہی سستی و کاہلی اپنی نہایت پر آئے گی۔ اب تو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ خیر اگر پہلی فوت ہوئی تو ایسی دیر تو نہ کیجئے کہ اکیلے ہی رہ جائیں اور تنہا پڑھ کر محرومی و ندامت کا صدمہ اٹھائیں۔ جب یہ ہوگا کہ جماعت تو آخر ہو چکی اول ہو چکی، اب جماعت تو ملنے سے رہی۔ اپنی اکیلی نماز ہے۔ جب جی میں آیا پڑھ لیں گے۔ یا پھر مسجد ہی کی کیا حاجت ہے۔ لاؤ گھر ہی میں سہی۔

یا ہذا ائمہ فتویٰ رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سوچ سمجھ کر، ترجیح و تہجیح فرمایا کرتے ہیں۔ من و تو سے ان کے علوم وسیعہ و عقول رفیعہ، لاکھوں درجے بلند و بالا ہیں۔ روایت و درایت و مصالح شریعت و زمانہ و حالت کو جیسا وہ جانتے ہیں دوسرا کیا جانے۔ پھر ان کے حضور و دخل در معقولات کیسا۔ واللہ الہادی و ولی الایادی۔

تنبیہ

مگر یہ ان کے لیے ہے جو احیاناً کسی عذر کے باعث، حاضری جماعت اولیٰ سے محروم رہے، نہ کہ جماعتِ ثانیہ کے بھروسے پر قصداً بلا عذر مقبول شرعی جماعت اولیٰ ترک کر دیں۔ یہ بلا شبہ ناجائز ہے۔ انتہی کلامہ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

یا کوئی شخص ایسا لا ابالی ہے کہ جماعتِ ثانیہ سے منع کرنا، اُس کے حق میں کچھ موجب زجر نہ ہوگا۔ بلکہ تنہا پڑھنے کو غنیمت سمجھے گا۔ جلدی سے چار ٹکڑیں مار کر رخصت ہوگا۔ تو ایسے شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ۔ بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی قدر تعدیل و اطمینان سے ادا کرے گا۔ عملدرآمد اس مسئلہ میں بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے۔ کہ ہر فریق، دوسرے فریق کو عمل بالذلیل کی وجہ سے محبوب رکھے۔ اور جہاں جماعتِ ثانیہ نہ ہوتی ہو، وہاں تنہا پڑھ لے۔ خواہ مخواہ جماعت نہ کرے

اور جہاں ہوتی ہو، شریک ہو جاوے مخالفت نہ کرے۔
یہ پانچ مسئلے تو عملی تھے۔ اب دو مسئلے علمی باقی رہ گئے
ہیں، وہ مرقوم ہیں۔

۹۲۔ اس کا نجوبی اندازہ اس حدیث شریف سے ہوتا ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر
خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ فرمایا وعلیک السلام۔ جاؤ نماز (دوبارہ)
پڑھو کہ تمہاری نماز نہ ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی۔ پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔
فرمایا وعلیک السلام جاؤ نماز پڑھو کہ (اب بھی) تمہاری نماز نہ ہوئی۔ تیسری بار یا
اس کے بعد عرض کی۔ یا رسول اللہ! مجھے تعلیم فرمائیے۔ کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے
ارشاد فرمایا۔ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو۔ (آداب و مستحبات و ضوکی
رعایت کے ساتھ) پھر قبلہ کی طرف موندھ کر کے اللہ اکبر کہو۔ پھر قرآن پڑھو جتنا میسر
آئے۔ پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے
کھڑے ہو جائے۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے۔ پھر اٹھو یہاں
تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے۔
پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح نماز پوری کرو۔

فقہائے کرام نے تعدیل ارکان کو واجباتِ نماز میں شمار فرمایا ہے۔ یعنی رکوع و
سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سُبْحَانَ اللَّهِ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ یوہیں
قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔
تو عوام بیچارے، غفلت و لاپرواہی کے مارے، خصوصاً اس دور میں، کہ سستی
و کسل نے دلوں میں جگہ پائی اور نماز میں کامل حستی و مستعدی کہ صدرِ اول میں مطلقاً مسلمان
کا شعار تھی۔ لوگوں سے چھوٹ چلی، وہ تعدیل ارکان کا کیا لحاظ رکھیں گے۔ یہی ہو گا کہ الٹی

سیدھی چوروں کی سی نماز پڑھیں گے اور بھاگیں گے مسجدوں سے نکل کر۔ تو ایسی حالت میں اگر جماعت اُولی سے بچھڑ جانے والے، اگر کسی صحیح نماز پڑھنے والے، صحیح العمل مسلمان کی اقتداء میں جماعتِ ثانیہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے اور انہیں اس سے روکنا مقاصدِ شرع سے غفلت ہے۔ گذشتہ صفحات میں امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ کے کلماتِ طیبہ گزرے۔ قارئین کرام انہیں پھر پڑھ لیں۔ اور اندازہ لگائیں کہ عوام کالانعام کے حق میں جماعتِ ثانیہ کی بندش میں کوشش و کاوش بہتر ہے یا یہ کہ جماعتِ ثانیہ کی ظاہری و باطنی برکتوں سے انہیں بہرہ مند ہونے میں۔ اسی طرح نمازیں بھی ان کی درست ادا ہوں گی اور جماعت کی اہمیت بھی ان کے پیش نظر رہے گی۔

ضروری الملاحظہ

وضو و غسل و سجدہ میں عوام کی وہ بے احتیاطیاں، جن سے نمازیں باطل ہوتی ہیں اور انہیں پروا نہیں، مثلاً

- ۱۔ وضو میں کہنیاں، ایڑیاں، کلائیوں کے بعض بالوں کی نوکیں اکثر خشک جاتی ہیں۔
- ۲۔ اور یہ تو عام ہلا ہے کہ مونہ دھونے میں پانی ماتھے کے حصّہ زیریں پر ڈالتے ہیں اور اوپر بھیکھا ہاتھ چڑھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ تو ماتھے کے بالائی حصّے کا مسح ہوا غسل یعنی دھونا تو نہ ہوا۔ اور فرض ہے دھونا۔ اور کسی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس عضو کے ہر حصّہ پر کم از کم دو بوند پانی بہ جائے۔ بھیک جانے یا تیل کی طرح چھڑ لینے، یا ایک آدھ بوند، بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اور نہ نماز درست۔

۳۔ غسل میں فرض ہے کہ پانی سونگھ کر، ناک کے نرم بائسے تک چڑھایا جائے۔ بال برابر

جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ ورنہ غسل نہ ہوگا۔ دریافت کر دیکھئے کتنے ایسا کرتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا۔ اور ناک کی نوک کو لگا لیا۔ چلیئے استنشاق کہ غسل میں فرض تھا ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح غسل ہی نہ ہوا۔ تو ایسی لاپرواہی برتنے والے غافل و کلمند ہر وقت جنب رہتے ہیں۔ انہیں مسجد میں جانا تک حرام ہے۔ نماز درکنار۔

۴۔ سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو۔ اور مہر پاؤں کی اکثر یعنی تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر چما ہونا واجب ہے۔ یوں ہی ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب ہے۔ بہتیروں کی ناک زمین پر لگتی ہی نہیں اور اگر لگی تو وہی ناک کی نوک۔ تو یہ ترک واجب و گناہ ہوا۔ اور عادت کے سبب فسق۔ پاؤں کو دیکھئے انگلیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں۔ کسی انگلی کا پیٹ بچھا نہیں ہوتا۔ تو سجدہ باطل تو نماز باطل۔ اس لاپرواہی کی بدولت، عمر بھر کی نمازیں اکارت گئیں اور یہ کہلائے نمازی۔

۵۔ نماز میں قرأت فرض ہے یعنی جتنا میسر آئے قرآن پڑھنا۔ اور قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف قرآن، مخارج سے ادا کئے جائیں۔ کہ ہر حرف، بغیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی اور ہر حرف کو صحیح طور پر اس کے مخارج سے ادا کیا۔ مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ بھی نہ سنا۔ اور کوئی مانع۔ کوئی رکاوٹ نہیں۔ کہ آدمی نہ بہ رہے نہ اسے ثقل سماعت کا عارضہ ہے اور نہ کوئی ایسا شور و غل ہے کہ آواز سنائی نہ دے تو نماز ہی نہ ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے۔ کتنے ہیں جو اس فرض کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز میں مصروف ہیں مگر لب بند۔ ہونٹ سلیے ہوئے۔ یا معمولی سی جنبش و حرکت میں کہ کانوں تک پہنچا درکنار، آواز سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ فرض چھوٹا۔ مگر اپنے زعم میں یہ نماز ہی کے نماز ہی ہی بنے رہے۔

۶۔ قیام نماز میں فرض ہے مگر عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے، خصوصاً عورتوں میں کہ جہاں ذرا بخار آیا، یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی۔ حالانکہ

آدمی اگر عصا یا خاقم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔

۷۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے اعضاء چمکیں، نماز نہیں ہوتی۔ مگر گرمیوں میں مرد ایسے باریک کپڑے مثلاً تہ بند باندھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے بدن کی سرخی یا سیاہی بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ ایسے تہ بند سے نماز کہاں ہو سکتی ہے اور عورتیں تو ایسے دوپٹے پہن کر نماز میں کوئی حرج ہی نہیں جانتیں جن سے بالوں کی سیاہی چمکے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ دوپٹہ جن سے بالوں کی سیاہی چمکے، مفسد نماز ہے۔

رکوع و سجود کا مستنون طریقہ

سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں یا ایک آیت کہ تین کے برابر ہو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاٹے۔ یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے اور اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے لام کو بڑھائے۔ (اکبر کی ب وغیرہ کو نہ بڑھائے) اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں۔ نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں۔ اور نہ یوں کہ چار انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف فقط انگوٹھا۔ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھے۔ (کھان کی طرح ٹیڑھی نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے) اور بلٹھیہ کو خوب بچھائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ اور سر بلٹھیہ کے برابر ہو۔ اونچا نیچا نہ ہو اور کم از کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے۔ العظیم کی میم رکوع ہی میں زبان سے ادا ہو۔ نہ کہ رکوع سے اٹھتے اٹھتے اور رکوع

میں پشتِ قدم پر نظر رکھے۔ پھر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اور جب اُٹھے تو ہاتھ نہ باندھے لٹکا ہو چھوڑ دے۔ اور منفرد (تنہا نماز پڑھتا) ہو تو اس کے بعد اللّٰهُمَّ بِنَاوَلِكَ الْحَمْدَ بھی کہے۔ کہ منفرد کے لیے دونوں گلے کہنا سنت ہے۔

پھر اللّٰهُ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ یوں کہ پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے۔ پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے۔ یوں کہ دونوں انگوٹھے، دونوں کانوں کی نوک کے مقابل رہیں۔ اور سر یوں نہ رکھے کہ صرف پیشانی زمین سے چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے۔ بلکہ ناک اور پیشانی کی ہڈی جھائے۔ اور بازوؤں کو کروٹوں سے۔ پیٹ کو رانوں سے۔ اور رانوں کو پٹلیوں سے جدا رکھے۔ اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ کوشش سے زمین پر قبلہ رو جھائے۔ اور ہتھیلیاں بچھا کر کہنیاں اٹھالے۔ کتے کی طرح کلاٹیاں نہ بچھائے۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رو رکھے۔ مگر جب صاف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا رکھے تاکہ دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کم از کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہے۔ سجدے میں ایک پاؤں اٹھا ہوا رکھنا مکروہ و ممنوع ہے۔ یہاں بھی اس کا خیال رکھے۔ کہ سُبْحَانَ کی س اور الْأَعْلَى کا الف سجدے میں ادا ہو۔ اور نظر ناک کی طرف رہے۔ پھر اللّٰهُ اکبر کہتا ہوا سر اٹھائے۔ یوں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ۔ اور دایہا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے، اور بائیں قدم بچھا کر، اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے۔ اور ہتھیلیاں بچھا کر، رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھے۔ کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ اور انگلیوں کا رخ قبلہ کو۔ پھر اللّٰهُ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے۔

مکرر و بالتاکید عرض کیا جاتا ہے کہ قرأت نام ہے پڑھنے کا۔ اور پڑھنا نہ ہو کا مگر زبان سے۔ دل میں تصور کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ یوں ہی تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سُبْحَانَ اللّٰهِ کہنے کی مقدار مٹھہرنا، واجب ہے۔

جلدی جلدی اٹھک بیٹھک اور مرع کی طرح ٹھونگیں مارنا، نمازوں کو برباد کرنا ہے۔
اسی طرح سجدے میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت اور
ہر پاؤں کے تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ اور پیشانی کا زمین پر
چمنا سجدہ کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے۔

رد مختار فتاویٰ رضویہ وغیرہ ۱۲۱



چھٹا و ساتواں مسئلہ

امکان نظیر و امکان کذب

ان دو مسئلوں کی تحقیق تفصیلی سمجھنا، موقوف علم حقائق پر ہے اور ان میں
دقیق ہے۔ مگر مجلاً دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ایک اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ دوسرے سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ
یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے مثل خلف القول و اخبار غیر
واقعہ وغیرہا۔ ان سب سے پاک ہے۔ رہا یہ تحقیق کرنا کہ کون چیز مفہوم
شیئی میں داخل ہے کہ اس پر قادر کہا جائے۔ اور کون چیز عیب و نقصان
سے ہے کہ اُس سے تنزیہ کیا جائے۔ سو جس جگہ دلائل متعارض ہیں
وہاں اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں۔

۹۵۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں مسئلے، بڑے معرکہ الآراء مسائل
سے ہیں اور ان کے دقائق پر بحث کرنا، اہل حقائق ہی کا کام ہے۔ ہم جیسے سچدانوں
کی کیا مجال کہ ان دشوار گزار راہوں سے امن و امان اور سلامتی دین و ایمان کے
ساتھ گزر جائیں۔ باایں ہمہ یہ بھی نہیں کہ اس باب میں عقیدہ صحیحہ و اعتقادِ حق سے
جاہل محض اور بالکل غافل رہیں۔ اور دُردِ درجیم کے لیے راہ کشادہ رکھیں کہ وہ ہمارے
دین، ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاداتِ حقہ کو تماشہ بنا کر، عوام کو اپنے گروہ
میں داخل، اور اپنے پسروں میں شامل کر دے اور عامۃ المسلمین کو، اُن کی ناواقف،

محض اور جہالت کے باعث وادی ضلالت میں ڈھکیل دے۔ اس لیے ہم اپنا دامن سمیٹے یہ نہایت اختصار ان دونوں مسئلوں پر اجمالی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ توفیق ہدایت رب عزوجل کے دست قدرت میں ہے وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ وَبِالتَّوْفِيقِ

۱۔ مسئلہ امکانِ نظیر

ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث کے ارشادِ پر مبنی عقیدہ ہے کہ حضور اقدس سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ صحابہ وبارک وسلم و شرف و کرم افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہیں اور آپ کا تمام خلق اللہ، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین و ملئکہ مقربین، سب سے افضل و اعلیٰ و بلند و بالا ہونا، ایسا قطعی ایمانی یقینی اذغانی اجماعی یقینی مسئلہ ہے جس میں خلاف نہ کرے گا۔ مگر گمراہ بددین بندہ شیاطین۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہی سب سے اولیٰ و اعلیٰ و برتر و بالا ہیں تو ان کا کوئی نظیر، کوئی مثیل، کوئی ہمسر اور کوئی عدیل نہیں۔ اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع مخلوق الہی سے افضل و اعلیٰ ہونا، بایں معنی ہے کہ اوروں کو فرداً فرداً جو کمالات عطا ہوئے ہیں، حضور میں وہ سب جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا، اوروں نے جو کچھ پایا حضور کے طفیل میں ملا۔ حضور کے دست اقدس سے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، سارے جہاں کے لیے، جس میں انبیاء و مرسلین و ملئکہ مقربین سب داخل ہیں، رحمت و نعمت رب الارباب ہیں۔ اور وہ سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار، عالم مدار، سرسبز سرکار سے بہرہ مند و فیضیاب ہیں۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ یہ ہے۔ اور حضور اپنے رب عزوجل کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور کا کمال، کسی وصف سے نہیں۔ بلکہ اُس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر، خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے۔ اُس کو کامل بنادے اور اسی عقیدہ یقینیہ ایمانیہ کا حاصل یہ ہے کہ ان صفات کمال و نعوت بجمال میں جو خصائص مصطفیٰ میں شمار ہیں۔ یعنی جن کا مصداق صرف اور صرف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات مقدسہ ہے۔ حضور کا مساوی و ہمسر حضور کا مماثل و برابر، کسی اور کا پایا جانا،
ممتنع ذاتی اور محال عقلی ہے۔ یعنی محال ہے کہ کوئی دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔
اور ممتنع ہے کہ کوئی غیر، حضور کا نظیر ہو۔ تو جو کسی صفت خاصہ میں، کسی کو حضور کا مثل بتائے
وہ گمراہ ہے یا کافر۔

مثلاً حضور اقدس سرور عالم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ
عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا۔ آپ ہی سب سے آخری نبی ہیں حضور کے زمانہ
میں یا بعد، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و مفسرین و اولیائے
کرام و علمائے عظام، سب سے لے کر آج تک خاتم النبیین کے یہی معنی، بتائے سمجھائے
اور مانے جا رہے ہیں۔ اور یہی معنی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر حدیثوں
میں بتائے تو قطعاً یہی معنی آیت کریمہ کی مراد ہیں۔

یہ معنی اور ان معنی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل علیہ اور مدارج
جلیلہ سے ہونا، ضروریات دین سے ہے۔ تو اس معنی کا انکار، یا ان کی تاویل و تحویل،
ضروریات دین کا انکار، اور شدید توہین و تنقیص شان حضور اقدس حضور پر نور سید الابرار
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اس دینی ضروری کا انکار کرے، اور حضور کے زمانہ میں یا حضور
کے زمانہ اقدس کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے، یا اسے جائز جانے، وہ یقیناً قطعاً کافر
ہے۔ اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے اس عقیدہ پر مطلع ہو کہ اُسے مسلمان جانے، اگرچہ
ادنیٰ اور جہ کا، یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے، وہ خود کافر و مرتد اور اسلامی برادری
سے خارج ہے۔

یہ مسئلہ و عقیدہ ایسا مسئلہ و عقیدہ نہیں کہ اسے محبت بنا کر مسلمانوں کے دین
و ایمان سے کھیلا جائے اور نام نہاد علمی مشوکافیوں کے انبار لگا کر، عوام مسلمین کو حیرت
و استعجاب کے ورطہ ظلمات میں دھکیل کر، اپنے نام کا جھنڈا بلند کیا جائے۔ اس مسئلہ
یقینیہ کا انکار کرنے والے پہلے اپنے ایمان کی خبر لیں۔ کہ خیر سے سلامت بھی ہے یا
نہیں۔ مگر ان مخالفین محاسن جلیلہ اور محامد جمیلہ کو یہ دولت سلامتی ایمان کہاں نصیب۔

کہ ان کے تیرہ دلوں میں سارا غنیمت و غضب تو اسی بابت پر ہے کہ دینے والے نے انہیں زمین کی کنجیاں، آسمان کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، آخرت کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں، عرض سارے جہانوں کی ساری کنجیاں دے کر، انہیں تمام جہان پر حاکم، اور تمام جہان کو ان کا محکوم بنا دیا۔ ملکوت السموات والارض کو ان کے زیر فرمان اور خسر وان عالم کو ان کی بارگاہ عرش اشتباہ کا نیاز مند کر دیا۔ عرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات، جن میں آپ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین و ملک مقربین پر فائق و افضل ہیں اور جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے شمار ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے خصائص کبریٰ میں ڈھائی سو کے قریب حضور کے خصائص جمع کیے یعنی وہ کمالات جلیلہ جو کسی نبی و رسول نے نہ پائے اور یہ صرف ان کا علم تھا۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے تھے۔ اور علمائے ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر تمام علوم خلاق، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اعظم سے ہزاروں منزل ادھر منقطع ہیں جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و خصائل جانتے ہیں دوسرا کیا جانے۔ اور حضور سے زیادہ علم والا، ان کا مالک و مولیٰ اجل و علا۔ ان الیٰ مراتبک المنتہی۔ جس نے انہیں ہزاروں فضائل عالیہ و جلال غالیہ دیئے۔ اور سجد و بے شمار ابدال آباد کے لیے رکھے۔ اور صاف فرمایا کہ وللآخرة خیرک من الاولی۔ (بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے) کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوص مورود، و خیر موعود و لوا، معقود، اور تمام انبیاء و رسل پر تقدّم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا۔ اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا۔ اور بے انتہا عزتیں اور لاتعداد کرامتیں ہیں۔ وہاں جو نعمتیں حضور کو ملیں گی، نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنیں۔ نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئیں۔

اسی لیے حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجناب صدیق اکبر

سے فرماتے ہیں یا ابا بکر لَم يَعْرِفُنِي حَقِيقَةً عَيْرِ رَبِّي - اے ابو بکر مجھے ٹھیک
 اٹھیک جیسا میں ہوں، میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔
 نَسْرَ اَچِنَاں کہ توٹی دیدہ کجا بئیند
 بقدر بنیش خود، ہر کسے کند اور اک

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ اَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّم -
 خود قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ط
 مِنْهُمْ مِّنْ كَلِمَةٍ اللّٰهُ وَمَنَّا فَعَ بَعْضَهُمْ دَسَّ جَت - یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں
 بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کچھ ان میں وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور ان میں بعض کو
 درجوں بلند فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں اس بعض سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ
 وسلم مراد ہیں کہ انھیں سب انبیاء و مرسلین پر رفعت و عظمت بخشی۔ انہیں درجوں بلند
 فرمایا۔ ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ احادیث میں حضور نہیں۔
 روایات میں مقصود نہیں۔ تو اب کس میں جرأت ہے، کس کی مجال ہے کہ ان کی گنتی
 کر سکے۔ ان کا شمار بنا سکے۔

پھر آیت کریمہ میں حضور کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک
 کی تصریح نہ فرمائی گئی۔ یوں مبہم ذکر فرمانے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علو
 شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا
 بیان کیا جائے، تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور
 کوئی اشتباہ راہ نہ پاسکے۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ نام لو یا نہ لو، انھیں کی طرف ذہن جائیگا
 اور کوئی دوسرا خیال میں نہ آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ابہام نام میں جو لطف
 و مزہ ہے، اُسے اہل محبت ہی خوب جانتے ہیں۔

اے گل بتو خرسندم تو بوٹے کسے داری

کہنا یہ ہے کہ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد
 صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول و مدار ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی

شُرکِک نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اسماء میں نہ افعال میں، نہ احکام میں۔
 نہ سلطنت میں، نہ بادشاہی میں۔ یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جمیع صفات
 کمالیہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ماننا، فرض اجل و جزاء ایقان ہے۔ اسی
 پر مدار ہے نجات کامل کا۔ اور یہی مدار ہے قبولیت اعمال کا۔

اللہ کی سترتا بقدم شان ہیں یہ ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
 قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وبارک وسلم و مشرف و کرم
خلاصہ اعتقاد شان رسالت میں یہ ہے کہ توحیدیں دو ہیں۔ ایک توحید
 الہی کہ اللہ ایک ہے۔ کسی بات میں کوئی اُس کا شریک نہیں۔ نہ ذات و صفات میں۔
 نہ افعال و احکام میں۔ اور دوسری توحید، توحید رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
 جمیع صفات کمالیہ و اوصاف عالیہ میں بے مثل و ممتنع النظیر ہیں۔

اللہ و حدہ لا شریک لہ بے نظیر و بے ہمتانے، اپنے حبیب و محبوب طالب
 مطلوب رسول اکرم، سید بنی آدم، سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم کو بے نظیر و
 بے مثیل، بے مثال و بے عدیل، یکتا و بے ہمتا مبعوث فرمایا۔ اُس جان ایمان و
 ایمان جاں کو وہ صفات کمالیہ، وہ محاسن عالیہ، وہ محامد عالیہ عطا فرمائے جن میں
 اُس کا کوئی شریک، کسی کو نہ فرمایا۔ اپنی ہر صفت کا مظہر اتم۔ اپنی ذات مستجمع الصفات
 کا آئینہ اجل و اکرم بنا کر بھیجا۔ خود وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اپنے حبیب پاک صاحب
 لولاک کو بھی، اُس کی صفات میں وحدہ لا شریک ہی بنایا۔ پاکی ہے شریک سے،
 اُس سبوح و قدوس، واحد و یکتا، بے نظیر و بے ہمتا وحدہ لا شریک لہ اجل جلالہ و عرشانہ
 تبارک و تعالیٰ کو، جس نے اپنے اُس سب سے اعلیٰ محبوب کو ایسا واحد و یکتا، بے نظیر و بے ہمتا،
 عدیم المثل فی الصفات العلیا، کو بھی شریک سے منترہ و پاک فرمایا۔ امام محمد بوسیری قدس
 سرہ فصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں

فجوهر الحسن فیہ غیر منقسم

منترہ عن شریک فی محاسنہ

چند صفات میں سمٹا ہوا یہ مضمون مسلمان بہ نگاہ ایمان دیکھیں اور ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ وہابیت کی فریب سامانیوں میں نہ آئیں کہ وہ مردود و مقہور بارگاہ الہی ہے۔

۱۲۔ محمد خلیل عفی عنہ

(۲) مسئلہ امکان کذب

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مولیٰ سبحانہ و

تعالیٰ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ قدرت ہر موجود و معدوم کو شامل ہے۔ بشرطِ حدود و امکان یعنی کوئی حادث و ممکن، اُس کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں اور جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اُسے شامل ہو۔ کہ محال کے معنی یہ ہیں کہ کسی طرح موجود نہ ہو سکے۔ اور جب مقدور ہوگا اور مقدور کہتے ہی اُسے ہیں کہ قادر چاہے تو موجود ہو جائے، تو موجود ہو سکے گا۔ پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ دوسرا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ اور صریح کفر و ارتداد۔ یوں فنا ہے باری محال ہے۔ اگر تحت قدرت ہو، تو ممکن ہوگی۔ اور جس کی فنا ممکن ہو، وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا، اللہ تبارک و تقدس و تعالیٰ کی الوہیت ہی سے انکار ہے۔

یوں ہی منجملہ محالات، قدرت الہی کا سلب بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سلب قدرت الہی پر قادر مانا جائے تو لازم کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھو دینے، اور اپنے آپ کو عاجز محض بنا لینے پر بھی قادر ہو۔ اچھا عموم قدرت ماننا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے گئی پس بحمد اللہ تعالیٰ صاف ظاہر کہ محال پر قدرت ماننا، جناب باری عزاسمہ کو سخت عیب لگانا، اور محال عقلی و مستنع ذاتی پر قدرت الہی ماننے کے پردے میں، اصل قدرت بلکہ نفس الوہیت ہی سے منکر ہو جانا ہے۔ ہمارے دینی ایمانی بھائی اس مسئلہ کو خوب سمجھ لیں تاکہ وہابیت نجدیہ کے مغالطہ و تلبیس سے امان میں رہیں۔

یوں ہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے

اور اس کے سب صفات، صفات کمال ہیں۔ اور وہ ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے۔ تو جس طرح کسی صفت کمال کا سلب، اُس سے ممکن نہیں۔ یوں معاذ اللہ کسی صفت نقص کا ثبوت بھی امکان نہیں رکھتا۔ یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اُس کے لیے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، حیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہا عیوب اُس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے۔ یا اس معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ کہ جب محال پر قدرت مانی۔ اور محال محال سب یکساں۔ تو واجب کہ سب محالات زیر قدرت ہوں۔ اور من جملہ محالات، باری عزوجل کا عدم بھی ہے۔ تو اس پر بھی قدرت لازم۔ اب باری عزوجل عیاذاً باللہ تعالیٰ واجب الوجود نہ ٹھہرا۔ تو اس تعیم قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اسی کی جانب سبحان اللہ عما یصفون سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہو گا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان۔ نقصان تو اُس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ بلکہ انصاف۔ وہابیہ کی جانب سے، اہل سنت پر معاذ اللہ عجز باری عزوجل ماننے کے الزامات صحیح ہیں یا ان مفتریوں کا دین و ایمان ہی سرے سے غلط اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی و شیطان رجیم کی پیروی و پیروی ہے۔ اور جسے ان لوگوں نے ایمان کا نام دیا وہ ایمان نہیں، ایمان سے مجبوری و دوری ہے۔ اور اب وہابیہ کی جانب سے اس قول بدتر از بول کا پس منظر بھی دیکھ لیجئے۔ اہل اسلام دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوجل نے وَلَکِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ فرمایا کہ ”وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے پچھلے۔“ اگر کوئی اور حضور کا مثیل و نظیر ہو تو حضور خاتم النبیین نہ ہوں۔ اور اللہ کی بات معاذ اللہ، جھوٹ ہو۔“ امام وہابیہ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ خدا کا جھوٹ کیا محال۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام

کی ایک روزی صفحہ ۱۴۵ پر ہے۔ "ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہو۔" براہین قاطعہ میں کہ مولوی خلیل احمد نبیٹھی کے نام سے شائع کی گئی اور جس کی لوح پر لکھا ہے۔ "بام حضرت جنین و چناں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی" اور خاتمہ پر اس کی تقریظ با این الفاظ ہے۔ "احقر الناس رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب براہین قاطعہ کو، اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ الحق کہ یہ جواب کافی اور حجت وافی ہے اور اپنے مصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذکا و فہم پر دلیل واضح۔ حق تعالیٰ اس تالیفِ نفیس میں کرامت قبولیت عطا فرمائے۔ اور مقبول مقبولین و معمول عاملین فرمائے۔" جس سے ثابت کہ گویا کتاب ہی تالیف ان کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مندرجات پر وہابیہ دیوبندیہ کو آنکھ میچ کر، ایسا ہی ایمان لانا فرض ہے جیسا کہ ان کے نزدیک تقویۃ الایمان کا ہر گھر میں رکھنا فرض اور اس کا پڑھنا ثواب ہے۔ تو اس میں جو کچھ ہے وہ "ان مقبولین" میں مقبول اور ان عاملین کا معمول ہے اور اب دیکھیے کہ اسی کتاب کے بالکل ابتدائی صفحات پر یوں مذکور ہے کہ "امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ قد ما میں اختلاف ہے۔"

مسلمانو! کذب یعنی جھوٹ عیب و نقص ہے اور ہر عیب و نقص باری عزوجل کے حق میں محال۔ اور شرع مطہر میں یہ مسئلہ اعلیٰ ضروریات دین میں داخل۔ قرآن و حدیث نے جس طرح باری جل مجدہ کی توحید ثابت فرمائی کہ وہ یکتا و بے ہمتا ہے۔ یوہیں ہر عیب، ہر نقص، ہر نقصان سے اس کی تنزیہ و تقدیس کا بیان فرمایا۔ اور خود کلمہ طیبہ سُبْحٰنَ اللّٰہِ اور اسمائے حسنیٰ سُبْحٰنَ قُدُّوسِ کے معنی ہی یہ ہیں کہ رب عزوجل جملہ عیوب و نقائص سے پاک و منزه ہے اور ہر عیب و نقصان سے بری و مبرا۔

مسلمانو! ہمارا سچا خدا بالذات ہر عیب و منقصت سے پاک ہے۔ کذب وغیرہ کسی نقصان کو اس کے سر پر وہ عزت تک پار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کذب محال بالذات ہے۔ اور اس کے محال بالذات ہونے پر تمام ائمہ امت کا اجماع ہے۔

مسلمان جس کے دل میں، اُس کے رب کی عظمت، اور اُس کے کلام کی تصدیق ہو، اگرچہ کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے تو اُس کے لیے یہی دو حرف کافی ہیں۔ اول یہ کہ کذب ایسا گندنا پاک عیب ہے، جس سے ہر حقوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے۔ اور ہر بھنگی چپا بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے عار رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ممکن ہو تو وہ عیبی، ناقص، ملوث، گندی گھنونی نجاست سے آلودہ ہو سکے گا۔ کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان کہ اُس کے لیے اُس کے رب کی امان ہے، ادنیٰ سمجھ والا یہودی نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت گوارا نہ کرے گا۔ پاکی ہے اُسے جس کے سراپردہ عزت و جلال کے گرد، کسی عیب و نقص کا گزر قطعاً محال بالذات ہے۔ جس کی عظمت و قدوسیت کو ہر لوٹ و آلودگی سے بالذات منافات ہے۔ نہ اُس کا جہل ممکن ہے نہ کذب ممکن ہے۔ اور نہ اُس میں کسی طرح کے عیب و نقص کا امکان ہے۔

دوم یہ کہ جب اُس کا کذب ممکن ہو تو اُس کا صدق ضروری نہ رہا۔ اور جب اُس کا صدق ضروری نہ رہا تو اُس کی کون سی بات پر اطمینان ہو سکے۔ ہر بات میں احتمال رہے کہ شاید جھوٹ کہدی ہو۔ کہ جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے جیسا کہ وہاں بیہ کا اعتقاد ہے تو اس یقین کا کیا ذریعہ ہے کہ اُس نے کبھی نہ بولا۔ کیا اُسے کسی کا ڈر ہے۔ یا اُس پر کوئی حاکم و افسر ہے۔ جو اُسے دبا ٹیگا۔ اور جو بات وہ کر سکتا ہے نہ کرنے دیگا۔ ہاں ذریعہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ خود اُس کا وعدہ ہو کہ میرا سب کلام سچا ہے۔ میں نے نہ جھوٹ بولا۔ نہ بولوں۔ مگر جب اُس کا جھوٹ ممکن ٹھہرے۔ تو سرے سے اس وعدہ و فرمان ہی کے صدق پر کیا اطمینان۔ جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا معلوم کہ پہلا جھوٹ یہی کہا ہو۔

مسلمانو! جب کذب الہی یعنی اللہ ہی کا جھوٹا ہونا ممکن ہو تو پھر اُس کی کوئی بات کا اعتبار رہا۔ غرض، معاذ اللہ اُس کا کذب ممکن مان کر، دین و شریعت اور اسلام و ملت، کسی کا اصلاً پتلا لگا نہیں رہتا۔ جزاء و سزا، جنت و نار، حساب و کتاب و

حشر و نشر کسی پر ایمان کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ اب نہ قرآن رہا۔ نہ دین نہ ایمان بچا
 نہ یقین۔ وہابیہ و امام و ہابیہ کا یہ ادنیٰ اگر شتمہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں، تمام دین و
 ایمان، و نبی و قرآن، سب پر پانی پھیر دیا۔ تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً
 کبیراً۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانوں کے وسوسوں سے بچائے۔ آمین

ایک حجتِ ایتقانی

کتب حدیث و سیر کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت خوش نصیب،
 ذی عقل نبیب، صرف جمال جہاں آرائے۔ حضور پر نور، سید عالم، سرور اکرم، مولائے
 اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایمان لائے کہ لیس ہذا وجہ الکذابین۔ یہ منہ جھوٹ
 بولنے والا نہیں۔

اے شخص! یہ اُس کے حبیب کا پیارا منہ تھا۔ جس پر خوبی و بہار و دو عالم نثار
 صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکی و قدوسی ہے اُس کے وجہ کریم کے لیے۔ واللہ اگر آج حجاب
 اٹھا دیں تو ابھی گھلتا ہے کہ وجہ کریم پر امکانِ کذب کی تہمت کس قدر جھوٹی تھی۔
 مخالفت اس دلیل کو دلیلِ خطابی کہے، کہے مگر میں اُسے حجتِ ایتقانی لقب دیتا اور
 مسلمانوں کی بداہتِ ایمانی سے انصاف لیتا اور اپنے رب کے پاس اُس دن کے
 لیے ودیعت رکھتا ہوں۔ یوم ینفعُ الصّٰدِقیٰنِ ھٰدِ قہم۔

مسلمانو! آپ کو یاد ہوگا کہ اصل بات کا ہے پر چھتری تھی۔ ذکر یہ تھا۔ کہ حضور
 پر نور سید المرسلین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا مثل و ہمسر، حضور کی جملہ صفات کمالیہ میں شریکِ برابر محال ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 حضور کو خاتم النبیین فرماتا ہے۔ اور ختم نبوت، ناقابلِ شکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مثل و ہمسر اور شریکِ برابر کا امکان ماننا، کذبِ الہی کو مستلزم ہے۔

اور کذب الہی محال عقلمانی۔ اس پر اس سفید نے پہلا جواب یہ دیا کہ کذب الہی محال نہیں۔ ممکن ہے کہ خدا کی بات جھوٹی ہو جائے۔ اور اس ہذیان کی خدمت گزاری آپ سن ہی چکے۔

دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ "ممكن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے۔ تو اب اگر حضور کی مثل دوسرا ہو سکا تو بندوں کا کسی آیت کو جھوٹا کہنا لازم نہ آئے گا۔" حاصل یہ کہ امکان کذب ماننا، تکذیب قرآن کو اسی وقت مستلزم، اور کلام الہی کا جھوٹا ہونا، اسی وقت لازم، کہ آیات قرآن محفوظ بھی رہیں۔ حالانکہ ممکن کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کو فنا کر دے۔ پھر تکذیب کا ہے کی لازم آئے گی۔

آيُهَا الْمُؤْمِنُونَ ! دیکھو صاف صاف کہا اور صاف صریح مان لیا کہ خدا کی بات قرآن کریم کی آیت، واقع میں جھوٹی ہو جائے، واقعہ جھوٹی پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو اس میں ہے کہ بندے اُسے جھوٹا جانیں۔ اور یہ اسی تقدیر پر ہو گا کہ آیات باقی رہیں جن کے ذریعے ہم جان لیں کہ خدا کی فلاں بات جھوٹی ہوئی۔ اور جب قرآن ہی محو ہو گیا اور بندوں کو پہلے ہی سے کوئی آیت بھلا دی گئی، پھر جھوٹی پڑھی تو کسی کو جھوٹ کی خبر بھی نہ ہوگی کہ جب یاد ہی نہیں تو کس کی تکذیب کریں۔ غرض سارا ڈر بندوں کا ہے کہ بندوں کے سامنے کہیں جھوٹا نہ پڑے۔ واقع میں جھوٹا ہو جائے تو کیا پروا۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ مسلمانو! یہ کیسا گندا کفر ہے۔ اس کا صاف صریح مفاد یہی تو ہے کہ عیب کی آلائش اور کذب سے آلودگی، خدا میں آ تو سکتی ہے۔ مگر اُس سے بچنے کے لیے مصلوٰۃ احترام کرنا ہے۔ بندوں کے طعن سے ڈر کر جھوٹ سے بچنا ہے۔ حالانکہ مجدم تعالیٰ ہر مسلمان جاننا مانتا ہے کہ عیب کی گنجائش ہونا ہی، اُس سلوچ قدوس کے لیے سخت مجاہد ہی عیب ہے۔ مگر جہل خصوصاً جہل مرکب کا کیا علاج۔ ایسوں ہی کے لیے کہا گیا ہے کہ

مہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب ابدالہ ہر مہر باند

بلکہ بوجہ نازک ہونے ایسے مسائل کے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں
 قلیل و قال اور زیادہ تفتیش کرنا، عجب نہیں کہ منع ہو۔ ^{۹۷} دیکھئے تقدیر کا مسئلہ
 چونکہ سچیدہ اور مجمع اشکالات تھا، اس میں گفتگو کرنے سے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت ممانعت فرمائی۔ ^{۹۸} سو اس ممانعت
 کی علت بھی یہی وقت و اشکال، یہاں بھی ہے۔ سو ان دو مسئلوں میں بھی
 جب بوجہ تعرض ظاہری، اور ذمہ عقلیہ و نقلیہ کے، اشکال شدید ہے۔ تو قلیل
 قال کرنے کی کسے اجازت ہوگی۔ اسی مضمون کا خواب ^{۹۸}، فقیر کے ایک
 متعلق نے دیکھا، جس کو فقیر نے بہت پسند کیا۔ اس سے بہت کوئی
 عمل درآمد نہیں۔ اور جو طبع آزمائی کے لیے گفتگو ہی کرنا ضروری ہے تو زبانی
 خلوت میں ہو۔ اور اگر تحریر کی حاجت ہو تو خط کافی ہے۔ نہ کہ رسالے اور
 کتابیں۔ اور اگر اسی کا شوق ہے تو عربی عبارت ہونی چاہیے۔ تاکہ عوام
 خراب نہ ہوں۔ اور عوام کے لیے تو بالیقین سکوت ہی ضروری ہے۔ ^{۹۹} تمام
 ہوا بجز اللہ، جو کچھ لکھنا تھا۔ ^{۱۰۰}

۹۷۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ مسئلہ امتناع نظیر میں بات چھڑی تھی۔ کہ کوئی حضور کا
 نظیر و ہمسر اور شریک برابر نہیں۔ اور ان ذمی ہوشوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ
 ہے کہ حضور کی صفات کمالیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل و ہمسر اور شریک برابر
 کا پایا جانا ممنوع ذاتی اور محال عقلی ہے۔ اس پر وہابیہ نے
 امتناع بالذات اور امتناع بالغیر، اور عموم و شمول لخصوص قطعہ اور عموم قدرت
 الہی کی بحث چھڑ دی۔ لامحالہ علمائے اہلسنت کو، جن میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ہم عصر دوسرے علمائے کرام کو تقدم حاصل ہے۔ ان
 ذمی ہوشوں کی، علم ذاتی کی قلعی کھولنی پڑی۔ تاکہ ان کے عقائد سے عامۃ المسلمین محفوظ رہیں
 اور پھر بات اتنی بڑھی کہ نہ صرف قدرت الہی کو ناقص مان کر، خدائے سلوح و قدوس
 کو عیبی آلائشی، ٹھہرایا بلکہ اس کی الوہیت ہی سے انکار کی راہیں کشادہ کر دیں اور دین و

ایمان، شریعت و قرآن سب پر ہاتھ صاف کر دیا۔ جس کا قدرے بیان اسی رسالہ میں
ابھی گزرا۔ اور تفصیل کتب علمائے اہلسنت میں ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۷ عالم میں جو کچھ مہلایا برا ہوتا ہے، یا ہوا، یا آئندہ ہوگا اور بندگانِ خدا جو کچھ نیکی یا
بدی کے کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ سب اللہ عزوجل کے علمِ ازلی کے مطابق ہوتا ہے
اور ہوگا۔ ہر مہلایا بُرائی، اللہ عزوجل نے اپنے علمِ ازلی کے مطابق مقدر فرمادی ہے۔
یعنی جیسا اس ساری کائنات، زمین و آسمان کی جمیع مخلوقات، میں ہونے والا تھا۔ اور
اس کی مخلوقات میں جو جیسا کرنے والا تھا، اُس علیم و خبیر نے اسے اپنے علم سے جانا
اور وہی لکھ لیا۔ تو وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اُس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اسی
کا نام تقدیر ہے۔

اور یہ خیال کہ جیسا اُس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایک مہمل والا یعنی
وسوسہ شیطانی ہے۔ عزیر و اللہ عزوجل نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بندوں کو پیدا
فرمایا۔ انہیں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، وغیرہ آلاتِ کسبِ عطا فرمائے انہیں
کام میں لانے، اُن سے کام لینے کا طریقہ، الہام فرمایا۔ پھر اپنے فضلِ عمیم سے اعلیٰ درجہ
کے شریف جوہر، یعنی عقل سے ممتاز فرمایا۔ تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر
لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل اور اک نہ کر سکتی تھی، لہذا انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر ذرا اسی
بات جہادی کہ یہ خیر ہے، وہ شر۔ یہ مہلایا ہے وہ بُرائی اور یہ مفید ہے جو وہ مضرت اور کسی کو
عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح نہ آپ سے آپ بن سکتا تھا، نہ اپنے
لیے کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ بنا سکتا تھا۔ یوں اپنے لیے طاقتِ قوت،
ارادہ، اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ جس طرح اُس نے دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان،
کھانے پینے چلنے پھرنے کو موٹھ، ہاتھ، پاؤں، سننے کو کان اور قوتِ احساس عطا فرمائی
یوں اُس نے عقل و شعور کی دولت بخشی۔ ارادہ و اختیار کا سرمایہ اُسے مرحمت فرمایا۔
کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو اُس ارادہ و اختیار کے پیدا ہونے سے
آدمی صاحبِ اختیار و صاحبِ ارادہ ہوا۔ نہ کہ مضطر و لاچار، مجبور و ناکار۔

آدمی اور پتھر کی حرکت میں فرق کیا ہے؟ یہی ناکہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتے۔ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر نہیں سکتے اور آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کی۔ اسے ارادہ و اختیار کی دولت دی۔ تو یہ کسی الٹی مت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے نے انسان کو پتھر سے ممتاز کیا، اسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہو جانے کا سبب سمجھے اور دیگر جمادات کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت اور مضطر و مجبور جانے۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ ارادہ و اختیار، جس کا انسان میں پایا جانا، روشن اور بیدہی امر ہے قطعاً یقیناً جزاً، اللہ قادر و قدیر، علیم و خبیر ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا۔ اُس سے ہم اُس کی عطا کے لائق، مختار و صاحب اختیار ہوئے۔ یہ ارادہ و اختیار ہماری اپنی ذات سے، ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا، ہمارے اپنے کسب سے حاصل کیا ہوا نہیں، تو ہم "مختار کردہ" "اختیار دادہ" ہوئے۔ نہ کہ "خود مختار" اور بہر حیثیت با اختیار۔ کہ شتر بے ہمار بنے، ہر گرفت سے آزاد، ہر مواخذہ سے بے نیاز، رائے زمین پر، وندنائے پھریں۔ اور بندہ پھر بندہ ہے۔ بندگی و نیاز مندی اس کی فطرت ہے۔ بندہ ہوتے کامل الا اختیار ہونا، عقل کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ اور بندے کی یہ شان بھی نہیں کہ وہ خود رائے، خود مختار ہو سکے۔ تو یہی ارادہ یہی اختیار، جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے، عقل کے ساتھ اُس کا پایا جانا، یہی دنیا میں شریعت کے احکام کا مدار ہے اور اسی بنا پر آخرت میں جزاء و سزا، ثواب و عذاب اور اعمال کی پرسش و حساب ہے۔ کہ جزاء و سزا کے لیے جتنا اختیار چاہے وہ بندہ کو حاصل ہے الغرض اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا بلکہ اُس کو ایک نوع کا اختیار دیا ہے۔ اور اُس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے بُرے اور نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان و اسباب مہیا فرما دیتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔

پھر دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک چیز

کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا ہے اور سنت الہی یوں جاری ہے کہ سبب پایا جائے تو مسبب (یعنی وہ دوسری چیز) جس کے لیے یہ سبب ہے پیدا ہو۔ اور انہیں اسباب کو عمل میں لانا، اور انہیں کسب فعل کا ذریعہ بنانا تدبیر ہے جس کے ہم محکف ہیں۔ تو تدبیر منافی تقدیر نہیں۔ بلکہ تقدیر الہی کے عین موافق ہے۔ جس طرح تقدیر کو مہجول کر، تدبیر پھولنا اور اسی پر اعتماد کر بیٹھنا کفار کی حوصلت ہے، یوں ہی تدبیر کو محض عبث و فضول اور مہمل بتانا، کھلے گمراہ یا سچے مجنون کا کام ہے۔ انبیائے کرام سے زیادہ، تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہوگا۔ پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے اور اس کی راہیں بتاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زہر میں بنانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دس برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا قرآن میں مذکور ہے۔ کوئی قصہ و فسانہ اور بے سرو پا کہانی نہیں کہ انکار کر بیٹھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وَالْقَدْرِ حَنِيرَةٌ وَشَرٌّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَوْحَقِّ جَانِنًا، حَقِّ مَانِنًا، اور صدقِ دل سے اُس کی تصدیق کرنا کہ كَلَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، جو کچھ ہے سب اُسی کی طرف سے ہے۔ اُسی کی تقدیر سے ہے، ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد ہے، تاہم تقدیر ہی امور یعنی قضاء و قدر کے مسائل جو چونکہ عام عقول میں نہیں آسکتے۔ اس لیے ان میں زیادہ بخور و فک کرنا، یا انہیں کسی مجلس میں ذریعہ بحث بنا لینا، عوام کے لیے ہلاکت و نامرادی کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما و شما کس گنتی، کس شمار میں ہیں عقیدۃ اہلسنت بس یہی ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے حرکت بھی نہ کر سکے اور نہ خود مختار و بالکل صواب اختیار، کہ جو چاہے کر تا پھرے۔ اُس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اُس کے کسی فعل پر کوئی گرفت و مواخذہ نہ ہو۔ بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حالت ہے۔ تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی تہ تک کسی کو رسائی نہیں۔ تقدیر ایک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس

نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۸۔ وہ خواب جو حضرت شاہ صاحب کے کسی متعلق یا متوسل نے دیکھا، اور جس کے مضمون کو شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے بہت پسند فرمایا، کیا تھا؟ یہ فقیر اب تک اس پر مطلع نہیں ہوا۔ مگر شریعت مطہرہ کا ایک ضابطہ کلیہ، جو اس باب میں امت مرحومہ کو مرحمت ہوا۔ اور جو عام مسلمانوں کے حق میں بڑا مفید و رہنما ہے، یہ فقیر عرض کرتا ہے۔ تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا خواب، معتبر و مقبول ہے۔ کونسا نہیں۔

اور وہ ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا فرمایا ہے۔ اگر قائل فاسق ہے تو اس کی بات یوں بھی غیر معتبر و غیر واجب القبول۔ اور اگر خواب بیان کرنے والا، حق پسند، حق جو، خدا پرست، خدا ترس، دیانتدار، پرہیزگار ہے تو دیکھیں گے اور یہ حکم جو یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا امت مرحومہ کے کسی معظّم و مکرم و نبی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کریمہ پر، جو بیداری میں ثابت ہو چکے ہیں، عرض کریں گے۔ اگر یہ حکم، ان ارشادات عالیہ میں سے کسی ارشاد گرامی کے مخالف و منافی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اس حکم کو صحیح تسلیم کریں گے اور مان لیں گے۔ کہ شرع میں یہ حکم پہلے ہی موجود ہے۔ ہم اس سے غافل تھے۔ کرم الہی نے اس ذریعہ سے ہمیں اس حکم شرعی تک پہنچایا تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں اور سعادت وارین گمابنیں۔ عام اہلین کہ وہ مطابقت، صراحتہ پائی جائے یا اشارتہ و کنایتہ۔

اور اگر یہ حکم، ان ارشادات ثانیہ کے مخالف و منافی ہو تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں غلط آیا۔ کہ حالت خواب میں ہوش و حواس، عالم بیداری کی طرح نظم و ضبط و اختیار میں نہیں ہوتے، لہذا خواب میں جو ارشاد سنے، بیداری کی مانند یقین کے مورث نہیں۔ اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونا بلاشبہ حق و صواب ہے۔

ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اُسے میکشی کا حکم دیتے ہیں۔

امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے میکشی سے بھی فرمائی تیرے سننے میں اٹی آئی۔ اور اس امر میں فاسق و مشقی دونوں برابر ہیں۔ نہ مشقی کی بات کا مان لینا مطلقاً صحیح و واجب القبول۔ نہ فاسق کا بیان، یقیناً کذب و مردود۔ بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۹۹ عوام المسلمین کو گمراہی و کجروی سے بچانا، انہیں راہِ حق، راہِ ہدٰی پر چلانا، اگر مقصود ہو تو بے شک متنازع فیہا مسائل میں، زبانی گفتگو، یا پھر باہمی خط و کتابت، حتیٰ کہ رسائل و کتب میں عربی عبارت سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور سوچتے ہیں اور دل انصاف منزل میں، حق جلوہ فرما ہو کہ اضلالت کی اندھیروں کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ اور افتراق و الشقاق، اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والے خود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔

لیکن جب کسی مذہب کی بنیاد، مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دینے پر رکھی جائے اور مقصود یہ ہو کہ جتنا مسلمانوں میں انتشار بڑھے گا، اتنا ہی اپنا کام بنے گا۔ تو پھر خیر کی امید، اور مہلانی کی توقع، ان سے رکھنا، ایسا ہی ہے جیسا نا اہل کی تربیت اور زمین شور پر زراعت کا یہ زعمِ فاسد۔ کہ وہ نام نیکاں روشن کرے گا اور یہ پیداوار دیگی۔ اس قماش کے لوگ ہر وقت طلبِ جاہ و شہرت میں مبتلا، دامِ ریاء و نمود میں گرفتار، اور اپنی خواہشاتِ نفس کی تکمیل کے جنوں کا شکار بنے رہتے ہیں۔ کہ کسی طرح وہ بات نکالیئے جس سے آسمانِ تعالیٰ پر ٹوپی اُچھالیے۔ دور دور نام مشہور ہو۔ خاص و عام میں ذکر مذکور ہو۔ اپنا گروہ الگ بنائیں، وہ ہمارے غلام، ہم ان کے امام کہلائیں ان میں جن کی مہمت، بے باکی و جرات پوری ترقی کرتی ہے وہ انار تکوالاعلیٰ بولتے اور دعویٰ خدائی کی دکان کھولتے ہیں۔ جیسے گزیرے ہوؤں میں فرعون و نمرود وغیرہا مردود۔ اور آبنوالوں میں ایک مسیح خرنشین یعنی دجال لعین۔ کہ دعویٰ خدائی کرے گا اور اپنی کوشمہ ساز یوں سے کفر و ضلالت کا پیٹ بھرے گا اور جو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں کذابِ میامہ و کذابِ ثقیف وغیرہا خبیثوں کی طرح ادعائی رسالت

بتوت پر تھکتے ہیں۔ اور جن میں اتنی جرأت نہیں ہوتی۔ دنی فطرت لپست بہت ہوتے ہیں، اُن میں کوئی مہدی موعود بنتا ہے، کوئی غوثِ زماں، کوئی مجتہدِ وقت، کوئی چین و چناں۔

انہیں میں ہے یہ فرقہ و ہابیہ کہ اپنے مذہبِ باطل کی ترویج و اشاعت کی خاطر وہ آیات کہ کفار اہل کتاب اور اُن کے عمائد و ارباب میں اُتریں، یہ بیباکانہ طور پر ایمان و انصاف کی آنکھ پر ٹھیکری رکھ کر، اہلسنت و ائمہ اہلسنت پر ڈھالتے، انہیں ان کا مصداق ٹھہراتے، اور سچے مسلمان کو کافر و مشرک بناتے ہیں۔ اصل اس گروہِ ناحقِ پشروہ کی نجد سے نکلی۔ اور حاصل ان کے عقائد کا یہ تھا کہ عالم میں وہی مُشتتِ ذلیل موجدِ مسلمان ہیں باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ اسی فتنہ شنیعہ نے نجد کے ٹیلوں سے اُتر کر دارالفتن پاک و ہند میں اپنے قدم جمائے اور مولوی اسماعیل دہلوی نے یہاں اس مذہبِ ناہدیت کا معلم ثانی بن کر، نجدیت کے علم لہرائے۔ بلکہ اس بافی ثانی کو شرک و کفر کی وہ تیز و تند چڑھی کہ مسلمانوں کو مشرک کافر بنانے کو حدیث صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ کے باب لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، سے نقل کر کے بے دھڑک زمانہ موجود پر جہاد ہی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہو گا جب تک لات و عزیٰ کی پھر پرستش نہ ہو۔ اور وہ بچوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اُٹھالے گی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گا۔ جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے، پھر بتوں کی پوجا بدستور جاری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کر کے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں صاف لکھ دیا سو سچا خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

موشمند نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ اگر یہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر حدیث میں ہے تو واجب ہوا کہ روئے زمین پر مسلمان کا نام و نشان باقی نہ ہو۔ مسلمانوں کو تو خدا کی امان ہے اور اُن کے لیے اُن کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بشارت آئی ہے کہ یہ اُمتِ مرحومہ ہرگز مشرک اور غیر خدا کی پرستش نہ کرے گی۔ (احمد و ابن ماجہ وغیرہا)

مگر بھلے مانس اب تو اور تیرے ساتھی، کدھر بچکر جاتے ہیں۔ کیا تمہارا طائفہ، دنیا کے پر دے سے کہیں الگ ہوتا ہے۔ تم سب بھی انہیں شرار الناس و بدترین خلق میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نام نہیں۔ اور دین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں۔ سچ آیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حُبُّكَ الشَّيْءُ يَعْهَى وَيَصْمُ (کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا تک بنا دیتی ہے) مشرک کی محبت و پسند نے اُس ذمی ہوش کو ایسا اندھا بہرا کر دیا کہ خود اپنے اور اپنے اتباع و اذنا ب، پسروں اور پیروکاروں کے کفر کا اقرار کر بیٹھا۔ غرض تو یہ ہے کہ کس طرح تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک ٹھہرائیں۔ اگرچہ پرانے شکون کو اپنی ہی جڑ سے کٹائیں اپنا چہرہ مہوار اور سپاٹ ہو جائے تو پرہیزگار نہیں، مسلمانوں سے تو بڑھم خبیث دین و ایمان کا دامن چھوٹے۔

واقعی یہ لوگ اُن پرانے خارجوں کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں۔ وہی مسئلے وہی دعوے، وہی انداز، وہی وتیرے، خارجوں کا دلب تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر متشرع، مطابق شرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے۔ پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ، عجب دام بھنگ سبزہ تھا۔ اور مسک وہی کہ ہمیں مسلمان ہیں۔ باقی سب مشرک۔ یہی رنگ ان حضرات کے ہیں۔ آپ مومن و موحد اور سب کفار و مشرکین۔ آپ محمدی و متبع شریعت، باقی سب بد دین و کفر بدعت۔ آپ عامل بالقرآن والحدیث، اور سب چین و چمان، بڑھم خبیث۔ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ اِنَّيُؤْفَكُوْنَ۔

مسلمانان اہلسنت کان کھول کر سن لیں کہ دھوکے کی ٹٹی میں شکار نہ ہو جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایک کلمہ گو، بے دین و گمراہ گروہ کے متعلق فرمایا کہ "تم اپنی نماز، اُن کے آگے حقیر جانو گے۔ اور اپنے روزے اُن کے روزوں کے سامنے، اور اپنے اعمال اُن کے اعمال کے مقابل" یا اینہم ارشاد فرمایا و لِقَرُونِ الْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ حَنَا جَرَهُمُ الْحَدِيثُ ان اعمال پر اُن کا یہ حال ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے۔ گلوں سے تجاوز نہ کرے گا (اُس کی برکتوں سے اُن کے دل متاثر نہ ہونگے)

دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے (بخاری و مسلم)
 غرض کہنا یہ ہے کہ جب آدمی طلبِ جاہ و شہرت کے دامِ تزیویر میں گرفتار اور ریاء و
 نمود اور خواہشاتِ نفس کا شکار ہو جائے۔ تکبر و تعلیٰ کو اپنا وطیرہ اور خود نمائی و خود ستائی
 کو اپنا داب و طریقہ بنا لے، تو کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ کوئی پسند، اس کے
 حق میں سود مند نہیں ہوتی۔ حق کے ساتھ ان کی ہٹ دھرمی، انہیں راہِ راست پر نہیں
 آنے دیتی۔ تو ایسوں سے یہ امید باندھنا اور یہ توقع رکھنا کہ وہ حق کی خاطر، حق کے لیے
 حق بات کہیں گے اور سنیں گے اور متنازع فیہ مسائل میں حق کا ساتھ دیں گے، ایک
 خیالِ خام ہے اور لا حاصل۔ جس کا بارہا تجربہ ہو چکا اور جواب چاہے انہیں آزمائے۔
 جواب ان کا وہی ہے کہ مرعنی کی ایک ٹانگ۔ یعنی جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی حق و
 صواب ہے باقی سب لغو و ناقابل التفات ہے۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تقویۃ الایمان کی ایک ذمہ داری و دیدہ دلیری

تقویۃ الایمان والے بے باک چالاک کی نہایت عیاری یہ ہے کہ اسی مشکوٰۃ کے
 اسی باب " لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق " میں، اسی حدیثِ مسلم کے برابر
 متصل بلا فصل، دوسری حدیثِ مفصل، اسی صحیح مسلم کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 سے مروی، وہ موجود تھی، جس سے اس حدیث کے معنی واضح ہوتے۔ اور اس میں صراحتاً
 ارشاد ہوا تھا کہ یہ وقت کب آئیگا اور کیونکر آئیگا اور آغاز بت پرستی کا منشاء کیا ہوگا۔ وہ
 حدیث مختصر یہ ہے کہ "حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال نکل کر چالیس
 دن تک ٹھہرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجے گا وہ اسے
 ہلاک کریں گے۔ پھر سات برس تک لوگوں میں تشریف رکھیں گے کہ کوئی دودل آپس
 میں عداوت نہ رکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی

ہوا بھیجے گا کہ روئے زمین پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لے گی۔ یہاں تک کہ اگر تم میں کوئی پہاڑ کے جگر میں چلا جائیگا تو وہ ہوا وہاں جا کر بھی اُس کی جان نکال لے گی۔ اب بدترین خلق باقی رہ جائیں گے۔ فسق و شہوت میں پرندوں کی طرح ہلکے سبک اور ظلم و شدت میں درندوں کی طرح گراں و سخت جو اصلاً نہ کسی مہلائی سے آگاہ ہوں گے۔ نہ کسی بدی پر انکار کریں گے۔ شیطان ان کے پاس آدمی کی شکل بن کر آئے گا اور کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی۔ یہ کہیں گے "پھر تو ہمیں کیا حکم کرتا ہے۔ وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا۔ اس کے بعد نفعِ صورت ہوگا۔" تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتاً ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ ہوا خروجِ دجالِ لعین و نزولِ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں اس کا اعتراف بھی ہے۔ مگر عیار ہوشیار اس حدیث کو الگ بچا گیا اور اس صاف صریح روشن واضح مضمون سے آنکھیں پھیر کر، دامن سمیٹ، ہوا ہوا۔ کہ یہاں تو سارے مکر کی قلعی کھلتی، اور صاف ظاہر ہوتا کہ حدیث میں جس زمانے کی خبر دی ہے، وہ دجالِ لعین کے خروج و ہلاک، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتقال کے بعد آئے گا۔ اسی وقت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ جس طرح احمد و سلم و ترمذی کی حدیث میں اُنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت نہ آئے گی جب تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے۔"

اللہ اللہ یہ حدیث بھی مشکوٰۃ بحوالہ مسلم، اسی باب کے شروع میں ہے، داعم ترویج پھیلانے والا یہ مژرور و چالاک، دلدادہ تکفیر و اشراک، کہ کھینچ تان کر، مسلمانوں کو کفر و مشرک میں ملوث کرنے کا شائق ہے، برابر کی حدیثیں نقل کرتا، تو مسلمانوں کو کافر و مشرک کیونکر بناتا اور اس جھوٹے دعویٰ کی گنجائش کہاں سے پاتا کہ اپنے زمانے کی نسبت لکھ دیا۔ سو پچھیر خدا کے فرمان کے موافق ہوا۔ اب نہ خروجِ دجال کی حاجت رہی نہ نزولِ مسیح کی ضرورت۔ بلکہ ان کے نصیبوں وہ ہوا بھی چلی گئی۔

مسلمان دیکھیں کہ جو عیار، صریح حدیثوں میں ایسی معنوی تخریفیں کریں، اور انھیں
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ٹھہرائیں، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
متواتر حدیثوں میں ارشاد فرمائیں کہ جو جان بوجھ کر، مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ
دوزخ میں بنالے۔ "ایسوں کا مذہب و مشرب معلوم۔ ع۔
قیاس کن زگلستانِ شان، بہارِ شان

صاحبِ تقویۃ الایمان کا اقراری کفر

مسلمانوں! تم نے دیکھا کہ اس دلدادہ تکفیر و دیوانہ اشراک نے، تمام مسلمانوں کو کافر
مشرک بنانے کے شوق میں، ختمِ دنیا کی حدیث، صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر
جہادی اور کچھ پروانہ نہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی۔ اور وہ
ہوا چل چکی۔ اور جس کے دل میں راہی برابر بھی ایمان تھا، مہر گیا۔ اب تمام دنیا میں نرے
کافر ہی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود، اور اُس کے پیروکار و اتباع، (جو اس کتابِ تقویۃ
الایمان کو معاذ اللہ کتابِ آسمانی کی مثل جانتے اور اپنے مذہبِ نامہذب کی کتاب
مقدس مانتے ہیں) کیا دنیا کے پرورے سے کہیں الگ بستے ہیں۔ یا قرآن و حدیث
میں اس بائی مذہب اور اس ناپاک مذہب کے پیروکاروں کے لیے اس حکم سے استثناء
آگیا ہے، یا خدا و رسول، جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھلی آزادی دیدی ہے
کہ جو ناکردنی چاہیں کریں، اور جو ناگفتنی، کہتا چاہیں کہیں، ان کے ایمان کو ٹھیس نہ لگے گی۔
ان کے دین و اسلام پر آئینہ نہ آئے گی۔ اور شریعتِ مطہرہ کا کوئی حکم ان کے دینِ ایمان
کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

چوں و صنوئے محکمِ بی بی تمیز

نہیں نہیں۔ یہ لوگ بلکہ ان لوگوں کا وہ پیش رو، خود اپنے اقرار سے ٹھیسٹ کافر اور

ایسے بچے بت پرست ہیں کہ ان کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں۔ یہ خود ان کا اقرار ہی کفر ہے اور مسئلہ شرعیہ ہے کہ جو اپنے الحاد و کفر کا اقرار کرے۔ وہ کافر ہے بلکہ عالمگیری میں فرمایا کہ جو کلمہ گو مسلمان اپنے ملحد ہونے کا اقرار کرے۔ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ اس میں مجھ پر کفر عائد ہوگا تو یہ عذر نہ سنا جائے گا۔ اسی طرح اس قول میں اُس نے تمام امت کو کافر مانا۔ اور یہ بھی اس امت کا ایک فرد ہے تو یوں بھی اقرار ہی کافر ہوا۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

صاحب تقویۃ الایمان کی کچھ اور سہرا سہریاں

مسلمانو! اللہ عزوجل ہمیں تمہیں اور ہمارے تمہارے اسلام و ایمان کو، ہر قسم کے فتنہ و فساد سے مامون و محفوظ رکھے اور شیطانی و سوسوں سے بچائے، ہم یہاں تقویۃ الایمان کے گنتی کے چند اقوال ذکر کرتے ہیں اور حق و صواب کا فیصلہ، اہل ایمان و ارباب انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ وہ خود فیصلہ کریں کہ جس شخص کے ایسے گندے اقوال ہوں، کیا اسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہے۔ تقویۃ الایمان چھپی ہوئی بازاروں میں موجود ہے۔ چھپی ہوئی نہیں کہ ان اقوال کو، افتراء و تہمت کے پس پردہ ڈال کر ہاتھ چھار کر علیحدہ ہو جائے۔ اسی کتاب میں ہے۔

۱۔ "جتنے پیغمبر آئے ہیں سو اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے، اور اُس کے سوا کسی کو نہ مانے" حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسولوں فرشتوں، کتابوں کا ماننا جزو ایمان ہے اور ان کا نہ ماننا ایسا ہی کفر ہے جیسا اللہ عزوجل کو نہ ماننا۔

۲۔ "ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چہرے سے بھی زیادہ ذلیل ہے" یہاں چہرے سے بھی زیادہ ذلیل کہا اور دوسری جگہ ذرہ ناچیز سے بھی کم تر یعنی

چوہڑے چہارے سے بھی بدتر۔ کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی گئی ہے اور کسے کہا انبیاء و مرسلین اور محبوبان رب العالمین کو۔ جن کی عزت و عظمت اللہ کی عزت و عظمت ہے۔

۱۳۔ "جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔"

مسلمانو! ایمان سے کہنا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انبیاء و اولیاء و اصحابِ ہدیٰ و محبوبانِ خدا علیہم الصلوٰۃ و الثناء کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کے موند سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رانی کے دائرہ پر ابر ایمان ہو۔ حالانکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں اور زمین و آسمان اور دونوں جہان میں حضور کا تصرف جاری ہے۔ اور اللہ عز و جل نے انہیں عظیم و وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں۔

۴۔ اسی کتاب تقویۃ الایمان میں حدیث تو یہ لکھی کہ "مجھلا خیال تو کر، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اُس کو۔" آگے جو گستاخی کی رگ اُچھلی، جھبٹ آفت کی (ف) لکھ کر فائدہ جڑویا۔ "یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔"

اس کے حامی اُس کے پیرو۔ ایمان سے بتائیں کہ یہ حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے۔ مسلمانو! سوچو تو سہی، یہ ہمارے اور تمہارے اور سارے جہان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابِ پاک میں صریح گستاخی ہے یا نہیں۔

۵۔ سب سے بدتر خبیث قول جو صراطِ ستقیم میں لکھا وہ یہ ہے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا، ظلمت بالائے ظلمت اور اپنے پیل یا گدھے کے خیال کرنے یا کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اُس کے ساتھ زنا کے خیال اور بیوی کے ساتھ جماعت کے خیال سے بھی زیادہ بُرا ہے۔"

مسلمانو! خدا را ان ناپاک شیطانی ملعون کلموں کو غور سے دیکھو اور انصاف کرو کہ کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے۔ ایسے ناپاک کھلے کلمات تو

کھلے ہوئے دشمنانِ اسلام کے زبان و قلم سے بھی تم نے نہ سنے ہوں گے۔ مگر اس
 مدعیِ اسلام کا کیچھو دیکھو کہ اُس نے کس جگر سے، ایسے ناپاک، سب و دشنام کے
 لفظ لکھے۔ اور وہ بھی کس کی شان میں۔ اُن کی شان میں، جن کی ادنیٰ توہین کفر ہے۔
 کیا اسلام اسی کا نام ہے۔ کیا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔

اے رامبر و پشت بہ منزل، ہر شیار
 کہیں راہ کہ تو میری بہ کفرستان ست

ان مسائل کی تفصیل کے لیے دیکھیں الکو کتبۃ الشہا بیہ وغیرہ یا فقیر کا رسالہ ”آئینہ حق نما“
 ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

تقویۃ الایمانی، کفریات سے نشانے والے

فتاویٰ رشیدیہ میں تقویۃ الایمان اور صاحبِ تقویۃ الایمان یعنی مولوی اسماعیل
 کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں مذکور ہے کہ :-
 مولوی محمد اسماعیل صاحبِ عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے
 جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے
 والے تھے اور تمام عمر اسی حالت میں رہے۔ اور کتابِ تقویۃ الایمان منہایت عمدہ
 کتاب ہے اور ردِ شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ
 اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عینِ اسلام ہے۔ اور موجبِ اجر
 کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو بُرا کہتا ہے وہ فاسق و بدعتی ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں
 لکھا کہ بندے کے نزدیک سب مسائل اُس کے صحیح ہیں وغیرہا سن الکلمات الواہیۃ۔
 مسلمانو! اُس غلو شریک کو تو دیکھو کہ بزعم خود، اُس کتاب کو جس کا پیٹ ناپاک مضامین
 سے بھرا گیا ہے، قرآن کریم سے بھی بڑھا دیا کہ اُس کا رکھنا بھی عینِ اسلام ٹھہرا دیا۔ اور
 ظاہر ہے کہ جو بات عینِ اسلام ہو، وہ نہ ہوتی تو اسلام نہ رہا۔ اور اسلام نہ رہا تو کفر

۱۔ ہو گیا کہ کفر و اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں اور عین کی نفی، ضد کا ثبوت ہے۔ مسلمان سبھی اے! قرآن کریم کا ماننا عین اسلام ہے۔ چونہ ماننے کا فر ہے۔ مگر اُس کا نہ رکھنا، یا نہ پڑھنا، یا عمل نہ کرنا، کفر نہیں۔ لیکن تقویت الایمان کے حق میں یہ سب کفر ہیں۔ جو اُسے پاس نہ رکھے وہ کافر۔ جو نہ پڑھے وہ کافر۔ جو عمل نہ کرے وہ کافر۔ کہ اُس نے عین اسلام کو چھوڑا۔

اور گنگوہی صاحب اور اُن کے ہم نوا، ہم عقیدہ اور ہم خیال دوسرے اکابر و اصحاب دیوبند کے نزدیک جب یہ کتاب "الاجواب" اور اس کے مندرجات قرآن و حدیث کے استدلال ہیں تو غور تو کرو کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ جب تک ان کی یہ "کتاب پاک" تقویت الایمان، تصنیف ہی نہ ہوئی تھی، تو صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ فحائم، معظمان شریعت، اساطین دین و ملت سے لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب تک کسی کو اسلام نصیب نہ ہوا کہ یہ سب، گنگوہی صاحب کے بقول، عین اسلام سے محروم رہے۔ تو خود اس کتاب کی تصنیف سے پہلے، مولوی محمد اسماعیل دیوبند کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ کافر تھے یا مومن و مؤجد۔

مسلمانو! یہ وہی گنگوہی صاحب ہیں، جن سے سوال کیا گیا کہ لفظ رحمة للعلمین مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایمان کی آنکھ پر بے حیائی کی ٹھیکری رکھ کر جواب دیا کہ "لفظ رحمة للعلمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علمائے ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں۔ لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے فقط۔"

حالانکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رحمة للعلمین ہونا قطعاً یقیناً خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں۔ مگر گنگوہی صاحب کے یہاں اس صفت خاصہ کی یہ بے قدری کہ دیوبند کا مہر تبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہے۔ مگر باطن کی پھوٹ جانے والے،

کیا اول دن سے ظاہر کی بھی بھوٹی ہی لائے تھے۔ انہیں قرآن کریم کا یہ صاف روشن صریح بیان نظر نہ آیا کہ یہ رحمت بذریعہ رسالت ہے کہ وما آتٰ سَلٰتَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ تو رحمت لِّلْعٰلَمِيْنَ نہ ہوگا مگر وہ کہ رسول اِلٰی الْعٰلَمِيْنَ ہو۔ تمام جہاں کو اُس کی رسالت اسکی رحمت عام ہو۔ اور وہ نہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اور انبیاء بھی اس وصفِ کریم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے۔

خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "سہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا۔ اور میں تمام جہاں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔" ائمہ کرام نے اس وصفِ کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء و مرسلین سے مطلقاً افضل ثابت ہونا، مانا ہے۔ مگر وہاں کے یہاں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ اور نہیں۔ وہ کیونکر اسے حضور کی صفتِ خاصہ مانتے۔ اور رسولوں ہی کے لیے تعظیم نہیں بلکہ گنگوہی صاحب نے ہر دیوبندی مولا، مشرک کہیں، مسطقی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا دیا۔ یہ شانِ اقدس میں کیسا بھاری شرک ہے۔ کاش ان مدسوسوں کو ہوش آئے۔

مسلمانو! وہ جو اسماعیل دہلوی نے بھر موٹھ کفر بکا تھا اور حضور کی طرف یہ قول منسوب کیا تھا "میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں" یہی گنگوہی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر، اس کی جھوٹی اور اس ناپاک قول کی ناپاک تاویل اپنے فتاویٰ میں یوں کرتے ہیں کہ "مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے۔ اور دوسرے مٹی سے متصل ہونا۔ یہاں مراد دوسرے معنی ہیں۔ چونکہ مردے کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے۔ اور نیچے مردے کے، مٹی سے جسد مع کفن ملاصق ہوتا ہے، یہ مٹی میں ملنا اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے۔ کچھ اعتراض نہیں۔"

مسلمانو! دیکھو جھوٹ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو گڑھا۔ کہاں مٹی سے ملنا، اور کہاں مٹی میں ملنا۔

بہارِ دو خواں جانتا ہے کہ مٹی میں ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک میں ایسے مل جائیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ گنگوہی صاحب نے اسماعیل کی حمایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو کیسی صریح بے ایمانی کی کہ مٹی سے متصل ہو جانا، مٹی میں ملنا کہلاتا ہے۔ "حاش محض جھوٹ۔ روپیہ زمین پر، اور اُس پر مٹی رکھنے تو کوئی نہ کہے گا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا۔ ہاں چاندی کا بڑا وہ خاک میں گم کر مل جائے خلط ہو جائے تو اُسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی۔"

وہابیہ کے یہاں یہ وقعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی شان اقدس میں گالی کو کیسے کیسے پھیل بیچ سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ ایمان باقی ہے۔ واقعہ ایمان ہوتا تو گالیوں اور گستاخیوں کی یوں تو ہمیں اور تاویل میں نہ کرتے۔ صاف لکھ دیتے کہ جس کا وہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ مگر جن کے عقیدے میں رسول اللہ کی قدر، باپ سے کم، بڑے بھائی کے برابر ہو انہیں اس کی کیا پروا۔

مسلمانو! تم یاد رکھو کہ مٹی میں ملنا یہ ہے کہ جسم گل کر خاک ہو اور خاک میں خاک مل جائے۔ اور یہ صریح توہین و کلمہ کفر ہے۔ فقہائے کرام نے اس پر حجاج کی تکفیر کی اور حجاج ظالم کو کافر کہا۔ اُس نے لوگوں کو روضہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتے دیکھا۔ بولا "کچھ لکڑیوں اور گلے ہوئے جسم کا طواف کر رہے ہیں۔"

علامہ کمال الدین دمیری نے فرمایا۔ علماء نے اس قول پر اس وجہ سے اس کی تکذیب کی، کہ اُس میں اُس ارشاد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ کہ بے شک اللہ عزوجل نے پیغمبروں کا جسم کھانا، زمین پر حرام فرمایا ہے۔ نبی اللہ زندہ ہیں۔ رزق دیئے جاتے ہیں۔ گنگوہی صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دے کر، یہاں جو اپنے امام کی حمایت، بحیثیت جاہلیت کی ہے۔ وہ وہی ان کی صریح بددیانتی، کھلی ہوئی بے ایمانی اور گستاخی ہے۔ جس پر ان کے امام نافر جام کے ہنڈ ناہنڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ۱۲ خلیل عفی عنہ

شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ ارشاد کہ "عوام کے لیے بالتحین سکوت ہی ضروری ہے۔" سچا اور بالکل بر محل و بہ جا ہے کہ عوام الناس کو وقائقِ علمی پر کھنے کی لیاقت کہاں؟ تو اس کا حاصل نہ ہوگا مگر لا حاصل۔ لیکن جب اہل ضلالت متحد سب مل کر ایک ہو جائیں اور حق و تحقیق حق کے نام پر عوام الناس کو جاوہِ حق و صراطِ مستقیم سے بہکائیں۔ اپنی کھلی گمراہیوں کو، اہل حق پر ناجائز نکتہ چینیوں کے پردہ میں چھپا کر، اپنی کج بروی و کم فہمی اور گمراہی و نفس پرستی پر، حق و صداقت کا لیبل چپکا کر، عوام الناس ہی کے دین ایمان اور عقیدہ و ایقان کو اضمحلال کر دیتے ہیں۔ کھلونا بنائیں، اور اپنی نفسانیت و غلویت، پیرومی نفس و ضلالت کی اشاعت پر، پورا زور، یہ نکر و زور، دکھائیں، تو احقاقِ حق کا تقاضا اور الذین النصیح (دین خیر خواہی کا نام ہے) کا مقتضی یہی ہے۔ کہ عوام الناس کو ان گمراہوں اور گمراہ گروں کے کید و فریب سے آگاہ کیا جائے۔ اور ایمانی نگاہ سے دیکھنے تو اسلام و مسلمین کی سچی خیر خواہی، سچی اعانت، سچی دوستی، سچی نصیحت۔ اسی امر میں مضر ہے کہ انہیں، دینی مضرتوں پر مطلع اور مذہبی احکام سے آگاہ کیا جائے۔ تاکہ عوام المسلمین جملہ اہل ضلالت سے دور و نفور رہیں۔ اور مذہبِ اہلسنت کے برخلاف ان گمراہوں کی زہریلی بھی ہوئی چھریاں ان پر وار کر کے اپنا کام نہ کر جائیں۔

اللہ حبیب ہے اور قیامت قریب، اُس کا ثواب عظیم ہے اور عذاب شدید۔ دین کو جھگڑا سمجھنا، مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ تنہا یا دو دو، اطمینان سے، انصاف و ایمان سے، دو تین بار سچے دل سے، یا ایک ہی نگاہ، اُن اقوالِ کفر و ضلال کو دکھیں اور اہل اسلام اپنے قلوب سے فتویٰ لیں کہ:

۱۔ کیا جس نے کہا کہ "شیطان کو یہ وسعتِ نفس سے ثابت ہوئی، فخرِ عالم کی وسعتِ علم کی کونسی نص قطع ہے؟" اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اُس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتِ علم سے کافر ہو کر، شیطان کی وسعتِ علم پر ایمان نہ لایا؟

۲۔ کیا جس نے شیطان کی وسعتِ علم کو نص سے ثابت مان کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعتِ علم ماننے والے کو کہا "تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے" اور کہا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے؟ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی۔ وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت ماننی شرک مٹھرائی، جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ صفتِ خاص ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ تو جب نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا، اور اُس نے وہی صفت، وہی وسعت، خود اپنے مونہ ابلیس کے لیے ثابت مانی تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا یا نہیں؟

مسلمانوں! کیا یہ اللہ عزوجل اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اور کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔

۳۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ "کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی۔

کیا اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صریح گستاخی نہ کی؟ مسلمانو! ذرا ان کے اذتاب و اتباع سے پوچھو تو سہی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم دیا گیا تھا، جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

۴۔ کیا جس نے کہا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ

سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن الخ اُس نے خاتم النبیین کے معنی، سب میں پچھلے نبی ہونے کو جاہلوں کا خیال نہ بتایا۔ اور کیا یوں درپردہ تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جاہل و نا فہم نہ ٹھہرایا۔ کیا یہ کفر نہیں؟ ہے اور ضرور ہے۔ بلکہ کفر و کفر ہے۔

بالجملہ ان اقوال کا کفر و ضلال ہونا خود ہی عیاں ہے۔ آپ کا ایمان، آپ بتا دیگا کہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب رفیع میں جن کے یہ عقیدے، یہ اقوال ہیں، وہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یا دوست۔ انکے دلوں میں اسلام کا مغز ہے یا پوست۔ جو نہ دیکھے یا دیکھ کر انصاف نہ کرے، اُس کا حساب اللہ و احد قہار کے یہاں ہے۔ اور جو دیکھے اور اللہ و رسول کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے۔ مگر یوں کہ صاف صاف بات میں نہ ایچ پیچ کی حاجت، نہ اللہ و رسول کے مقابل کسی کی رعایت، پھر باپ توفیق کھلے گا اور اُس کا ایمان خود ہی فیصلہ دے گا کہ بجز اللہ تعالیٰ حق، آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔ تو ایسے اساسی عقائد و مسائل سے عوام المسلمین کو آگاہ نہ کرنا اور انہیں بہر حال میں صم بکم بنائے رکھنا، بہرگز بہرگز مقصود شریع نہیں۔ اور نہ شاہ صاحب کا یہ مقصد۔ بلکہ بات صرف فروعی مسائل کی ہے۔ اور شاہ صاحب کی نصیحت کا ما حاصل یہ ہے کہ عوام الناس ایسے مسائل میں علماء حق کے موخہ نہ آئیں۔ بلکہ خدا و رسول کا پاس لحاظ رکھیں اور حق پر قائم رہیں۔

انتباہ ضروری

وہابیہ عام طور پر اپنے عقیدے، اپنے نظریات، اپنی باتیں، اپنے خیالات دل میں چھپاتے ہیں اور فروعی مسائل، مجلس میلاد شریف، وقت ذکر و تلاوت، قیام اور درود و سلام۔ فاتحہ گیارہویں شریف، فاتحہ تہجد و سوال چالیسواں، عرس


بزرگانِ دین، یا رسول اللہ یا علی یا عیسیٰ یا ماریا، مزارات پر چادر چڑھانا، خلاف ڈالنا اور روشنی وغیرہ میں بحثیں کرتے ہیں۔ اور ان میں جو غیر مقلد ہیں۔ (جو کل تک اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے اور آج سوادِ اعظم اہلسنت بنتے اور مسلمانوں کو پھلتے ہیں) وہ مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھنے، آمین با لہر نہ کہنے، رفیع یدین نہ کرنے، وتر کی تین اور تراویح کی بیس رکعتیں ہونے اور ایسے ہی دوسرے امور میں پھیر کرتے ہیں۔ اور بھولے بالے مسلمان، ان کے دھوکے میں آکر ان امور میں ان سے بحث کرنے لگتے ہیں۔ یہ ناواقف وہ عیار۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ گمراہی بڑھے گی۔

بھائیو! جو لوگ اللہ و رسول کی عزت پر حملے کر رہے ہیں ان کو کسی فرعی فقہی جزئی مسئلے میں بحث کا کیا حق۔ یہاں تو ایک ہی بات ان کے جواب کو کافی ہے۔ اور ایک اپنے سمجھنے کو۔ اول یہ کہ تم لوگ پہلے اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو۔ دوم یہ کہ ان مسائل میں مخالف وہ لوگ ہیں جن کے اللہ و رسول پر وہ کچھ حملے ہیں۔ پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔ اور تمہیں ان سے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ سے کیا سروکار۔ تمہیں تو وہ کہنا ہے جو دونوں جہاں کے ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **وَإِيَّاكُمْ وَايَاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ**۔ تم ان سے دور رہو۔ انہیں اپنے سے دور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ ۱۲ محمد خلیل عفی عنہ

۱۱ اور بحدہ تبارک و تعالیٰ یہ فقیر بے توقیر بھی "فیصلہ ہفت مسئلہ" کے موضوعات کی توضیح و تشریح عبارات سے آج مورخہ ۲۴ محرم الحرام ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۳ء بروز شنبہ فارغ ہوا۔ واللہ رب العلمین۔ ہاں وصیت کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر کیا۔ اسے ہم نے قابل توضیح نہ جانا۔ اور اس عبارت کو ہاتھ نہ لگایا کہ فتنہ خواہیدہ بہ۔

"فیصلہ ہفت مسئلہ" کی تہذیب و تزیین کے بعد فقیر کا ارادہ تھا کہ براہِ ان اہلسنت و جماعت کی رہنمائی کے لیے، اساطینِ دین و ملت، مقتدایانِ مذہب اہلسنت

کے رسائل و فتاویٰ اور معتد علیہا کتابوں سے چند مفید مضامین کا انتخاب، ان کے ملفوظات یا اپنی زبان، اپنے الفاظ میں، اس کتاب میں شامل کرے۔ مگر قضائے الہی سے ہوا یہ کہ اسی عشرہ محرم میں یہ بندہ گناہگار، اپنی شامت اعمال کا شکار، اپنے قدیم مرصع رورم زبان کے علاوہ، پہلے انفلو انزا اور مچھر ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گیا۔ حملہ ان دونوں کا اتنا شدید تھا کہ ایک ماہ دس یوم تک مدرسہ میں آنا بھی نصیب نہ ہوا۔ آخر کرم خداوندی نے دستگیری فرمائی اور اس بے مایہ، بے توفیر نے ان مضامین کی ترتیب کا آغاز کیا اور انہیں "چند معروضات" کا نام دیا۔ فقیر امید کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ بہا "ہدایات" ان شاء اللہ تعالیٰ دین و دنیا اولیٰ و آخرت کی، سچی فوز و صلاح اور حقیقی سلامتی و صلاح کی موجب ہوں گی۔ واللہ الموفق ومنہ التوفیق و بیدہ ازمہ التحقیق - وهو تعالیٰ اعلم بالصواب و عندہ ام الكتاب۔




گزارش واقعی

اس کتاب لاجواب میں جو کچھ عرض کیا گیا اور جتنا کچھ ان معروضات کی صورت میں آپ کے پیش نظر ہے اس کا مقصد اعظم، آیات مبارکہ، احادیث کہمیر اور دوسرے دلائل شرعیہ، ائمہ کرام کے ملفوظات، اور مشائخ عظام کے معمولات کی روشنی میں نئے اور پرانے فتنوں کا ابطال و ازہاق، اور مذہبِ اہلسنت کا اثبات و احقاق ہے۔ تاکہ برادرانِ اسلام، حق کو پہچانیں، حق کو مانیں، حق کو جانیں، حق پر کار فرما رہیں۔ حق کو اپنا شعار بنائیں۔ اور پیروئی دینِ اسلام و پابندی مذہبِ اہلسنت کی بدولت، روحانی امراض سے نجات پائیں۔

کسی فرد یا جماعت کی توہین، یا دل آزاری، یا اشتعال انگیزی یا بہتان تراشی نہ مطمح نظر ہے اور نہ ہمارا نصب العین۔ ہم کجہرہ تعالیٰ مسلمان ہیں۔ صاحبِ اسلام و ایمان ہیں۔ سلامتِ رومی ہمارا شیوہ ہے اور امن پسندی ہمارا شعار۔ دعا ہے کہ خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب مستطاب کی تالیف و ترتیب کو قبول فرمائیں اور ہمیں دین پر ثبات، حق پر استقامت بخشیں۔ آمین

بجاء النبی الامی الامین علی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام الی یوم الدین۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اک ذرا تھوڑی دیر کے لیے نیچری تہذیب سے تنزل فرما کر، نئی روشنی کی اندھیر لویا بے جا حمایتوں اور ناحق طرفداروں سے باہر آکر وہ چند معروضات بغور پڑھ لیجئے۔ جن کی ترتیب و تالیف میں اس فقیر، سچدال نے بڑھی محنت و کاوش کو اپنایا ہے۔ اگر بغرض باطل ہمارے غلط فہمی ہے اور ہم اساطین مذہب ہند ابلسنت اور بزرگان ملت کی تصریحات سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور سوادِ اعظم ابلسنت انہیں غلط فہمیوں کو دین و مذہب حق جانتے رہے، تو حق و انصاف کو اپنا کر، بیجا پاسداری، ناحق طرفداری سے دامن بچا کر بنا دیجئے۔ ہمیں سجد اللہ تعالیٰ سرگزوہ نہ پائیں گے، جو سمجھ لینے کے بعد، باطل پر اصرار، ناحق سے انکار، نار پر عار، اختیار کرتے اور دیدہ و دانستہ اہل حق سے الجھتے رہتے ہیں۔ اور حرام کو حلال، حلال کو حرام کا جامہ پہنا کر، اسلام کو کفر، کفر کو اسلام بنا کر، عوام الناس، خصوصاً عامۃ المسلمین کو اپنی طرف، اپنوں کی طرف پلاتے رہتے ہیں۔

خلوص و کلمت پر مبنی ان چند معروضات کو ملنے نہ ماننے کا آپ کو اختیار ہے۔ ہم تو جزاء و حساب، کشفِ حجاب، روز شمار پر محول کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے کہ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ جس دن سب چھپی باتیں جانچ میں آئیں گی تو آدمی کو نہ کچھ زور ہوگا۔ نہ کوئی مددگار۔

معروضِ اول

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سارے جہاں سے زائد ہونی شرطِ نجات ہے۔“ رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ آتَاكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

” اے نبی فرمادو کہ اے لوگو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیبیاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کماٹی کے مال، اور وہ سوداگری، جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے۔ اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی، اگر تم کو اللہ اور اُس کے رسول، اور اُس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اور اللہ تعالیٰ بے کلموں کو راہ نہیں دیتا۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں، کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز، اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہِ الہی سے مردود ہے۔ اللہ اُسے اپنی طرف راہ نہ دے گا۔ اُسے عذابِ الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لَا يَوْمٌ مِنْ أَحَدٍ كَوْحَتِي إِكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

” تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا، جیت تک میں اُس کے پاس اُس کے باپ اولاد اور سب آدمیوں سے پیارا نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث نے تو بات صاف کر دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانو! کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا، مدارِ ایمان و مدارِ نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا اور ضرور ہوا۔

مسلمانو! کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔ وہ اُن کے بدگوئی و قہر کر سکے گا۔ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان

سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا۔ قرآن کریم کا تو صاف صاف یہی ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اُس سے دوستی نہ کرے گا۔ جس کا صریح مفاد یہ ہے کہ جو اُس سے دوستی کرے، اُس سے بار بار نہ منائے اُسے اپنا ہمدرد و ہمہی خواہ بنائے، اُس کے ساتھ محبت و یگانگت کے گیت گائے وہ مسلمان نہ ہوگا۔

رب عزوجل فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آيَةٌ

” تو نہ پائے گا اُنہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر، کہ اُن کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی۔ چاہے وہ اُن کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔“

اور قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر ان سے دوستی کرنے اور محبت کا دم بھرنے والوں کو ظالم بھی فرمایا اور گمراہ بھی ٹھہرایا۔ اور پھر یہ تصفیہ فرمادیا کہ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

کہ جو اُن سے دوستی رکھے وہ بھی اُنہیں میں سے ہے۔ اُنہیں کی طرح ظالم و کافر، اُنہیں کے مانند سرکش و گمراہ ہے۔ اور اُنہیں کے ساتھ ایک رستی میں باندھا جائے گا۔“

کیا اب بھی کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نیچر لوں، قادیانیوں، مرزائیوں، رافضیوں، وہابیوں اور دوسرے گمراہوں کے ساتھ و داد و محبت اور اتحاد و یگانگت کے رابطے بڑھانا، اُن سے نیکی و شفقت سے پیش آنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب روا ہے۔ سب بجا ہے۔

لِلَّذِیْنَ اَصَابَتْ اَصَابٌ

اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے کسی معظّم کو دینی ہو یا دنیاوی، گالیاں دے۔ اُن کے حق میں زبان درازی کرے، اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے۔ اُس کی اشاعت کا اہتمام، قابل عقاب، جائے، کیا تم اُس کا ساتھ دو گے۔ یا اُس کی بات بنانے کو تاویلیں گڑھو گے۔ یا اُس کے بکنے سے بے پروا ہی کر کے اُس سے بدستور، حسب معمول صاف دل رہو گے۔ اُسے مرجبا کہو گے۔ اُس کی محبت کا دم بھرو گے اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ گے۔ نہیں نہیں اگر تم میں انسانی غیرت، خاندانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اُس بدگوشتنامی کی صورت سے نفرت کرو گے۔ اُس کے سایہ سے دور بھاگو گے۔ اُس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے۔ جو اُس کے لیے بناوٹیں گڑھے اُس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پتلے میں، اور اللہ واحد قہار و مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو، دوسرے پتلے میں رکھو۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو، اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے۔ ماں باپ کی محبت و حمایت کو، اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے۔ تو واجب واجب واجب لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ اُن کے بدگو سے، وہ نفرت و دوری، وغیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اُس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔ اور اس کا تقاضا، ایمانی تقاضا، یہ ہے کہ ایسے بدگو یوں سے تنکا توڑ جدائی اختیار کرو اور صاف صاف الفاظ میں اُن سے بیزاری و نفرت کا اعلان کر دو۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حساب کے لیے بارگاہ

رب العزت میں لایا جائے گا۔ اُس سے سوال ہوگا، کیا لایا؟ وہ کہے گا، میں نے فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھیں۔ علاوہ ماہِ رمضان کے اتنے روزے رکھے۔ علاوہ زکوٰۃ کے، اس قدر خیرات کی۔ اور علاوہ حج فرض کے، اس قدر حج کئے۔ وغیر ذلک۔ ارشاد باری ہوگا **هَلْ وَلِيَّتْ لِي وَلِيًّا وَعَادِيَّتْ لِي عَدُوًّا**۔ کبھی میرے محبوبوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت بھی رکھی۔ "نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ عمر بھر کی عبادت ایک طرف، اور خدا و رسول کی محبت ایک طرف۔ اگر محبت نہیں، سب عبادات و ریاضات بیکار۔

نیچری تہذیب کے مدعیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بھرے محبوبوں اور اسٹیجوں پر دیکھا ہے کہ ذرا کوئی کلمہ اُن کی شان کے خلاف کسی نے کہا، اور وہ ہونے آپے سے باہر۔ تھوک اُڑنے لگتا ہے۔ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ جو اس باختہ ہو جاتے ہیں اور مخالف پر برس پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ محبوب تہذیب، وہ دیوانی شائستگی بھر ہی پھرتی ہے۔ جس کے یہ دیوانے ہیں۔ اور جس کے ان کی زبانوں پر ترانے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اُن کی اپنی نگاہوں میں اپنی عزت و وقعت، اللہ و رسول و معظمان دین سے زیادہ ہے۔ ایسی ناپاک تہذیب انہیں کو مبارک۔ فرزندِ اسلام اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

قادیانیوں، مرزائیوں، رافضیوں، نیچرلوں، چکڑالویوں اور ایسے ہی دوسرے گمراہوں کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں۔ جو انہیں اٹھا کر دیکھے گا۔ اُس کا ایمان اُسے آپ ہی بتا دے گا۔ کہ جن کے یہ عقیدے، یہ اقوال ہیں وہ خدا و رسول کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کا مغز نہیں پوست ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ :-

قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ یوں ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ

کی دلائل اپنے مطالب و مفاد میں اور اپنے معانی و موضوعات پر ایسی صریح و واضح ہوتی ہیں کہ ان کے معانی و مطالب میں کوئی خفا، کوئی اشتباہ کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ اپنے معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ آیات و احادیث ہیں جنہیں تاویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی غیر کے ہاتھ آتا ہے۔ اور بعض آیات و احادیث وہ ہیں جن کے معنی و مفہوم میں اشتباہ و احتمال کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کی تعبیر و تفسیر کے مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ انہیں آیات و احادیث کی تاویلات کی آڑ میں گمراہان و گمراہ گمراہی اور کج فہمی و کج رائی کو بنیاد بنا کر، مسلمانوں میں بھینٹنے ڈالتے اور ان میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ کج رائے، کج رو، زندقہ و الحاد کے داعی صریح احکام و ہدایات کو پس پشت ڈال کر ان آیات و احادیث کو توڑ مروڑ کر اصل دین بتاتے اور اپنی گمراہیوں کی سندیں بناتے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی ادھیڑ میں لگے رہتے ہیں۔ کہ دین میں کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کریں، اور بجائے اُس کے کہ خود دین کی راہ پر چلیں دین دار مسلمانوں کو اپنی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، ان کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ عاصمہ المسلمین کو تشویش میں ڈال کر ائمہ دین و سلف صالحین کی راہ و روش سے ہٹا دیں۔ ہوشیار ہوشیار۔ خبردار خبردار۔ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی چکنی چٹری زبان و ہاتھوں پر کان نہ لگائیں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی صاحب قرآن کی تلقین۔

معروض دوم

وہ شخص حکومت کا باغی و بدخواہ، اور ملک و ملت کا مخالف و دشمن قرار پاتا ہے جو حکومت کے صاف صریح قوانین کو اپنی ناقص فہم سے، اپنی خواہش نفس کے مطابق پلٹ ڈالے۔ اور قانون کی عبارات منصوصہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر، ان کے اُن مصداقوں سے دور ڈال دے جن کے لیے واضح الفاظ میں وہ قانون بنایا گیا ہے۔ نام اسی قانون کالے، اور قانون کے وضع کرنے والوں سے کھلم کھلا مقابلہ نہ کرے۔

بلکہ یہ اس کی عیاری میں شمار ہوگا اور دوسرے کھلے ہوئے باغیوں سے زیادہ وہ سزا کا سزاوار ہوگا۔ کہ قانون کا جھوٹا نام لے کر فساد مچانا، انتشار پھیلانا اور ملکی امن و امان کو تہ و بالا کرنا اور اپنے ساتھ قانون کو بدنام کیا جاتا ہے۔

بس یوہیں سمجھ لیجئے کہ جب اُس حاکم مطلق نے اپنے خلیفہ برحق کی زبان حق ترجمان سے یہ قطعی حکم سنا دیا کہ تہتر فرقوں میں سے ایک ناجی ہے اور بہتر باغی و ناری۔ اور یہ بھی طے کر دیا کہ غیر سبیل المؤمنین کا بیع اور اجماع مسلمین کا منکر، مستحق جہنم ہے۔ اور یہ امر بھی واضح کر دیا کہ اہلبیت کرام و صحابِ عظام سے محبت فرض ہے اور ان سے دشمنی و دشمنی خدا و رسول ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بد مذہبوں کی موالات و محبت باعث نقصان دین ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ منکر ضروریات دین اسلام، قطعاً کافر ہے۔ الی غیر ذلک۔ بس دنیا ہی میں ایمانی ایتقانی شرعی فیصلہ ہو چکا، ہو گیا۔ اب اس فیصلہ کو چونہ مانے تو ایسے منافق عنید کے سزا دینے کو حضرت فاروق اعظم جیسا باہت و شوکت، محتسب شدید درکار ہے۔ ہم غریبائے اہلسنت سے سوائے پرہیز و احترام کے، اس زمانہ ضعیف میں اور کیا ہو سکتا ہے۔

میری نہ مائیں تو نہ مائیں۔ قرآن کریم کی تو مائیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو مائیں۔ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کو دیکھیں۔ اجماع امت کو دیکھیں حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں۔ وہ اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب ۱۶۵ میں صفحہ (۱۶۹) پر اپنے خلیفہ و مرید سیادت پناہ جناب سید شیخ فرید علیہ الرحمۃ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لازم است کہ ہمگی ہمت در ایقان احکام شریعت باید صرف نمود۔ و اہل شریعت را از علماء و صلحا، تعظیم و توقیر باید داشت و در ترویج شریعت باید کوشید۔ و اہل ہوا و بدعت را خوار باید داشت من و قر صاحب بدعتہ فقد اعان علی عدم الاسلام۔
..... (الی قولہ) اگر بایں راہ رفتہ نشود، وصول بایں جناب قدس دشوار است

صححات صححات

یعنی یہ بات لازم ہے کہ شریعتِ مطہرہ کے احکام بجالانے میں پوری توجہ سے کام لیا جائے۔ اور پابندِ شرع علمائے دین و صالحین کی تعظیم و توقیر کی جائے شریعتِ مطہرہ کے احکام کو رائج کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنی خواہشات کے پیروکار، بد مذہبوں کو ذلیل رکھنا چاہیے کہ حدیثِ شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، اُس نے اسلام کے دھارینے پر مدد دی" اور کافروں کے ساتھ جو خدائے برتر کے دشمن اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، دشمنی رکھنی چاہیے۔ اور ان کی ذلت و خواری میں کوشش کرنی چاہیے اور کسی طور ان کو عزت نہ دینا چاہیے۔ ان بد نصیبوں کو اپنی مجلس میں نہ آنے دیں۔ نہ ان سے رسمِ محبت پیدا کریں۔ بلکہ ان کے ساتھ شدت و غلظت کا سلوک کیا جائے۔ اور چہاں تک ممکن ہو، کسی معاملہ میں ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اور بالفرض اگر کوئی ضرورت پڑھی جائے تو بیت الخلاء جانے کی طرح، شرعی ناگواری اور مجبوری کے ساتھ، ان سے اپنا کام نکالیں۔

آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ قدس تک جو راستہ پہنچانا ہے۔ وہ یہی ہے۔ اگر اس راہ پر نہ چلا جائیگا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی بہت دشوار ہے۔ یہ بات بہت دور ہے۔ یہ امر بہت بعید ہے۔ غرض اُس وقت سے آج تک علمائے اہلسنت و جماعت ر اللہ تعالیٰ انہیں اور فزونی دے) اپنے فتاویٰ مبارکہ میں یہی ارشاد فرماتے رہے کہ تم دنیا میں جیو تو اس طرح جیو، جس طرح خدا و رسول جل و جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کاروبار، بیوپار، نوکری، مزدوری سب شریعتِ مطہرہ کے مطابق ہو اور ہر قدم شریعتِ محمدیہ کے موافق ہو۔ جو لوگ اپنے عقائد کفریہ کے سبب حکمِ شریعتِ مطہرہ کافر بنے ہیں، ان سے دینی عداوت، مذہبی نفرت رکھو۔ نہ کہ خلطِ ملط۔ گھالِ میل۔ محبتِ دیاری، اور باہمی اُتس و مودت۔ کہ یہ ہرگز

جائز نہیں۔ بلکہ جہاں تک بن پڑے دنیاوی تعلقات بھی ان سے نہ رکھے جائیں لیکن اگر ایسا کرنے کے لیے ضرورتیں اور مجبوریاں درپیش ہوں تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے۔ مگر وہ جوان بد مذہبوں اور گمراہوں مذہبی نفرت و دوری، اور دینی اجتناب و بیزاری کا حکم شرعی ہے، اس میں کمی نہ آنے میں یہی دین، یہی طریقہ، یہی مذہب، یہی وتیرہ رہا۔ حضرات اولیائے کرام قدس سرہم کا۔ اور یہی معمول ہے۔ مجاہدہ تعالیٰ تمام علمائے اہلسنت و جماعت کا۔

ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ :-

کفار تین قسم کے ہیں :-

۱۔ ایک اصلی کافر یعنی مشرکین یہود وغیرہ۔ جس کا بیان اِنَّ الدِّينَ كُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ط میں ہے کہ "بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں۔ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔ وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔" یہاں یہ صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قانون الہی کے باعنی دستکدہ ہیں وہ اپنے ماضی و حال و مستقبل میں جیسے کچھ بھی ہوں اور دنیاوی حیثیتوں سے وہ لوگوں میں جیسے بھی مانے گئے اور شمار کیے جاتے ہوں، یہ لوگ خدا و رسول جل و علا صلی علیہ وسلم کی عزتوں میں اپنی شہرت میں کامل اور بدترین خلائق ہیں۔

اور ہر چند کہ اس گروہ نے چاہا کہ ان کے ساتھ مداسنت کی جائے۔ ان سے دوستی برتاؤ کیا جائے۔ ان سے کشادہ پیشانی سے ملا جائے اور ان سے حسن سلوک برتا جائے مگر حق تبارک و تعالیٰ نے صاف و صریح ممانعت فرمائی اور آیت کریمہ وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدُّهُنَّ نَازِلٌ كِي۔ کہ "اے محبوب وہ تو

اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔
 یعنی ان کی تو عین تمنا، دلی آرزو یہ ہے کہ آپ دین کے معاملہ میں ان کی
 رعایت کر کے، اپنے فرائض تبلیغ میں مروت و چابلوسی اختیار کریں اور ڈھیلے
 پڑ جائیں تو یہ بھی اپنی شدت مخالفت و عناد میں ڈھیلے پڑیں۔ لیکن آپ ان کے
 کہے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ جیسا کہ اب تک نہیں آئے ہیں۔ کہاں آپ سرتا سرتی
 پر۔ اور کہاں وہ سرتا سرتا باطل پر۔ تو دین کے معاملہ میں ان کی رعایت کیسی۔ اور
 فرائض تبلیغ میں ان کی کیا مروت؟

اور اتنا ہی نہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو صاف صاف بتا
 دیا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی
 رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔

کیسا شدید اور تاکید می حکم ہے کہ مسلمانوں پر یہی و نصاریٰ سے علیحدگی اور جدا سنا
 واجب ہے۔ پھر یہ ممانعت جب اہل کتاب سے دوستی اور یگانگت اور محبت
 و قلبی مودت کی ہے کہ ان سے دوستی و محبت اور خصوصی قربت کے تعلقات
 نہ رکھے جائیں۔ حالانکہ یہ لوگ توحید و رسالت اور جزائے آخرت کے عقائد میں
 فی الجملہ، کم از کم اصولی طور پر تو مسلمانوں سے متحد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کفار منہود اور
 مشرکین عنود کے مقابلہ میں، یہ ممانعت کتنی موکدہ اور اشد ہوگی جو مسلمانوں کے
 ساتھ کچھ بھی قدر مشترک نہیں رکھتے۔ یہ نہ بھی ہو تو کافر کتابی کے درجہ میں
 تو وہ بہر حال رہیں گے۔ اور اپنی نجاست قلبی و خبائثت باطنی کے باعث
 ان احکام سے مستثنیٰ تو نہ ہوں گے۔ غرض قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ جو
 مسلمان ان سے دوستی کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ یعنی انہیں میں داخل
 انہیں میں شامل، اور انہیں کا ایک جز یا ضمیمہ سمجھا جائے گا۔

غیروں بیکالوں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو نہیں سکتی، جب تک پہلے
 ان کی عظمت، ان کی محبت کا نقش دل میں نہ بیٹھ جائے اور مسلمان اپنی پختگی سے

کچھ نہ کچھ مہٹ نہ لے۔ قومی تشخص اور ملت کی خودی کے لیے لازم ہے کہ ملت اسلامی کے دوستانہ مراز دارانہ، برادرانہ تعلقات، غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں سے بالکل ممنوع قرار دیئے جائیں۔ کہ جب یہ اسلام چھوڑ چکے، صراط مستقیم سے موڑ موڑ چکے، اگرچہ براہ فریب خود کو مسلمان جانیں، مسلمانوں میں مانیں۔ ان سے ہمارا کیا رشتہ۔ ان کا مسلمانوں سے کیا علاقہ۔ اور یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دشمنان دین کے ساتھ خلا ملا، میل جول، زیادہ رکھتے

اور ان کے ساتھ محبت و دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر سے، ہم دین دینی تہذیب اور تہذیب خود داری، رخصت ہو جاتی ہے۔ احادیثِ کریمہ میں، دوسری قوموں کے وضع و لباس اختیار کرنے، ان سے تشبہ پیدا کرنے کی جو ممانعت آئی ہے۔

وہ عجب نہیں کہ انہیں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی نہ ہو۔ اور خود رسول کریم صاحب خلق عظیم نے جو کبھی انہیں نجس و خبیث بتایا، کبھی بندروں اور خنزیروں کی طرح فرمایا، اس میں یہی حکمتیں کار فرما ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت نہ سما۔

اور مسلمان ان کے رنگ میں رنگ کر، دولت ایمان ہاتھوں سے نہ گنوائے۔ غرض جسے دوستی کا علاقہ کہتے ہیں وہ ایک کیفیتِ قلبی اور پھر عملی برتاؤ ہے، کا نام ہے اور مسلمانوں کو، کافروں، منکروں، خدا و رسول کے باغیوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ تہذیب خود داری اور قومی تشخص کے بالکل منافی ہے۔ بہر حال یہ پہلی قسم کے کفار کا بیان تھا۔

۲۔ دوسرے منافقین کافر جو کلمہ گو تھے، نمازی تھے، مگر حسد کی راہ سے، یا اپنے منصب و جاہ کے زوال کے خیال سے، حقیقتاً اسلام کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ انہیں میں سے بعض کا یہ حال تھا کہ اہل ایمان کے پاس اگر ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہاری طرح صاحب ایمان ہیں۔ اور اپنے روئے شیطانی کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تو دھوکا دینے کی غرض سے، مسلمانوں کے پاس آئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بنانے کے لیے ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔ انہیں منافقوں

کی ایک ذہنیت، یہ بھی تھی کہ غریب عوام مسلمانوں کے سامنے تو اکڑتے رہتے۔ لیکن مسلمانوں میں جو صاحب اثر و اقتدار ہوتے، ان کے آگے خود جھک جاتے اور ان سے تملق و چا پلوسی سے پیش آتے۔ خوشحالانہ رویہ اختیار کرتے۔ اور انہیں میں سے بعض کا عالم یہ تھا کہ کمال شفقت و مہربانی کے اظہار کے لیے مسجد بنانے میں اپنا روپیہ صرف کیا۔ جماعت کا اہتمام کیا۔ اور معذور و کمزور مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام لیا۔ جبکہ انواع و اقسام کے اس کید و تقیہ سے مقصود ان کا اپنی پردہ پوشی تھی۔

مگر اللہ عزوجل نے ان کے اس کید و تقیہ کا پردہ چاک فرمادیا۔ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان نام نہاد مسلمانوں اور حقیقتاً اسلام سے بغض و عناد رکھنے والے ان منافقوں کو اس دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل سے ذلیل کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کی وہ مسجد ضراب بھی مسمار و بھوار کر دی گئی اور عاقبت میں بھی ان پر خواری و فضیحت مسلط کر دی گئی۔ کہ مشرکین سے بھی بدتر ٹھہرے اور صاف صاف فرمادیا گیا کہ:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ

” ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

اس مختصر سی آیت کریمہ نے کیسا واشکاف فرمادیا کہ:

- ۱۔ بد عقیدگی ایک مہلک بیماری ہے اور روحانی زندگی کے لیے تباہ کن۔
- ۲۔ تقیہ بڑا عیب ہے اور جس مذہب کی بنیاد تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔
- ۳۔ اسلام و مسلمین کی ترقیوں اور فستح مندلیوں سے، ان لوگوں کے دلوں کی کڑھن اور جلن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلامی اقتدار سے ان کا غیظ و بغض اور بڑھتا ہے۔

۴۔ ان کا عذاب، کھلے کافروں کے عذاب سے کہیں زیادہ دردناک ہوگا۔

۵۔ منافق کافر ہونے کے علاوہ کاذب بھی ہیں اس لیے دوسرے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے کافروں سے بدتر مقام و

عذاب کا اعلان فرمایا کہ :-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں۔“

وجہ ظاہر ہے کہ منافق اپنے جرم کفر پر ایک مزید مجرم مکر و فریب کا اضافہ کئے ہوئے دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں خود کو بچا رہا ہے۔ اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا، اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوہ رہا ہے۔ اس لیے اگر اُسے کھلے ہوئے کافر سے سخت تر عذاب ملے تو یہ عین مقتضائے عقل ہے۔

۱۴ - یسیرے کفار، وہ مرتدین ہیں، جو احکام اسلامیہ کے قبول کرنے کے بعد پھر منکرف، اور انکار و بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اگرچہ وہ زبانی دعویٰ اسلام پر قائم رہیں۔

کافروں کے اس گروہ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو شدت فرمائی اس کا ایک شتمہ تو وہ ہے کہ انہیں سخت عبت خیز سزا دی گئی۔ سلاٹیاں ڈال کر حکم رسول، ان کی آنکھیں اندھی کی گئیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر، دھوپ میں، بے آب و دانہ ڈال دیا گیا۔ حتیٰ کہ وہ دشمنان رسول و پیڑھ تڑپ تڑپ کر فی السار ہو گئے۔ یہ واقعہ حیات شریف کا تھا۔

اور بعد وفات شریف، جب ایک فرقہ نے، اقرار شہادتین، و سجدہ الی القبۃ، یعنی کلمہ گوئی و قبلہ روئی کے باوجود، صرف ایک امر ضروری، یعنی فرضیت زکوٰۃ کے باقی رہنے کا انکار کیا تو حضرت افضل البشر عبد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، باجماع صحابہ، باعنی و منکرف و مرتد و کافر قرار دے کر، کس شدت کے ساتھ، کس نازک وقت میں قتل کیا، ان کی تذلیل و تحقیر، ان کی اہانت و توہین کو ضروری بھی سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تاکہ حق، آفتاب نیم روز کی طرح آشکار رہے۔ اور کوئی کلمہ کو اس خبیث میں مبتلا نہ رہے کہ ایمان و اسلام کا مدار، فقط کلمہ گوئی

پیر ہے۔ یا یہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے، وہ کسی عقیدہ فاسدہ سے گمراہ یا کافر نہیں ہو سکتا۔

یا یہ کہ تمام کلمہ گو فرقے، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خواہ کوئی مذہب رکھتے ہوں۔ نہیں نہیں بلکہ الْحَبِّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ دینِ متین کا رکنِ اہم ہے۔ اور اَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کا شعار۔ رباعی:-

از ہمنفسانِ ناموافق بگریز وز دوست نمایانِ منافق بگریز

چوں شبِ سیہِ ظاہرِ باطنِ شان از ظلمتِ شبِ چو صبحِ صادق بگریز

خلاصہ کلام یہ کہ دوستِ ناموافقوں اور ہم نفسوں سے، کہ جن کا ظاہر و باطن سیاہ ہے اسی طرح دور رہو جیسے صبح صادق، رات کی اندھیری سے دور رہتی ہے یعنی تو لالے تیرا نیست ممکن۔

معروضِ سوم

اصولِ حفظانِ صحت

تین الفاظ سے مرکب یہ فقرہ، آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے مراحل پر یاد آتا اور بالخصوص وبائی بیماریوں کے دوران، بہت سی احتیاطوں، پیش بندیوں، پیراجہارتا بلکہ وبائی بیماری سے دوری و اجتناب برتنے، اور حتی الامکان پیمیز سے آپ کو آماہ کرتا ہے اور انہیں "اصول" کی رہنمائی میں آپ اہتمام کرتے ہیں کہ

- ۱۔ بیمار کے پاس، خصوصاً اس کی چارپائی پر نہ بیٹھیں۔
- ۲۔ اُس کے استعمالی برتن، کسی کے استعمال میں نہ لائے جائیں۔

- ۳۔ اُس کے کپڑے، نجس کپڑوں کی مانند، دور رکھے جائیں۔
 ۴۔ اُس کے ساتھ ایک برتن درکنار، بچا کھانے سے کامل پرہیز کیا جائے۔
 ۵۔ اپنا منہ، اُس کے منہ سے دور رکھیں تاکہ اُس کی سانس کا کوئی اثر نہ آنے پائے۔

۶۔ جراثیم کو ختم کرنے والی دواؤں کا مسلسل چھڑکاؤ ہوتا رہے۔
 ۷۔ حتی الامکان، ضرورت شدیدہ کے بغیر کوئی ادھر نہ جائے۔ وغیرہ وغیرہ
 لیکن شریعت مطہرہ کفر و طغیان اور نفاق کی بیماریوں سے بچنے اور بچانے کے لیے جو اہتمام کرے، اُسے تنگ نظری کا نام دیا جائے۔ اُسے "دین ملافی سبیل اللہ فساد" قرار دے کر علمائے دین و ملت کے خلاف لیکچر دیئے جائیں۔ ان سے خصوصیت نزع، اور ان سے عناد کے لیے جماعتیں ترتیب دی جائیں۔ دھواں دار تقریریں کی جائیں۔ انہیں قومی و ملی اتحاد و یگانگت کا دشمن قرار دیا جائے۔ پھر لطف یہ کہ یہ ساری خرافات دین کے نام پر، ملکی و ملی ترقی و فلاح کے نام پر عمل میں لائی جائیں۔ یعنی جو آپ اختیار کریں وہ عین اسلام اور جس کی تعلیم مقتدایان اسلام دین، وہ اسلام سے بے علاقہ۔

عزیزو! قانون ملکی کے منکروں، باغیوں، اور ان کے ہم نشینوں بلکہ مصاحبوں بلکہ سہی خواہوں تک سے تعلقات کی روادار، کوئی ملک، کوئی ریاست، کوئی مملکت اور کوئی حکومت نہیں۔ کسی ملک و مملکت اور کسی ریاست و حکومت میں انہیں آزادی نہیں، قید و سلاسل اور صعوبت خانوں کی چار دیواری کے علاوہ، کہیں ان کے لیے جگہ نہیں۔ کوئی ان کا مقام نہیں۔ کہیں آزاد فضاؤں میں ان کا قیام نہیں۔ تو قانون اسلام کی رو سے بھی منکروں، باغیوں اور بغاوت پر کمر بستہ رہنے والے منافقوں اور انہیں کے ہم نوا، ہم پیالہ اور ہم نوالہ، بد مذہبوں بد دینوں گمراہوں سے، ہر قسم کے تعلقات و روابط کی اجازت و آزادی شریعت اسلامیہ کس طرح دے سکتی ہے۔ بحالت ضرورت، بقدر ضرورت، حدود احکام شرعیہ میں رہتے، نظر بہ حالات زمانہ، بعض معاملات اور ان سے مدارات کی اجازت، تو ذہن میں آسکتی ہے۔

لیکن ایک خاص حد سے بڑھ کر، اُن سے تعلقات استوار کرنے کی اجازت، کسی اسلامی ریاست میں، کسی فرد اور کسی جماعت کو نہیں۔ کہ ہر ذمی عقل صاحب الرائے پر اس سے ملک و ملت دونوں کو ضرر کے اندیشے اور خطرے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس صریحی معتول مناسب و ضروری انتظام کا نام بعض عقل کے دشمنوں نے تنگ نظری رکھا ہے۔ سبحان اللہ! وبائی امراض اور بزمِ خم خورشید متعدي بیماریوں میں پیمیز و احتیاط کا نام تو فخر کے ساتھ "اصول حفظانِ صحت" رکھا جائے۔ اور جو انتظام کفر و طغیان یعنی دنیا و آخرت دونوں کی بربادی سے بچنے کے لیے کیا جائے، اُس کا نام "تنگ نظری" پر جائے۔ یہ عقل دشمنی اور فراست ایمانی سے محرومی کی بین مثال نہیں تو اور کیا ہے؟ - دنیا و آخرت میں، فرد و ملت دونوں کے انفرادی اور جماعی فوائد اور ملکی مفادات سے یوں موٹھ مچھیر کر دامن بچا لینا، خود اپنے پاتھوں لہنی بربادی کا سامان ہتیا کرنا ہے۔

چند آیات کریمہ

یہ فقیر اپنے سنی مسلمان بھائیوں کی معلومات کے لیے بہ نیت خیر خواہی
چند آیات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہے تاکہ وہ کسی کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے :-

(۱) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
”اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔“

رُكُون کے معنی ہیں، کسی کی طرف جھکنا۔ اُس کے ساتھ میل محبت رکھنا۔
اُس کے احوال و اعمال میں شریک رہنا۔ اور ظالمین ”ہیں جس طرح کفار و مشرکین
اور یہود و نصاریٰ داخل ہیں، یوں یہ آئیہ کریمہ اُن لوگوں کو بھی شامل ہے جو
عقیدہ و عمل کے اعتبار سے، جمہور اہل اسلام و مسلمین سے الگ تھلک اپنی ڈیڑھ
اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف فرمادیا — اور بتا دیا کہ
خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول
مروت و محبت کی رسم و راہ، اُن کی چاپلوسی و خوشامد، اُن کی ہاں میں ملانا، سب
ممنوع و قابل سزا جرم ہے۔ یوں بلا ضرورت شرعیہ ان کی وضع اختیار کرنا۔ باوجود
قدرت اُن پر رد و انکار نہ کرنا۔ ان کی تعظیم و توقیر کرنا، بلا ضرورت شرعی، اُن کے ساتھ
مصاحبت و مجالست اور ان کے ساتھ ملاہنت، یہ سب اسی نہی کے تحت میں آجاتا
ہے۔ اور یہ سب مثالیں ”رکون الی الکفار“ ظالموں کی طرف جھکنے کی ہیں اصلی جوڑ
اور ساتھ تو، کافروں، منافقوں اور ملحدوں کا ہے۔ حقیقتہً مناسبت انہیں کے درمیان
باہم ہے۔ پاک و صالح سنی مسلمانوں کا ان سے کیا تعلق؟ ملی و مذہبی خودداری و غیرت مندی

بھی آخر کو ٹی شے ہے۔

(۴) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

”اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں (طعن و طنز و تشنیع و استہزاء کے ساتھ) تو ان سے موٹھ پھیرے، جب تک اور بات میں نہ پڑیں۔ اور جو کہیں تجھے شیطان مھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔“

خطاب آیہ کریمہ میں عام قارئین قرآن سے ہے اور صاف حکم مل رہا ہے تمام اہل ایمان کو، کہ جو بے دین، مذہبی احکام و دینی مسائل، اسلامی عقائد اور معجزات و دلائل کے ساتھ مضحکہ و تمسخر کرتے ہوں اور ان کی مجلسوں میں، اسلام کا احترام نہ کیا جاتا ہو، ان کے پاس اتنی دیر اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی واجب ہے اور اسی سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے، بد مذہبوں گھراہوں کے وہ مجھے، جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا اور شرکت کرنا جائز نہیں۔ پھر جن قوموں نے وقتی و ہنگامی طور پر نہیں، بلکہ اپنا مستقل مشغلہ ہی احکام اسلامی کے ساتھ، طنز و تمسخر، حیلہ جوئی، بیہودہ گوئی بنا رکھا ہے، ان کی صحبتوں سے کنارہ کشی، اور ان کی مجلسوں سے علیحدگی کس درجہ اہم ضروری ہوگی، اس کا فیصلہ ہر انصاف پسند کر سکتا ہے۔ اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ بے دینوں اور غیر مذہب والوں سے بلا ضرورت خللاً نکلا اور بلا کسی دینی مصلحت کے، ان سے خلط ملط، اس حکم ممانعت میں داخل ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ آیہ کریمہ ہر مبتدع و کافر اور ہر فاسق، مجاہر کو شامل ہے۔ وَالْقُعُودُ مَعَهُمْ مَمْتَنِعٌ اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ممنوع ہے۔

اور قعود کے یہاں لغوی معنی مراد نہیں کہ کھڑے ہونے کی اجازت ہو بلکہ اپنے

وسیع معنی میں ہے اور گمراہوں، بد مذہبوں، بے دینیوں سے خلا نکالنے کی ہر صورت ناجائز ہے۔ نرمی و ملاحظت، رواداری و مدارات اور ظاہری خوش خلقی کے بھی شریعت میں حدود و مقرر ہیں۔ جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو، جہاں دین کا مضحکہ اڑایا جا رہا ہو، جہاں دین میں اپنی مرضی سے ترمیم و تنسیخ، تغیر و تبدیل ہو رہی ہو، وہاں سختی و تصلب ہی کارآمد ہو سکتی ہے۔ نہ کہ مروت و چشم پوشی۔

اور ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو کہ قانون شریعت (کہ یہی راہ ہے عامۃ المسلمین کی) اس کے علاوہ کسی اور دین پر چلنا، عام مسلمانوں کے خلاف نئی روش اختیار کرنا، اور سبیل المؤمنین کے مخالف، کسی اور طور طریقے کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کا دم بھرتا، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ امن عالم اور سلامتی ملک و ملت کا صحیح نظام اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب عملدرآمد قانون شریعت اسلام پر رہے۔ اہل اسلام کی راہ سے سر مو انحراف نہ کیا جائے۔ سبیل المؤمنین سے ہٹنا انحراف و تجاوز ہوگا، دنیا میں اسی قدر بد نظمی، ابتری، کشت و خون اور ہر قسم کی طبقاتی جنگ اور کش مکش کا اضافہ ہوگا۔ اور افتراق و انشقاق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائیگا۔ جب کوئی فرقہ قانون الہی کو چھوڑ کر، سبیل المؤمنین سے ہٹ کر، سواد اعظم ملت سے کٹ کر اپنے ہوائے نفس کے مطابق، کوئی طور طریق، کوئی روش اختیار کر لے گا تو اس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فساد ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ قادیانیت و مرزائیت، رخص و خروج و ہابیت و دیوبندیت، چکرا الویت اور نیچریت نے جب سے سر اٹھارا، مسلمانوں میں تفاق و شقاق کے چشمے اُبلے۔ باہمی فتنہ و فساد کے چرچے پھیلے۔ گھر گھر فتنوں نے ڈیرا جمایا، اور مسلم خاندانوں میں آگ لگا کر، ایک دوسرے سے چھڑایا۔ باپ سستی، اولاد وہابی۔ شوہر سستی، عورت خارجی، بیوی سستی، شوہر مرزائی۔ آئے دن تو توئیس میں۔ ہر روز کے جھگڑے مناقشے۔ ویرانیوں سے گھر آباد۔ عیش و عشرت برباد۔ یہ اس سے نالاں، وہ اس سے گریزاں۔ نہ بزرگوں

کا پاس نہ چھوٹوں کا لحاظ۔ غرض کس کس کا رونا روینے۔ اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے اسی
جھوٹی رواداری اور چالپوسی کا۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ۔

(۳) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ه

” تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ
دوستی کریں، اُن سے، جنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول سے مخالفت
کی۔ اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ
ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف
کی روح سے اُن کی مدد کی۔ اور انہیں باغوں میں لے جائیگا۔ جن
کے نیچے نہریں بہیں۔ ان میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ اُن سے راضی اور
وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنا ہے اللہ ہی کی
جماعت کامیاب ہے۔“

اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے
مسلمان اُس سے دوستی نہ کرے گا۔ صاف بتا دیا کہ دین حق پر ایمان اور اعدائے
دین کی محبت، دو بالکل متضاد، ایک دوسرے کی ضد، چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ
اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں۔ یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان سے محبت
اور دشمنانِ خدا و رسول سے اُنسیت و موَدت، ایک دل میں جمع ہو جائیں۔
بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں، اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن

کی محبت، اُس سے اتحاد و یگانگت، یا کم از کم اُس سے صلح جوئی و سلامت روی کی عادت، بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کا صریح مفاد یہ ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ لہذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایمان کا مدعی ہے مگر اس دعویٰ کے باوجود اُس نے ایسے لوگوں سے محبت و یگانگت، کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو خدا و رسول اور معظمانِ دینی کی بارگاہوں میں گستاخ و دریدہ دہن اور احکامِ اسلام کے درپردہ مخالف ہیں، تو اس غلط فہمی کا شکار تمہیں نہ ہونا چاہیے۔ کہ شاید وہ اپنی اس منافقانہ روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ نہیں بلکہ مومنِ کامل و مخلص کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوست بھی اپنے محبوبِ حقیقی کے دوستوں اور مخلصوں ہی کو رکھتا ہے۔ اور اُس کے باغیوں منکرین اور بدخواہوں کو اپنا بھی دشمن سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی فطری و طبعی محبتوں پر بھی خدا و رسول کی عقلی و اختیاری محبت غالب آجاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتحریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے سہیلی عزیز، سب کو بطور نمونہ گنایا۔ یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظّم، یا کیسا ہی تمہیں بالطبع، فطرتِ انسانی کے ماتحت، محبوب اور پیارا ہو، ایمان ہے تو اُس سے گستاخی و دریدہ دہنی کے صدور و ظہور کے بعد، اُس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اُس کی وقت نہیں مان سکتے۔ اُسے ذلیل کار نہیں بنا سکتے۔ ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ اسی کے گروہ میں گنے جاؤ گے۔

صلحِ کلیت کے داعی، کہ "بامسلمان اللہ اللہ" بابرہ من رام رام" کا گیت گاتے، اسلام کو کفر، اور کفر کو ایمان بتاتے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے، اصولِ اسلام میں نئی تراش حراش کو عین اسلام بتاتے، مشرکوں، یہودیوں اور نصرانیوں کی عظمتیں بڑھاتے، اور کھلے دشمنانِ اسلام سے وادوا و اتحاد مناتے، اور احکامِ الہیہ کو کھینچ تان کر، اپنی خواہش و مرضی کا تابع بناتے ہیں وہ خود غور کر لیں کہ فی الواقع وہ کیا ہیں۔ مومن ہیں یا ملحد۔ مخلص ہیں یا منافق؟

حضرات صحابہ کرام، جان نثاران سید الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اسوۂ حسنہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے فی الواقع، ان تمام
رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ ورسول کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔

صرف اتنا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں انہوں
نے اپنے قبیلے، اپنے اعزہ و اقارب اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، بلکہ وہ خدا ورسول
اور اُس کے سچے دین کی خاطر اپنے عزیز اور قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے۔ اور
بدر و احد کے میدانوں میں اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو بھی بلا تامل خاک و خون
میں ملا دیا جو ان کے مد مقابل آئے۔ اور خود کو ان کے مقابلے میں لائے۔

چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل
کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو
مبارزت کے لیے طلب کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ
کی اجازت نہ دی۔

مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبد اللہ بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو روز بدر تہ تیغ کیا۔
اور حضرت علی بن طالب و حمزہ و ابو عبیدہ نے ربعیہ کے بیٹوں، عتبہ اور شیبہ کو بدر
میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دکھا دیا کہ
مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور خدا ورسول کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔
ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے (جو اب تک اسلام نہ لائے
تھے) شان رسالت میں کچھ گستاخی کی تو آپ نے اس زور سے انہیں دھکا دیا کہ
وہ مونہ کے بل زمین پر آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو ابو بکر صدیق
نے جواب دیا کہ میرے آقا! اگر اُس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اُسے قتل
کر دیتا۔ بعد میں حضرت ابو قحافہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ سچ ہے خدا ورسول
پر ایمان والوں کو قرابت درشتہ دار ہی کا کیا پاس۔ اور ملحدوں کی کیا مروت

کیسا لحاظ۔

صلح جوئی، مصلحت کوشی اور زمانہ سازی کے پردہ میں، منافقوں سے صلح و
آشتی کی باتیں، ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی عزت افزائی کی گھاتیں کسی طرح بھی خدا
و رسول کی بارگاہوں میں قابلِ قدر کوئی مقام، کوئی منزلت نہیں پاسکتیں۔ سبیل المؤمنین
سے ہٹ کر، جبل اللہ المتین سے کٹ کر، بے دینی، بد مذہبی کی نئی راہیں تراشنے اور
مسلمانوں میں افراق و انتشار پھیلانے والے، کیا ان منافقوں سے الگ کسی بستی میں
بستے ہیں، جن کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا

مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ۔ یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے۔

یعنی یہ نہ ادھر کے ہیں کہ انہیں مومن و مخلص کہا جائے۔ نہ ادھر کے ہیں کہ انہیں یک
لخت، بلا تامل و بے تردد، ٹھیک کافر و مشرک سمجھا جائے۔ بلکہ منافق ہیں۔ مذہب
ہیں۔ تردد و تذبذب کا شکار ہیں، خواہشاتِ نفس میں گرفتار ہیں۔ نہ تو یہ امت
اسلامی ہی کا جز ہیں اور نہ ان کا شمار کھلے ہوئے باغیوں اور منکروں میں۔

آیت مذکورہ بالا پر پھر غور فرمائیے۔ جو کچھ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اُس کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا۔ مگر دیکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا،
اور اپنی عظیم نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم
نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا۔ جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ
حسنِ خاتمہ کی بشارتِ جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی وہ سکینت یا نورانیت
عطا فرمائے گا جو حیاتِ معنوی کو قائم رکھتی اور ترقی دیتی رہتی ہے۔

۳۔ تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائیگا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور جہاں
انہیں وہ ساری کی ساری مادی لذتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا تصور
شہنشاہِ ہفت کشور بھی نہیں کر سکتا۔

۴۔ تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے اور خدا والے ہو جاؤ گے۔ ایک منقہ خدا ترس مسلمان کے کمال شرف و امتیاز کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ حق تعالیٰ نے اُس کا انتساب خاص اپنی ذات والا صفات کے ساتھ کر کے اُسے یاد فرمایا ہے۔

۵۔ موتھ مانگی مرادیں پاؤ گے۔ بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ کہ مستقل اور پائیدار جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب فلاح میں شامل ہیں۔ اور ان سب کا وعدہ اُسی گروہ مومنین سے ہے جو اعدائے دین سے تنکا توڑا لگ رہے۔ ان کے ساتھ اس کا کوئی علاقہ، کوئی رابطہ، کوئی محبت کا رشتہ نہ رکھا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔

۶۔ یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی۔ تم مجھ سے راضی۔ اس گروہ کی خاص شناخت یہ بتائی کہ اللہ ان کی طاعت سے خوش رہے گا۔ اور یہ اُس طاعت کے انعام سے جی بھر کر خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اُس کا رب اُس سے راضی ہو۔ مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایسے خوش نصیب بندوں کی خوش نصیبی پر کسے شک نہ آئے گا۔

مسلمانو! خدا لگتی کہنا۔ اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر شمار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں۔ پھر زید و عمرو کسی بد دین بد مذہب، دشمن خدا و رسول، عدو دین متین، سے علاقہ تعظیم و محبت، یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور اُس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔

معرض ہمارم

ہر ذی ہوش مسلمان کو جانتا اور مانتا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے محاورہ میں مسلمان و مومن خاص اہلسنت و جماعت ہی کو کہا اور بتایا گیا ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد سے حضرات خلفائے ثلاثہ یعنی امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق و امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم و امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے تک اسلام کی کامل ترقی، دنیا کی وسیع آبادی میں اپنی برکتیں پھیلایا کی۔

اس وقت تک تنزیل قرآن اور حقانیت اسلام پر قتال ہوتا۔ معاملہ اسلام و کفر اور حق و باطل کا انحصار ہوتا۔ مومنین اہل حق تھے اور کفار اہل باطل۔ جب مومنین کہتے اہل حق ہی اس کے صدق ہوتے۔ اسی محاورہ پر قرآن اترتا۔ حدیثیں آئیں۔ تو جس قدر آیات مبارکہ و احادیث کریمہ میں مومنین و مسلمین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ بھائی بھائی رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سب کا یہی مفاد ہے کہ تمام اہل حق آپس میں متفق و متحد رہیں۔ کوئی باطل راہ اختیار نہ کریں۔

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ زمانہ نزول قرآن عظیم و ارشاد احادیث کریمہ میں صرف اہل حق، اہل سنت، اہل جماعت ہی تھے۔ اس زمانہ برکت نشان میں، کسی بد مذہب مبتدع کا ہونا محال تھا۔ کہ بد مذہبی شہر و تاویل سے پیدا ہوتی ہے، جسے یقین قطعی سے بدلتے والے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں جلوہ فرما تھے۔ اگر شبہ گزرتا، تو حضور کشف فرماتے۔ شبہ والا مانتا تو کسٹی ہوتا، نہ مانتا تو کافر ہو جاتا۔ یہ بیچ کی شق وہاں ممکن ہی نہ تھی۔ ولہذا آیت کریمہ و یَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے، جب علمائے حجیت اجماع پر استدلال کیا کہ اس آیت کی روح سے اجماع مسلمین دلیل قطعی و حجت شرعی ہے تو تصریح فرمادی کہ مبتدعین کا اتفاق، اجماع میں ملحوظ نہیں (نہ اس کا لحاظ نہ اعتبار) کہ مومنین سے

مراد، اُمتِ اجابت ہیں جنہوں نے حضور کی حقانیت کو جانا اور دل سے مانا،
 مبتدعین امتِ اجابت نہیں۔ امتِ دعوت ہیں یہود و نصاریٰ، کفار و مشرکین
 کی مانند، دیکھو تو صحیح تلویح بحث اجماع وغیرہ۔ یہ فائدہ نفسیہ یاد رکھنے کا ہے کہ انما المؤمنون
 اخوة وغیرہ آیات و احادیث ہیں، مؤمنین سے اہلسنت ہی مراد ہیں۔ انہیں کہے باہم
 اتحاد کا حکم ہے۔ تمام گمراہوں بد مذہبوں سے اتحاد و مواد کی تعلیم، سب بے دینوں کی
 تکریم و تعظیم پر، ان نصوص کو پیش کرنا محض بد مذہبی و ضلالت ہے۔ والعباد باللہ تعالیٰ۔
 (افاداتِ رضا)

غرض اُس وقت تک کان، اس ناگوار صدا سے آشنا ہی نہ تھے کہ مدعیانِ
 ایمان بھی اہل حق و اہل باطل کی طرف منقسم ہیں اور دعویٰ دارانِ اسلام میں بھی کوئی
 جماعت یا گروہ یا فرد، بد مذہب بد دین ہو سکتا ہے۔ رہے منافقین تو ان کے
 بارے میں قرآن کریم پہلے ہی فیصلہ دے چکا تھا کہ "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - وہ
 مسلمان ہی نہیں ہیں۔"

مگر امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبغی کی نسبت ارشاد ہو چکا
 تھا کہ تم جس طرح تنزیلِ قرآن (اور حقانیتِ اسلام) پر قتال کرو گے، یوہیں تاویلِ
 قرآن پر، ایمان بالقرآن کے دعویٰ داروں کو قتل و پامال کرو گے۔ احادیث میں ان متفرق
 فرقوں کے نام بھی سنا دیئے تھے اور پتے بھی بتا دیئے تھے۔ چنانچہ حسبِ وعدہ
 صادقہ وہ دن سامنے آیا اور آخر زمانہ خاتم الخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظہورِ بد مذہبوں
 نے رونق دکھایا۔ خارجی نکلے۔ رافضی نکلے۔ یہ سب کلمہ خواں تھے۔ مدعی ایمان تھے، ہمارے
 کلمے کا دم بھرتے، ہمارے قبیلے کو سجدہ کرتے تھے۔ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم
 ان میں سے بہنوں کو کافر بھی نہ جانتے۔ گمراہ بد دین و خاسر مانتے۔ مگر بایں ہمہ نہ
 انھیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کا مصداق جانا۔ نہ کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کا
 محل مانا۔ بلکہ آپ نے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے قتل و قتال
 پر اجماع فرمایا۔ اور اپنے دست و زبان اور شمشیر و سنان سے ان کا فتنہ مٹایا۔

ان کا زور گھٹایا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام فرمادیتے تھے۔ سب راستے بتا دیتے تھے۔ اسی پر ائمہ دین و اولیائے معتمدین و علماء مجتہدین، حسبِ مقدرت کا مزن رہے۔ اور یہی علمائے اہلسنت کا داب و طریقہ اب ہے۔

صحابہ کرام اور مسلمانان اہلسنت

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ماہین جو واقعات ہوئے جنہیں ادباً مشاہرت صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں پڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور پھر اپنی عقل ناقص کی کھوٹی پونجی کے بل بوتے، محاکمہ کرنا کہ کون حق پر تھا، کون ناحق، یہ حرام حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم، عالمِ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور سچے غلام ہیں۔ اور قرآن کریم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جہنم کی بھنک نہ سینس گے۔ ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑھی گھر اہٹ انھیں نکلین نہ کرے گی۔ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، کتبِ احادیث ان مضامین سے بالامال ہیں۔ اور انہیں مضامین کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سو، عقیدت اور معمولی بے ادبی و اہانت کی جرات بند نہی و گمراہی اور استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرا ہے اور اس کا قائل رافضی۔ انہیں صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول بلوکِ اسلام ہیں۔ اسی کی طرف توراہ مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکتہ و مهاجرہ طیبہ و مکتہ بالشام۔

کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا۔ مدینہ کو ہجرت فرمائیں گا۔ اور اس کی سلطنت راور دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ، شوکتِ اسلام کی حامل بادشاہت (شام میں ہوگی، تو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی، اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرجِ جرّار، جان نثار کے ساتھ، عین میدانِ کارزار میں، علی الاعلان، بالاختیار، ہتھیار کھدکھداتے خلافتِ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔

یہ صلح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صلح تھی۔ اس کی بشارت دی تھی۔ اور حضرت امام حسن کی نسبت فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل اس کے باعث، دو بڑے گروہِ اسلام میں صلح کرادے۔ تو حضرت امیر معاویہ پر معاذ اللہ، فسق و غیرہ کا طعن کرنے والا، حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبیٰ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت باری عزوجل پر طعن کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ اور مجتہد سے صوابِ خطا، دونوں صادر ہوتے ہیں۔ پھر خطا دو قسم ہے۔ ایک خطا، عناد ہی جس کی بنیاد ہی عناد پر رکھی جائے اور مقصود اس سے محض نزاع و فساد ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مجتہد کی شان نہیں۔ دوسری خطا، اجتہاد ہی۔ یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ مگر احکامِ دنیا میں وہ دو قسم پر ہے۔ خطا مقررہ کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا۔ یہ وہ خطا، اجتہاد ہی ہے، جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ جیسے ہمارے نزدیک، مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، دوسری خطا، منکر۔ یہ وہ خطا، اجتہاد ہی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائیگا کہ اس کی خطا، باعثِ فتنہ ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبغی سے خلاف، اسی قسم کی خطا کا تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ قطع جنتی، اور یقیناً آخرت میں بھی حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے۔ یوہیں حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، خطا اجتہادی واقع ہوئی۔ مگر ان سب سے بالآخر رجوع کی۔ عرف شرع میں بغاوت، مطلقاً، امام برحق کے مقابل آنے کو کہتے ہیں عماداً ہو خواہ اجتہاداً۔ ان حضرات نے چونکہ اپنے موقف سے رجوع فرمایا اس لیے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر اصطلاح شرع کے مطابق، فیہ باغیہ (باعنی گروہ) کا اطلاق آیا ہے۔ مگر اب کہ باغی کا استعمال مفید معاند اور سرکش کے معنی میں عام جانا اور اسے دشنام سمجھا جانا ہے۔ اس لیے اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ خود مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے، ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اِخْوَانُنَا، بَعُوْا عَلَيْنَا (یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے مقابل آگئے) جبکہ خارجیوں کو آپ نے دشمن خدا و رسول ٹھہرا کر، انہیں نہ تیغ فرمایا اور ان کے فتنہ کو مٹایا۔

اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ نہروان میں جو خارجی تہ تیغ ہوئے وہ یقیناً گمراہ، بددین و باغی اور کجرو، سرکش و طاعنی تھے۔ اور جمل و صفین میں جو صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوئے وہ بالیقین مومن صالح، پاک باطن پاک سیرت تھے۔ اسی لیے آیت کریمہ نَزَعْنَا فِيْ حُصُوْدِهِمْ كَيْدًا لِّئَلَّا يُصْبِحَ مَعَكُمْ شَرِكًا لِّمَنْ هُمْ كٰفِرُوْنَ۔ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ "مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ و زبیر ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیے۔" اس ارشاد اقدس نے رفض کی بیخ و بنیاد کا قلع قمع کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ :-

مذہبِ مہذبِ اہل سنت و جماعت کا پیرو یعنی سنی مسلمان وہ ہے جو سوادِ اعظمِ اہل اسلام کے موافق جملہ عقائد اور مسائلِ اجماعیہ کا قائل اور اس کے مخالف کے بطلان کا معتقد و عامل ہو۔ جمہورِ مسلمین کے خلاف، ہر مکتبِ فکر کو باطل جانے، باطل مانے۔ تو جو کسی ایک بھی عقیدہ و مسئلہ اجماعیہ میں سوادِ اعظمِ اہلسنت کا مخالف و منکر ہے، وہ خارج از اہلسنت ہے اگرچہ اپنے سنی ہونے اور بظاہر مخالفِ مذہبِ اہلسنت سے برأت کا اقرار کرے۔ اُس کے اس جھوٹے قرارِ برأت سے بد مذہبی کا داغ، اُس کے ماتھے سے نہیں مٹ سکتا۔ جب تک وہ صراحتاً انہیں گمراہ و مخالفِ اہلسنت نہ جانے۔ مذہبِ اہلسنت تو وہ جو ہر لطیف و نطیف ہے کہ ہرگز کسی خلطِ فاسد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جیسے گلاب کی ایک بوتل، ایک قطرہ پینا ب شراب کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

کفر و اسلام، راست روی و گمراہی کے جو احکام از روئے آیات و احادیث و اجماعِ امت ثابت ہیں، اور جن کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام و اہل بیتِ عظام و ائمہ دین و سلفِ صالحین نے، بہت کلمہ گو یاں اسلام کو، ہمارے قبلہ کی جانب نماز پڑھنے کے باوجود، گمراہ و مرتد ٹھہرایا، یا انہیں گمراہ و بد مذہب بتایا۔ اور پھر ان کے فہمِ فاسد و اعتقادِ کاسد کا تحریراً و تقریباً رد و ابطال فرمایا اور مبتدعین ضالین کی بغض و اہانت کا حکم شرعی سنایا، وہ نہ زمانے کے بدلنے سے بدل گئے۔ اور نہ کسی گمراہ جماعت و گمراہ کی من گھڑت مصلحتوں سے قابلِ منسوخی ہو گئے۔ یہ احکام شرعیاتِ اسلامیہ کے احکام ہیں کسی مغربی طرز کی پارلیامنٹ کا مسودہ نہیں کہ آج پاس کر ایٹھے اور کل ردی کے ٹوکے کی نذر کر دیجئے۔ آج سر چڑھائیے کل پامال کر دیجئے۔ آج ان پر ایمان لائیے اور کل ان کا انکار کر بیٹھیے۔

بہذا مصلحت کوشی کا نام لے کر، صلح جوئی کا نام بدنام کرنے والوں کے یہ
 دعوے یقیناً مردود اور قطعاً ناقابلِ قبول ہیں کہ سب کلمہ گویانِ اسلام حتیٰ پر ہیں
 سب سے خدا راضی ہے۔ سب راہِ راست پر ہیں۔ ان میں سے کسی بھی کلمہ گو کو،
 گمراہ و بدعتی کہنا، اور ان کی اہانت کرنا۔ ان سے بغض رکھنا خلافِ اسلام ہے۔
 وغیرہ خرافات۔

حضرت مولانا الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر عزیزی
 میں مرقوم یہ عبارت پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ مردِ صحیح الایمان را باید کہ باید عتیاں انس
 نہ گیرد۔ وہم مجلس وہم کاسہ وہم نوالہ نشود۔ دہر کہ باید عتیاں دوستی پیدا کند،
 نور ایمان و خلوت آل از وہم گیرند۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مذہبِ اہلسنت سے الگ ہے۔ خدا و رسولؐ اس
 سے الگ ہیں اور شب و روز اس پر پھٹکار بستی ہے اور برسیگی جب تک
 وہ اپنے آپ کو مطابق اہلسنت اور بد مذہبی و گمراہی کی ناپاکی سے پاک صاف نہ کرے
 اور جب تک وہ اس ناپاکی سے ملوث ہے، خدا و رسولؐ کے سچے پرستار و جان نثار
 ان کی صحبت وہم نشینی یا ان کی معاذ اللہ چالپوسی و کاسہ لیبی سے کیوں اپنا دامن
 اسلام آلودہ کریں۔ اور کیوں "بے جیاباش و ہرچہ خواہی کن" کا مصداق بنیں۔
 اور کیوں اپنی اسلامی غیرت اور ایمانی شرم کے منافی، ان گمراہوں کی باتوں پر
 کان دھریں۔ ایسے خیر خواہانِ اسلام کو، بس دُور ہی سے سلام مَجْلا کہ وہ نصوص
 صریحہ کا مخالف ہے۔

ذیاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی

سلام، اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے

ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ

زمانہ رسالت میں منافقین دربارِ دُرِّ بارِ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم میں موجود رہتے۔ غزوات میں شریک ہوتے۔ غزایوں کی صفوں میں شامل رہ کر ان کے ساتھ جہاد کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں، قبلہ اول و جانِ کعبہ دین و ایمان کے پیچھے، جانبِ قبلہ نمازیں پڑھتے، اور مسلمانوں کی مجالس میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے اور گھلے ملے رہتے تھے، تو آج ان امور سے ممالفت اور وہ بھی بہ شدت تمام، کیونکہ حکمِ شرعی اور فرمانِ الہی بن گیا۔ جبکہ اس پر عملدرآمد کے باعث، مسلمانوں میں افتراق و انتشار میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آئے دن فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کا منافق ہونا معلوم نہ تھا اور کیا وہ اس حقیقت سے واقف نہ تھے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور یہ اہل اسلام کے درپردہ دشمن اور مسلمانوں کے بدخواہ اور زمانہ سازی میں گرفتار ہیں وغیرہ وغیرہ

اقول جواب اس مغالطہ کا یہ ہے کہ ہاں صدر اسلام میں ایسا تھا اور ضرور تھا۔ مگر اللہ عزوجل نے صاف ارشاد فرمادیا اور مسلمانوں کو جہاد دیا کہ :-

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ

يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ -

اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو۔ جب تک

جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔

یعنی اے کلمہ گو یاں اسلام یہ جو اس وقت مومنین و منافقین، ایک ہی جلی قوم اور

اہل ایمان و اہل نفاق، سب خلط ملط، ایک جماعت کی مانند نظر آ رہے ہیں، یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ مومن و منافق ایک دوسرے سے ممتاز و متمیز ہو کر رہیں گے۔ خبیثوں اور منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، طیبوں اور مخلص مسلمانوں سے نمایاں طور پر جدا فرما دے گا۔ یہ گھال میل جو مخلص مسلمانوں اور منافقوں میں پایا جاتا ہے کہ منافق، حقانیت اسلام کا اقرار کرتے، مسلمانوں کی مجلسوں اور غائبوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور مسلمان ان سے اپنے مجاہدوں کا سا سلوک کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ مناظر بہت جلد آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے اور دو دو کا درجہ پانی کا پانی کر دیا جائیگا۔

چنانچہ ابتلاء و آزمائش سے اسلام کو کامیاب اور باطل کو سترگوں کرنے سے، اور پھر بذریعہ وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے، ان منافقوں کو دولت و رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑا اور پھر حضرت خاتم رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بامر انبوی ایک ایک خبیث کا نام لے کر ارشاد فرمایا: اُخْرِجْ يَا دُونَ فَانَكَ مُنَافِقٌ رے فلاں نکل مسجد سے کہ تو منافق ہے اور صحابہ کرام اس حکم محکم کو سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور جمعہ کے روز، علی روئس الاشہاد، بھری مسجد سے ایک ایک منافق کو دھکے دیکر، بہ نہایت رسوائی و خواری مسجد سے نکال دیا۔

یہ حدیث طبرانی و ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، مخالفین دین کے ساتھ یہ برتاؤ، ان کا ہے جنہیں رب العزت عز وجلالہ رحمۃ اللعالمین فرماتا ہے۔ حَتَّىٰ رَحِمْتَ الرَّحْمَةَ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

کون نہیں چانتا کہ ایک وقت میں شراب نوشی، جہاں تک نشہ نہ لائے جائے کھن۔ بعد کو مطلقاً حرام کر دی گئی۔ اور اس کا ایک ایک قطرہ نجس و حرام فرما دیا گیا۔ یا قبلہ سب سے مقدس تھا بعد کو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آگیا۔ اب اگر یہ

اصلاح کالی و اعظیمن، شراب نوشی کے جواز کا فتویٰ دیں، یا کبھی سے پھر کہ پھر سیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کو حکم شرعی اور مصلحت شرعی ٹھہرائیں اور دلیل میں معمول سابق کو لائیں، تو کیا ان کی بات سنی جائے گی۔ اور کیا وہ الزام شرعی سے برہی ہو سکتے ہیں نا واقف سے ناواقف مسلمان بھی یہی کہے گا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔

بس یہی حال ان صلحکلی و اعظوں اور مغالطہ میں گرفتار، دوسروں کو مغالطہ دینے والوں کی اس دلیل کا ہے کہ "ایک وقت میں منافقوں کو مسجد نبوی میں حاضر رہنے صحابہ کرام کی مجلسوں میں آنے اور بعض اوقات ان کے مشوروں میں شرکت کی اجازت تھی۔ انہیں یہ بھی اجازت تھی کہ لشکر ظفر پیکر کے ساتھ ساتھ چلیں۔ غازیوں کے دوش بدوش صفت بندی کریں اور جہاد میں شریک رہیں۔ گو جہاد کا ثواب نہ پائیں۔ بلکہ منافقین کے جنازے کی نماز بھی خود رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم پڑھاتے تھے۔ لیکن یہ حالت ایک خاص زمانہ تک محدود رہ کر منسوخ ہو گئی۔ جہاد میں بھی ساتھ چلنے کی ممانعت کر دی گئی اور اعلان فرما دیا گیا کہ

لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا

تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو۔

قتال سے بھی روک دیا گیا کہ وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ تم ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔

ان کی میت پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا گیا کہ وَلَا تَصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا۔ ان میں سے کسی کی میت پر ہرگز نماز نہ پڑھنا۔ بلکہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی ممانعت فرمادی گئی کہ وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ۔ نہ اس کی قبر پر سترے ہونا۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّكُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَمَا سُوِّیْہِ وَمَا تَوَاوَاہُمْ فَاسْتَقُوْنَ۔ بے شک یہ منافقین اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق و نفاق ہی میں سرگئے۔ یہ گویا ممانعت نماز وغیرہ کی علت بیان فرمادی گئی کہ جب وہ ایمان سے خالی ہیں تو ان میں وہ اہلیت ہی نہیں کہ جہاد میں شریک ہوں۔ غازیوں کی ہم کابی میں رہیں۔ یا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کہ جب وہ ایسے مبغوض ایسے مردوں ہیں تو ان پر یہ نہیں

کیسی۔ اور جو ان عظیم نعمتوں ابدی دولتوں کے مستحق ہیں ان کے ساتھ ان کا خلط ملط کیا
 معنی؛ گویا اب مسلمانوں کو عمل اس بات پر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں منافقوں
 کو کسی طرح نہ پینے دیا جائے۔ اور کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے اس مزاج کے
 لوگوں کی ہمت افزائی ہو۔

اس منسوخ شدہ امر کو سند بنا کر پیش کرنا، اور قرآن عظیم و حدیث کریم کی نصوص
 صریحہ سے اعراض کرنا، صلح کلی و اعظوم کا دستور العمل ہو تو ہو، کوئی ذمی ہوش صاحب
 ایمان مسلمان، کسی دنیاوی لالچ اور نفسانی طمع میں گرفتار ہو کر شریعتِ عزائمِ مضطویہ
 کو ہرگز پیٹھ نہیں دے سکتا۔

پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جب منافقین کا اتفاق کھل گیا اور عام مسلمانوں پر ان کا
 منافق ہونا ظاہر ہو گیا تو منافق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر
 آیہ کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا۔ چاہے
 آپ استغفار میں مبالغہ کریں۔ اس لیے کہ مغفرت کی بنیاد یعنی ایمان ہی سرے سے
 مفقود ہے۔ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ ان آیات کریمہ سے صاف طور پر ثابت ہوا
 کہ جس شخص سے مکرو خداع دین میں ناحق جدل و نزاع ثابت ہو، اُس سے انقطاع
 و علیحدگی اختیار کرنا چاہیے۔ محض مدعی اسلام ہونے سے مصاحبت و موافقت جائز
 نہیں ہوتی۔

اب بھی جو کہے کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو۔ اور اس سے اتفاق و اتحاد کرو، وہ اس
 حکمِ قرآنی کے خلاف کہتا ہے۔ تو اس کا کیا اعتبار۔ اور اُس کی بات کب قابلِ اعتماد

احادیث سے غلط استدلال

فرقہ مرتدین و منکرین زکوٰۃ سے لے کر، فرقہ نچریہ تک، مُبتدعین کے گمراہ فرقے اس بلا میں گرفتار ہیں کہ وہ ضروریات دین کا اقرار، اسلام میں ضروری نہیں جانتے اور ضروریات مذہبِ اہلسنت و جماعت کے انکار کو، کوئی جرم شرعی نہیں گردانتے۔ اسی لیے شیعہ و سنی، وہابی و بدعتی، غیر مقلد و مقلد ہونے کی بنیاد پر پڑے جانے والے اختلافات کو، صحابہ کرام کا سا، نزاع و خلاف ٹھہراتے اور ہمیشہ زبانِ حال و قال سے یہ رٹ لگاتے ہیں کہ تمام فرقے کہ کلمہ گو ہیں ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے موت و محبت فرض ہے۔ سب کو اہل حق میں جاننا ضروری و لازم ہے۔ سب اہل قبلہ ہیں۔

اور اپنے ان مہمل اقوال کی تائید میں پیش کرتے ہیں یہ حدیث کریم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَكَلَّ ذَبِحْتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ
الَّذِي لَنَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔

یعنی جو ہماری سی نماز پڑھے، اور ہمارے قبلہ کی طرف موخہ کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔ جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد ہے۔

اور یہ کہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوات والتحيات کہ :-
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ داخل جنت ہوا۔
مسلمانو! خدا ملکتی کہنا اگر اس حدیث کریم کا وہی مفہوم ہے جو ان لیڈروں اور

صلحکلی واعظوں نے سمجھا اور جانا، تو کیا جو شخص پانچ وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا، اور ایک وقت کسی جہاد کو سجدہ کر لیتا ہو، کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؛ مہرگز نہیں۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب گھڑنا، صراحتہً قرآن کریم کے مقابل سرکشی۔ اور اسلام کی بیخ کنی ہے۔

عوام المسلمین کی فریب دہی کے لیے، خارجیوں، رافضیوں، ناصبیوں، وہابیوں اور نجدیوں کو، زبردستی اپنی مونہ زوری سے مسلمانان اہل سنت و جماعت کا بھائی ٹھہرانے کے لیے، احادیث مجملہ کو پیش کرنے والے، خوب یقین کر لیں کہ ان کی اس تدبیر پر تڑپنے سے، تحقیقات ائمہ اہلسنت کی مخالفت کا داغ ان کی پیشانی سے کسی طرح مٹ نہیں سکتا اور وہ اپنی فریب کاری میں کامیاب کسی طرح ہو نہیں سکتے ہیں۔

شرح فقہ اکبر میں ہے ولا یخفی ان المراد بقول علماء نالایحونر تکفیر اهل القبلة بذنب لیس مجرد التوجہ الی القبلة الخ یعنی یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کا یہ ارشاد کہ "اہل قبلہ کو کسی گناہ پر کافر کہنا جائز نہیں" اس سے صرف قبلہ کو مونہ کرنا، مراد نہیں کہ عالی رافضی جو جکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو وحی میں دھوکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ کی طرف بھیجا تھا۔ اور بعض تو مولیٰ علی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں۔ اور اس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو مونہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے۔"

ائمہ مجتہدین پر افتراء پر دازی اور بہتان سازی کو ایک آسان امر سمجھ لینا، ایسا نہیں جس کی پاداش بہت کچھ نہ بھگتنی پڑے۔ ائمہ مجتہدین و مقتدایان دین متین نے مہرگز یہ نہیں فرمایا کہ اسلام و ایمان کا مدار فقط کلمہ گوئی پر ہے۔ یا صرف قبلہ روئی کا نام ایمان ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے وہ کسی عقیدہ فاسدہ سے گمراہ یا کافر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ضروریات مذہب اہلسنت یا ضروریات دین سے کسی

ضروری امر کا انکار کرے۔ کسی صورت اُس کا ایمان نہیں ٹٹتا۔ ۵

چوں و صنوئے محکم بی بی تمیز
خلاصہ مرام یہ ہے کہ دربار رسالت میں جو کوئی شخص بھی کلمہ شہادت پڑھ کر،
وہدایتِ الہی اور رسالتِ عالمِ پناہی کا اقرار کر کے، کعبہ کی طرف نماز پڑھتا، اس
پر تمام ضروریاتِ دین کا اقرار و اعتقاد بھی لازمی و ضروری تھا۔ بلکہ جو کوئی بھی آنحضرت
خاتم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر اپنا ہاتھ رکھ کر، فقط لا الہ
الا اللہ کہتا تھا، اس کی بھی یہی مراد ہوتی تھی کہ میں تمام دینی ضروریات پر ایمان لانا
ہوں پس مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ و دیگر احادیث کا مطلب جمع
احکامِ اسلامیہ کی تصدیق اور ان کا قبول کرنا ہے۔ اس کے سوا اُس وقت دوسرا
احتمال پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہ تھی۔

ہاں بعد تشریح لے جانے کے، جو بعض کلمہ گو بیانِ اسلام اور قبلہ کی جانب نماز
پڑھنے والوں نے بعض احکامِ ضروریہ اسلام کا انکار کیا وہ باجماع صحابہ کرام مرتد و کافر
ٹھہرائے گئے۔

مولانا الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے

پس : بالغین زکوٰۃ را کہ در عہدِ خلیفہٴ اول مرتد نامیدند، بچہت آنست کہ آنها منکر
و جوب زکوٰۃ بووند۔ و ہر کہ منکر ضروریاتِ دین بود۔ اصل دین را انکار کردہ باشد
یعنی زمانہٴ خلیفہٴ اول میں زکوٰۃ روک لینے والوں کو جو مرتدین کا درجہ دیا گیا
اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فرضیتِ زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور جو ضروریاتِ دین کا
منکر ہو، وہ در حقیقت اصل دین ہی کا منکر ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ بہت علمائے محققین کے استعمالات میں اہل قبلہ سے
خاص اہلسنت ہی مراد ہوتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب جلد دوم فتاویٰ میں
فرماتے ہیں:

"لشخصی کہ از اہل قبلہ باشد یعنی اعتقاد بعقائد اہلسنت داشته باشد اور کافر

گفتن ، و احکام کفر بروی جاری ساختن ، خلاف طریق اہل اسلام ست ۔
 بالجملہ وہ کلمہ گو جو ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے منکر ہیں ، اگرچہ وہ
 ہمارے قبلہ کی طرف منہ کریں ، نماز پڑھیں ، روزے رکھیں ، حج کریں ، راہِ خدا
 میں مال لٹائیں ۔ مگر ضروریات دین سے کسی شے کے منکر ہوں ، باجماع مسلمین
 یقیناً قطعاً کافر ہیں ۔ اگرچہ کروڑ بار کلمہ پڑھیں ، پیشانی ان کی سجدے میں ایک ورق
 ہو جائے ۔ بدن ان کا روزوں میں ایک خاکہ رہ جائے ۔ عمر میں ہزار حج کریں ۔ لاکھ مہاڑ
 سونے کے راہ خدا پر دیں ۔ لاواللہم گزہر گزہ کچھ مقبول نہیں جب تک حضور پُر نود
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ضروری باتوں میں ، جو وہ اپنے رب کے پاس سے
 لائے ۔ تصدیق نہ کریں ۔

ضروریات دین اگر مثلاً ہزار ہیں ، تو ان میں سے ایک کا انکار بھی ایسا ہی
 ہے جیسا کہ نو سو ننانوے کا ۔ صحابہ کرام سے لے کر متاخرین علمائے اعلام و مفتیان
 شرع اسلام تک ، ایسے کلمہ گو بیان اور رو قبیلہ نمازیوں کی ، ائمہ دین و محققین شرع
 شریف نے تکفیر فرمائی ہے ۔ کہ اسلام تو نام ہے جمیع احکام شارع علیہ السلام کے
 قبول کرنے کا ۔ پھر ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کا انکار ، خواہ صراحتاً
 ہو یا کما تہ ، عناداً ہو یا تاویلاً کفر ہے ۔ اور یہ منکر بالاجماع کافر و طاعنی ۔ اور یقیناً
 اسلامی برادری سے خارج و باغنی ہے ۔

فرقہ و مابعد کے وہ اکابر و اصاغر جو باوجود دعوتِ اسلام و اقرارِ ضروریات
 دین کے ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ارفع و اعلیٰ میں توہین و تذلیل
 و استخفاف و تصغیر کا استعمال تحریراً و تقریراً شائع کرتے ہیں ۔ ان پر علمائے عرب و
 عجم نے کفر و ارتداد کا حکم صادر فرمایا ہے ۔

والعیاذ باللہ تعالیٰ من شرور الفسنا ۔

ضروری اللہ اطاعت

چوں بہ سفلہ گوئی بالطف و خوشی
فزون گرد و دوش کبر و گردن کشی

صلحکلی و اعینین، عوام مسلمین کو مغالطے اور گمراہی کا شکار بنانے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے بہکانے کے لیے اپنی زبان زوری کے بل بوتے، وہ احادیث کرمیہ اور سلف صالحین کے اقوال و افعال پیش کر دیا کرتے ہیں جن میں حسن خلق اور مدارات کا ارشاد ہے۔ حالانکہ علمائے اہلسنت و جماعت کثر ہوا اللہ تعالیٰ کہ نہ حسن خلق سے انکار ہے اور نہ مدارات سے عناد۔ البتہ اس حسن خلق اور مدارات کو اپنے تفتیہ صریحہ اور ضلالت قبیحہ کی اشاعت و ترویج کا ذریعہ بنا لینا، یہ ضرور اسلام و مسلمین پر ظلم ہے۔ اس لیے ہم شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت تفسیر عزیزی (سورہ بقرہ) سے نقل کرتے ہیں تاکہ عامۃ المسلمین ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وہی ذہ :

اکثر مردم را در میان مدارات و حسن خلق و در میان مہانت فرق واضح
نشدہ۔ مدارات و حسن خلق، بامر مسلمان و کافر، در شرع محمودست۔ و مہانت
و خوشاد معیوب و مردود۔ یکے را از دیگرے امتیاز نمی کنند و در مقام حسن خلق،
ارتکاب مہانت می نمایند و نتیجہ فرق در میان این ہر دو آنست کہ مدارات و
حسن خلق عبارت از مسامحت در حق خودست۔ و بہ نفسانیت کار نہ کردن و خود را واجب
العظیم نہ دیدن و از تقصیر کے کہ در حق خود رود، در گذشتن۔

و مدامت عبارت از مسامحت، در امر دین ست۔ و با وجود دیدن و شنیدن امور نامشروعہ و اقوال نامرضیہ، تعصب نہ کردن و دین خود را سبک داشتن، و از حق واجب شرع و دین در گزشتن۔ مثلاً اگر شخصے این کس را سخت گفت۔ یا ترک تعظیم نمود، در غضب نیامدن و باوے در پئے انتقام نہ شدن، بلکہ سلوک نیک کردن از قبیل احسن خلق و مدارات ست۔ و اگر شخصے حرکتے مخالف شرع کرد۔ یا ترک تعظیم دین نمود، باوے موافقت نمودن، و اظهار ناخوشی نہ کردن، و سخن او را رد نہ کردن۔

از باب مدامت و خوشامدست۔ انتہی۔

" یعنی ایسے لوگ بکثرت ہیں جن پر حسن خلق و مدارات اور دین و مدامت کے درمیان فرق واضح نہیں ہوا ہے۔ (اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ) مدارات اور حسن خلق تو ہر مسلم و غیر مسلم کے ساتھ شریعت اسلام میں پسندیدہ ہے۔ جبکہ مدامت اور چالپوسی، معیوب و مردود (اور سخت ناپسندیدہ) ہے۔ لوگ ایک کو دوسرے سے ممتاز نہیں کرتے اور جہاں حسن خلق درکار ہے وہاں مدامت و خوشامد کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ خلاصہ ان دونوں کے درمیان فرق کا یہ ہے کہ مدارات و رواداری کا تعلق خود اپنے نفس سے ہے کہ اپنے حق میں سہل انگاری برتیں۔ نفسانیت کو بنیاد بنا کر کوئی کام نہ کریں اور اپنے آپ کو واجب التعظیم نہ سمجھیں۔ اپنے حق میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اُس سے درگزر کریں۔ اور مدامت کے معنی یہ ہیں کہ دینی معاملہ میں چشم پوشی کریں۔ جو باتیں شرعاً ناجائز و ناپسند ہیں ان کو دیکھتے سنتے ہوئے بھی تعصب اور دینی تصلب کو کام میں نہ لائیں۔ اپنے دین کو بے وقعت اور ہلکا مٹھرائیں اور دین و شریعت کا جو حق لازم ہے اُس سے وامن بچائیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص (اپنا ہو یا بیگانہ) خود اسے سخت و سست کہے (جس سے اس کی سبکی ہو) یا اس کی تعظیم نہ کرے۔ (جس سے اسکی بے وقعتی سمجھی جائے) تو یہ اُس وقت غصہ میں نہ آئے اور اُس سے انتقام کے درپے نہ ہو۔ بلکہ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ عادت حسن خلق و مدارات

کی اقسام سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شریعتِ مطہرہ کے خلاف کوئی حرکت کرے یا دین کی عظمت و برتری کے خلاف کسی امر کا ترکیب ہو، تو اُس کے ساتھ موافقت و صلح جوئی کو کام میں لانا، کسی ناخوشی کا اظہار نہ کرنا اور اس کی ایسی بات کی تردید نہ کرنا، یہ ملامت کی صورتیں ہیں۔ (اور شرعاً نہایت ناپسندیدہ و قابلِ نفرت ہیں) اور اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام فرق کلمہ گو بیان کو بہ حق اور راہِ راست پر بتانا، کسی فرقہ کلمہ گو کو، اُس کے کسی باطل عقیدہ کی رو سے، کافر یا گمراہ یا بد مذہب کہنے کو ناجائز بتانا، مبتدعین (یعنی بد مذہبوں گمراہوں) کے اعزاز و تعظیم کو لازم ٹھہرانا، مبتدعین کی اہانت، اُن کی تحقیر، اُن سے بغض و عداوت رکھنے کو مخالفِ اسلام قرار دینا، سلف و خلفِ اہلسنت کی تحقیقات کے خلاف ہے۔ اہلسنت کے نزدیک جو کلمہ گو بیانِ اسلام کے مدعیان، بعض ضروریاتِ دین کے منکر ہیں وہ کافر و مرتد ہیں۔ اور جو لوگ مسائلِ اجماعیہ اہلسنت کے منکر ہیں۔ وہ بھی بعض اہلسنت کے نزدیک کافر ہیں۔ اور بعض کے نزدیک کافر نہیں، مگر مبتدع اور گمراہ، مصداقِ کلابِ اہل نار (دوزخیوں کے کتے) ضرور ہیں۔ اُن سے محبت و داد، اور بیگانگی و اتحاد منانا، اُن کی تعظیم و توقیر کے گیت گانا، اُن کا ہم نشین و ہم نفس، ہم کاسہ و ہم نوالہ بن کر، دنیاوی ترقیوں کے لیے بساطِ جہانا، تو درکنار، اُن سے بغض رکھنا، اُن کا رد و طرد اور اُن کی اہانت کرنا حکمِ شرعی ہے۔ اور یہ امور شریعتِ اسلامیہ کے وہ مسائل ہیں جن کا بیان آیات و احادیث میں مذکور ہے اور صحابہ کرام و دیگر سلف و خلفِ علماء عظام کے اقوال و افعال سے روز روشن کی طرح ہویدا ہے۔ جس کا اسی سالہ میں نہایت اختصار سے بیان مذکور ہوا۔

ہم حضرت محمد و آلِ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوباتِ شریفہ سے صرف ایک عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

"اسلام و کفر ضد یک دیگر اند۔ عزت و ادنیٰ کے را، مستلزم خواری آں دیگر است۔

حق سبحانہ حبیبِ خود را می فرمایا و اغلاظ علیہم چون پیغمبر خود را کہ موصوفِ بخلقِ عظیم است،

ملانا بھی، اُن کے اعزاز میں داخل ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ انہیں کتوں کی مانند دُور رکھا جائے۔ اور اگر دنیاوی ضرورتوں میں کوئی ضرورت انہیں سے متعلق آڑے۔ کہ ان کی توجہ و التفات کے بغیر، وہ مشکل حل نہ ہو سکے، تب بھی حکم شرعی یہ ہے کہ انہیں ناقابل اعتبار، وغیر معتمد سمجھتے ہوئے، "وقت ضرورت بقدر اُن سے رابطہ قائم کر لے۔ مگر کمالِ اسلام یہ ہے کہ دنیاوی امور بھی اُن سے وابستہ نہ رکھے اور حتی الامکان اُن سے لا تعلق رہے۔ زیاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفر کرنے والوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن فرمایا ہے۔ تو خدا و رسول کے ان دشمنوں کے ساتھ میل جوڑ اور خلا ملا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ اور کم از کم نقصان، ان کی صحبتوں میں رہنے اور اُن سے خلط ملط رکھنے کا یہ ہے۔ کہ شریعتِ مطہرہ کے احکام کو جاری رکھنے اور کفر کی رسموں کو زائل کرنے کی قوت و قدرت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ان کی ہم نشینی کی شرم اس سے مانع آتی ہے۔ اور یہ نقصان، ایک عظیم دینی نقصان ہے۔ غرض خدا و رسول جیل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ الفت دوستی، خود خدا و رسول خدا (محبوبانِ خدا) کی عداوت و دشمنی تک پہنچ جاتی ہے۔ آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے۔ مسلمان ہے۔ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے (تو اس سے دوستی و محبت کی ممانعت کیوں) لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس قسم کی بیہودہ حرکتیں اُس کے اسلام کو برباد کر دیتی ہیں۔" والعیاذ باللہ تعالیٰ

مسلمانوں! ہمارا تمہارا پاک سچا دین اسلام جس طرح ہم کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے عروہ و ثقی کو اپنے زبردست اور مضبوط ہاتھوں قوتوں سے پکڑے رہیں۔ جان جائے مگر یہ سلسلہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اسی طرح ہم کو یہ بھی تاکید می حکم دیتا ہے کہ اگر ہم اسلام میں رخنہ ڈالنے والوں کی قوتوں کو پامال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم اُن سے حتی الامکان دور و نفور رہیں۔ یہی راہ نجات ہے اور یہی صراطِ مستقیم۔

اہلسنت کا سفینہ، سفینہ نجات کے

اور وہ جو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ "ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔ جب یہ ڈوبے گی تو نہ غیر مقلد بچے گا، نہ مقلد۔ نہ وہابی کو امان ملے گی نہ سنی کو۔ نہ اہلِ فرض نجات پاسکیں گے نہ اہلسنت وغیرہا من الالباطیل"۔ تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اہلسنت و جماعت کو ہمارا نبی کریم، روف و رحیم، جانِ مافدا، شمسِ باد، ہمیں سب کچھ بتا چکا۔ بہت کچھ سمجھا چکا۔ آپ کے سمجھانے کا محتاج نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کو بخوبی سمجھا دیا گیا ہے اور ہم یقینی طور پر سمجھے ہوئے ہیں اور ہم نہایت وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جن کا سفینہ، سفینہ نجات ہے۔ ہم ہی وہ ہیں جن کی کشتی کے ناخدا، اصحاب و اہلبیت رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہی وہ ہیں جو ساحلِ مراد کے نیک نشان پر جا رہے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قدرت نے فلاح و نجات و دیگر بے شمار نعمتیں امانت رکھی ہیں۔ اور یہ بھی یقینیات سے ہے کہ صحابہ و اہلبیت اور محبوبانِ خدا کے بدخواہ، بدگو اور سبیل المؤمنین سے موٹھ موٹھ کر، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ الاپنے والے، سارے گمراہ، سارے بد مذہب، ایسی کشتی ہلاکت میں سوار ہیں، جس کے نلاح، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، اگر دابِ بلا و ورطہ فنا میں کشتی کو لیے جاتے ہیں۔ اور اس کا بیج منجھار میں تباہ و برباد ہونا مسلم ہے۔ اور وہ ایسی ڈوبے گی کہ ابھرنے کی امید نہیں۔ اہلسنت کے قلوب میں جو گمراہ فرقوں کے ساتھ بغض و عداوت ہے، وہ ان کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ خدا نہ کرے کہ ان کے دلوں میں مبتدعین کی محبت کا خیال، خطرہ بن کر بھی پیدا ہو۔ باقی رہا بغض فی اللہ کو کینہ و برائی بتانا، تو یہ ان گمراہوں کا قدیم سے معمول ہے بلکہ ان کا فرض منصبی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

خلاصہ المرام

اور اب یہ فقیر بے توقیر، اپنے رب کریم، پھر اُس کے رسولِ عظیم رُوفِ رحیم علیہ و
 علیٰ آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی مدد و اعانت مانگتا، چند گزارشات پر اس کتاب کو ختم
 کرتا ہے تاکہ مذہبِ اہلسنت و جماعت کی سر بلندی، اور تمام گمراہوں کے مفاسد کی
 رختہ بندی ہو اور سنی مسلمانوں کو دنیا میں فلاح، دین میں صلاح اور آخرت میں نجات
 کا دامن میسر آئے۔ فقیر کو توقع ہے کہ خیر خواہان دین و ملت، مصلحانِ اہلسنت و جماعت
 کی تحقیقات کا یہ خلاصہ، مسلمانانِ اہلسنت بکثادہ پیشانی قبول فرما کر، اس بندۂ نابکار
 کے حق میں دعائے خیر فرمائیں گے۔

۱۔ مذہبِ اہلسنت و جماعت یقیناً قطعاً حق ہے۔ اور اس کے خلاف سب مذہب

بالیقین باطل و ضلال ہیں اور موجب عذاب و غضبِ ذی الجلال ہیں۔

۲۔ حدیثِ کریم کہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں بہتر دوزخ میں
 ہیں اور ایک نجات پانے والا، اور دوسری احادیثِ کریمہ کہ تمام بد مذہبوں گمراہوں
 کے نارمی جہنمی ہونے کا بیان فرما رہی ہیں سب حق و مقبول ہیں۔

۳۔ جو فرقہ ابو بکر و عمر و عثمان یعنی کو کافر ظالم غاصب کہے، ان پر تبرا بکے۔ یا صحابہ

کریم یا اہلبیتِ عظام یا دیگر ائمہ اسلام کی توہین و اہانت کرے۔ یا کلمہ پڑھ پڑھ
 کر حسین کریمین سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین شہید کربلا کو معاذ گالیاں دے
 ان پر لعنتیں کرے، وہ یقیناً یقیناً کافر و مبتدع اور بد مذہب و گمراہ ہے۔

۴۔ عقیدہ کافسٹ، عمل کے فسق سے اشد و اجنبٹ ہے۔ صرف فسقِ عمل سے بچکر

آدمی، ہرگز ہرگز متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ کہ باطنی خباثت اس میں نہیں

ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر زربفت کا چمچہ۔

۵۔ بدنہ ہوں کی صحبت، صحبت یارِ بد ہے اور یارِ بد، مارِ بد سے بدتر۔ صحبتِ بد اور یارِ بد سے بچنا، شرعاً و عقلاً و عرفاً ضروری ہے۔ قرآن مجید و احادیث صحیحہ معتبرہ میں بڑھی صحبت سے بڑی رہنے کے تاکید ہی احکام آئے ہیں۔ ان احکام کی پوری ہی میں نجات دارین موقوف ہے۔

۶۔ احادیث صحیحہ کثیرہ ہیں الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ رَاللَّهِ كَيْفَ مَحَبَّتِ اللَّهِ كَيْفَ لِيَعْلَمَ عِدَاوَتِ اللَّهِ كَيْفَ صَرِيحِ احْكَامِ وَارِدِ فِيهِ۔ اس لیے دشمنانِ صحابہ، دشمنانِ اہلبیت، دشمنانِ ائمہ و دشمنانِ اولیاء، غرض تمام دشمنانِ محبوبانِ خدا سے، بغض رکھنا، اسلام کا رکنِ عظیم ہے۔ اور کمالِ ایمان کی دلیل۔

۷۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آدمی جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ، اُس کا حشر ہوگا۔ اور کوئی سنی مسلمان ہرگز اسے پسند نہ کرے گا کہ اُس کا حشرنا صبیوں، خارجیوں، رافضیوں، نیچروں، یا ان جیسے دوسرے گمراہوں کے ساتھ ہو۔ تو ان سے اتحاد و دواد اور محبت و یگانگت کی راہ چلنا بھی ہرگز مسلمان کو گوارا نہ ہوگا۔ نہ کہ اس سے محبت کو مدارِ ایمان جاننا۔ اُسے خدا کا بندہ مقبول و محبوب اور چین و چناں ماننا۔

۸۔ صرف کلمہ طیبہ بلا اکرہ پڑھ لینا اسلام کو وافی۔ اور قبلہ مسلمین کا ماننا، یا اُس کی طرف نماز پڑھ لینا، اہل قبلہ ہونے کو کافی نہیں۔ تمام ضروریاتِ دین کو صدقِ دل سے ماننا اسلام ہے۔ ضروریاتِ دین کا منکر اگرچہ لاکھ بار کلمہ پڑھے، اسی قبلہ حقہ کی طرف نماز ادا کرے، قطعاً کافر ہے اور اس کی تکفیر لازم۔

۹۔ آج کل جو لوگ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اقوالِ ائمہ مجتہدین کو قرآن و حدیث کے مقابل و مخالف بتاتے ہیں وہ طریقہ اہلسنت کے مخالف اور سوادِ اعظمِ امت کے خلاف ہیں اور گمراہ۔ اگرچہ وہ ازراہِ فریب، خود کو سوادِ اعظمِ اہلسنت میں بتائیں اور کل کے شرک کو، آج کا ایمان بنائیں۔

۱۔ بد مذہبوں گمراہوں کے رد و طرد، اور اُن کی خرافات کے ابطال میں کوشش کرنا، اُن کا پردہ چاک کرنا، ایک عظیم فریضہ اسلام ہے۔ اس سے غافل رہنا موجب تباہی و ہلاکت ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دینی کام میں رکن بنانا، انہیں منصب و عہدہ دینا، اللہ و رسول و مسلمین، سب کے حق میں خیانت کرنا ہے۔ دینی مجلس کی رکنیت دینا، اُن کی تعظیم و توقیر بڑھانا ہے، اور بد مذہبوں کی تعظیم و توقیر، بحکم احادیث، موجب غضبِ الہی، اور دین و مذہب و مسلمین کی صریح بدخواہی ہے۔ جو اسے روار کھے، پسند کرے۔ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔

۱۱۔ ہم مسلمانوں میں اب بھی ایسے بے شمار، لاتعداد مسلمان موجود ہیں جن کے آباء و اجداد، دین دار، نیکو کار، حق پرست، حق شناس، حق شعار اور متقی و پرہیزگار تھے، اور ہیں۔ ان کی مائیں، باپاں، پارسا، عابدہ زاہدہ تھیں، اور ہیں۔ اب اگر کوئی بد زبان، بزور و بہتان، اپنی جنابِ نفسی کے ماتحت، اُن میں سے کسی کے باپ، دادا اور ماں کو گالیاں دے، تو ایسی حالت میں، کس آیت و حدیث نے اس پر فرض کیا ہے کہ کوئی بد بخت، اس کے ایسے ماں باپ کو گالیاں دیتا رہے، مگر یہ اس سے شکر و شکر رہے۔ اُس سے اتحاد پیدا کرے اُسے اپنا مہر و اپنا بھی خواہ، اور اپنا سب کچھ سمجھتا رہے۔ اور فرض کر لو کہ یہ بد نصیب گیا گنہگار ایسا ہی کہ گنہگارے تو کیا وہ شرعاً عقلاً عرفاً، ہر طرح نالائق، ناخلف، بے شرم، بے غیرت اور مطعون و مذموم نہ ٹھہرے گا۔

مسلمانو! آج کونسی ماں، کس کی ماں، عائشہ صدیقہ کی برابر ہے۔ اور کس کا باپ، کونسا عالم، کہاں کا متقی، ہمارے آباء، شریعت، خلفائے رسالت، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد و غوث اعظم و خواجہ غریب نواز و شیخ الشیوخ و سلطان نقشبند و غیر ہم محبوبانِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہمسر ہے۔ تو جو بد بخت، بد نصیب و بے ادب ام المؤمنین حضرت صدیقہ بنت الصدیق محبوبہ محبوب رب العالمین جلیل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہا و سلم پر معاذ اللہ، تہمتِ ملعونہ

انک سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرے جو ان پر تبرائی کے، انہیں گالیاں دے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بد عقیدگی و بدگمانی رکھے، انہیں ظالم و غاصب باغی قرار دے یا انہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں، پادریوں کی طرح کہے اور ان کی تقلید ان سے محبت و عقیدت کو گمراہی و خسران کھڑائے، تم اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کہ ان سے دُور رہنا، ان سے نفرت کرنا، ان کی صحبت سے بھاگنا، ان سے دامن بچانا فرض ہے یا معاذ اللہ ان سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم بجالانا اور انہیں جنین و جنات جاننا۔ اور سچ پوچھیے تو یہ فرقہ غیر مقلدین کہ مخالفت اہلسنت میں پیش پیش ہے اور امت میں تفریق و فرقہ بندی اور مسلمانوں میں اختلاف و افتراق میں "قدم فسق بیشتر بہتر" کا مصداق ہے۔ اور افضل سے بدتر ہے بلکہ روافض کی ایک شاخ ہے یہی بخاری و مسلم سینکڑوں برس سے چلی آ رہی ہیں۔ نہ کوئی انہیں پڑھ کر تبرائی بنا۔ نہ امت میں فرقہ پڑا۔ اب یہ کج فہم آزادی پسند، ان نورانی کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ اور امت میں گروہ بندی کا ایک نیا دروازہ کھول بیٹھے۔ تو ایسوں سے بار بار نہ منانا، خود اپنے ہاتھوں، ان فتنوں کو پروان چڑھانا اور امت میں نفاق پھیلانا ہے والعیاذ باللہ

انصاف اللہ انصاف

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ و عترتہ و بارک وسلم اجمعین ان کی ازواج مطہرات اہبات المؤمنین، ان کے اہل بیت ان کے اصحاب، ان کے دین کے اولیاء، ان کی شریعت کے علماء، خلفائے راشدین، بالخصوص صدیق اکبر و فاروق اعظم، ان کی اولاد امجاد، خصوصاً امام مجتبیٰ شہزادہ گلگون قبا، امام حسین شہید کربلا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کی عزتیں عظمتیں و جاہتیں، رفعتیں، زائد یا تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ تمہارے برادر، خواہر، شوہر کی؟

ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی پاک دامنی پر قرآن گواہ ہے، زائد۔ یا تمہاری ماں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمّتی، صدیق و فاریق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام، باندیاں اور ام المؤمنین کے بیٹے، بیٹیاں کہلاتے اور پکارے جاتے ہیں۔ ان کی عزتوں پر حملہ کرنے والوں، اُن کو گالیاں دینے والوں انہیں غاصب و باغی و چنین و چناں کہلانے والوں سے، اگر ترک تعلق نہ کریں، اور وہ برتاؤ نہ برتیں، جو ایسے دشمنانِ دین و اعدائے اسلام کے ساتھ برتنا چاہیے۔ اور جو ہم اپنے بدگوئیوں، بدکرداروں، بدقماشوں، بد معاشوں سے برتتے ہیں، تو پھر کیا ہم اُن کے نمک حلال غلام باندھی، اور لائق و قابلِ فخر بیٹے بیٹی کہلانے جلنے کے مستحق ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اُن عالی مرتبہ جنابوں سے، اپنی نسبتوں کو زبانوں پر لائیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تو بس اب فیصلہ یہی ہے کہ جو ان مقربانِ بارگاہ سے جتنا دور ہے۔ اتنی ہی نفرت و حقارت کا مستحق ہے نہ کہ عزت و کرامت کا۔

قادیانی ہوئے، مرزائی ہوئے، بابی ہوئے، بہائی ہوئے۔ تہرانی ہوئے، دشنامی ہوئے، وہابی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، نیچری ہوئے یا ان کے ہم نوا، ہم نوالہ، ہم پیالہ ہوئے۔ ان کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال، ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں۔ انہیں اٹھا کر دیکھ لو۔ تمہارا دین تمہارا ایمان، آپ ہی بتا دے گا کہ جن کے یہ عقیدے یہ اقوال ہیں۔ وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں یا دوست۔ اُن کے دلوں میں اسلام کا مغز ہے یا پوست۔ اور جو انصاف نہ کرے، اُس کا حساب اللہ واحد قہسار کے یہاں ہے۔ اور جو اللہ و رسول کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے، تو بجزہ تعالیٰ حق، آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔ وعیاں را چہ بیان۔

گمراہوں کے گمراہ طریقے

مسلمانو! من و تو کی کیا حقیقت۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ، معاندوں کیسے توڑوں اور ہوس پرستوں کے چند طریقے رہتے ہیں۔

۱۔ سرے سے بات نہ سنا کہ:

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِیۡهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ۝

قرآن سنو ہی نہیں۔ اور اس میں غل غپاڑہ کرو۔ شاید تم غالب آؤ۔

۲۔ سُن کر مکارانہ تخریب کا موٹھ کھول دینا اور انہیں جھٹلانا کہ:

إِنۡ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝ تم تو نہیں مگر جھوٹے۔

۳۔ ہدایت فرمائی اور سنائی کو کسی دنیاوی غرض سے وابستہ کر دینا کہ:

إِنَّ هَذَا الشَّیْءُ یُرَادُ ۝ اس میں ضرور کچھ مطلب ہے۔

۴۔ حق کا باطل سے معارضہ و مقابلہ کرنا کہ:

و یجَادِلُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لیدَّحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ یَتَّخِذُوا

آیۡتِیۡ وَمَا اُنۡذِرُوا هٰۤاهُ ۝

کافر باطل کے ساتھ جھجکتے ہیں کہ اُس سے حق کو زائل کر دیں۔ اور

انہوں نے میری آیتوں اور ڈراووں کو ہنسی بنا لیا ہے۔

لیکن مسلمان کی شان کہ مسلمان خدا کی امان میں ہے، ان سب سے جدا ہے

رب عزوجل فرماتا ہے:

فَبَشِّرْ عِبَادِیَ الَّذِیۡنَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِیۡتَعُونَ اِحْسٰنًا۔ اُولٰٓئِكَ

الَّذِیۡنَ هَدٰی اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ ط

”خوشخبری دو میرے بندوں کو، جو کان لگا کر بات سنتے، پھر سب میں بہتر

کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہی عقل والے ہیں۔
 اس لیے مسلمان پر فرض ہے کہ سب باطل طریقوں سے پرہیز کرے۔ ہر تعصب
 و طرفداری سے خالی الذہن ہو کر، کان لگا کر بات سُنے۔ اگر انصافاً حق پائے، اتباع
 کرے کہ بارگاہ رب العزت سے ہدایت و دانشمندی کا خطاب ملے۔ ورنہ پھینک دینا
 تو ہر وقت اختیار میں ہے۔ واللہ المہادی

لِللّٰهِ اِکْ ذِرَاتِ الْعَصَبِ وَ سَخْنِ پِیْرِ وِ رِیْ سِے جُذْا ہُو کِر تَفْکُر کِر و۔ تَنہائی قَبْر و
 ہِنگامہ حَشْر کا تَصْوَر کِر و۔ اُس دِن نامہ اَعْمَال کھولے جائیں گے۔ نیک بُد اَفْعَال
 سب تو لے جائیں گے۔ بھڑکتی، شعلے مارتی، جہنم کی آگ کو سامنے لائیں گے۔
 اہلسنت نجات پائیں گے۔ اُن کے مخالف، اُن سے مُعَانِد، نادر جہنم میں دھکے
 کھائیں گے۔ مخالفوں کے ساتھی، مخالفوں کے ساتھ، اُٹھائے اور ایک رستی
 میں باندھے جائیں گے۔ یہ سارے بچھڑے، رہتی دنیا تک ہیں، آنکھ بند ہوتے
 ہی سب یہیں رہ جائیں گے۔ ہر ایک اپنی اکیلی جان سے، اپنے اعمال، اپنے
 ایمان سے، بارگاہ عدالت میں حاضر ہوگا۔ ہر دل کا راز ظاہر ہوگا۔ کوئی چھوٹا حیلہ
 بہانہ ہرگز نہ چلے گا۔ بات بنانے کو ہرگز راستہ نہ ملے گا۔ وہاں یہ کہتے نہ بنے گی
 کہ ہم غافل تھے کچھ مولویوں نے بہکا دیا، ہم جاہل تھے۔

لِلّٰهِ اِضْفَا فِ کِی اَنکھیں کھولو۔ حق و باطل کو میزانِ عدل و عقل میں تو لو۔ اور
 وہ کام کہ چلو کہ دارین میں بول بالا ہو اور خدا و رسول کے سامنے، موخہ اجالا۔ اے
 میرے رب، توفیق رفیق کر۔ آمین آمین بجاہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

حاشیہ اللہ

مذکورہ بالا مودبانہ معروضات کا منشا یہ ہرگز نہیں کہ ہم مداراتِ اسلامی کو بالائے طاق رکھ دیں اور ناحق اُن سے اُلجھتے پھریں۔ یا اُن پر ظلم یا ان کی دل آزاری کریں یا انہیں گالیاں دیں یا ان پر گلی گلی لعنتیں بھجییں یا ان کا عیش ان پر مستغص کر دیں یا ان پر نجاستیں پھینکیں یا مصالحِ شرعیہ کو یکسر فراموش کر دیں۔ یا حدِ اعتدال سے گزر کر انہیں خواہ مخواہ اشتعال دلائیں یا شستگی و متناسبت اور معقولیت کی بجائے غیر شرعیانہ سلوک پر اتر آئیں۔ بلکہ میں امن و سلامتی کا مسئلہ کھڑا کروں اور اعداءِ اسلام و مسلمین کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بلکہ منشاءِ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد اپنے نظریات، اپنے اعمال، اپنے معمولات کا سودا نہ کریں۔ اُن کی تملق و خوشامد میں نہ رہیں۔ اپنا دین اپنا ایمان، اُن کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر مددِ اسنت کے سیلاب میں نہ بہائیں۔ اور اُن کے گورکھ دھندول میں ملوث ہو کر اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنا دین اپنی عاقبت نہ گنوائیں۔ جو گمراہ و بددین ہیں انہیں گمراہ و بددین ہی جانیں۔ اُن سے معاملات سے واسطہ پڑے تو اُن کی محبت و تعظیم اور موت و تکریم کو اسلام و قرآن، شرع و ایمان کے خلاف ہی جانیں۔ ان کی تضلیل و تکفیر و تفسیق ہی میں اپنی نجات پھانسیں۔ اور یقین مانیں کہ حق و صواب وہی ہے جس کی طرف خدا و رسول بلا تے ہیں۔


ہمارے ہی خواہ، ہمارے رؤف و رحیم، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان، ہمارے رسول کریم علیہ وعلی آلہ و اصحابہ افضل الصلوٰۃ واکرم التسلیم نے صاف صاف و آشکارا الفاظ میں ہم مسلمانوں پر واضح فرما دیا ہے کہ یہ امت تمہارے فرقے ہو جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ باقی سب جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِ اَصْحَابِي۔ وہ جس پر ہیں اور میرے صحابہ ہیں۔

یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں هُمْ الْجَمَاعَةُ وہ جماعت ہے یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سوا و اعظم فرمایا۔ اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام ہوا۔

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (اہلسنت وجماعت) کثرہوا اللہ تعالیٰ۔
ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے۔ بعض برصغیر پاک و ہند میں نہیں اور جو یہاں موجود ہیں ان میں کچھ اسلام سے نکل گئے۔ کچھ پر قول رہے ہیں۔ کچھ بگڑ گئے کچھ بگڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ ان کے فریب میں نہ آئیں اور اس حدیث شریف کو اپنا لائحہ عمل بنائیں کہ
فَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَإِيَاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ
اپنے کو ان سے دور رکھو اور انھیں اپنے سے دور کرو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔
کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

اور انہیں کلماتِ طیبہ پر یہ فقیر بے توقیر اپنی اس تالیف کو ختم کرتا ہے۔ اور دعا گو ہے کہ رب کریم اپنے فضل عظیم سے اس بے مایہ خدمت دینِ متین کو شرفِ قبولیت سے نوازے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین پر ثبات اور مذہبِ مہذب اہلسنت وجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجز مہر
حبيك النبي الامي الامين عليه وعلى آله واصحابه وحرية اجمعين
برحمتك يا ارحم الراحمين -

العبد محمد خلیل خاں قادری البرکاتی عفی عنہ
دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد پاکستان
۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۴ھ
بہفتہ



قابل مطالعہ کتابیں

عُدَّةُ الْأَصُولِ (فنِ حدیث پر ایک علمی کتاب)

علامہ قاضی غلام محمود ہزاروی

مشغل ہدایت

امام احمد رضا قادری

مَخَصَّاتُ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (اُردو)

مولانا نین اختر مصباحی

اسلامی تعلیم

مفتی جلال الدین احمد اعجدی

کتاب العقائد (پاکٹ سائز)

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی

الارشاد (میلاد شریف پر ایک علمی تحقیقی کتاب)

حضرت علامہ محمد عالم آسی امرتسری

القول الجلی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

انگوٹھے چوٹے کا مسئلہ

امام احمد رضا قادری

حقیقت بیعت

امام احمد رضا قادری

أطيب البیان

حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

بزرگوں کے عقیدے

مفتی جلال الدین احمد اعجد

بہارِ شباب

علامہ شاہ عبد العظیم صدیقی

امام اور مقتدی جماعت کے لیے

مفتی سید شاہد علی قادری

احکامِ رمضان المبارک

علامہ شاہ عبد العظیم صدیقی

عظمتِ الدین

مفتی نظام الدین رضوی

مصحفِ بیدم

حضرت بیدم شاہ وارثی

جدید بنکاری اور اسلام

مفتی نظام الدین رضوی

مسئلہ کنلابوی

دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ، لاہور

فون: 7225605

قابل مطالعہ کتابیں

مشغل ہدایت

امام احمد رضا قادری

اسلامی تعلیم

مفتی جلال الدین احمد اعجدی

الارشاد (میلاد شریف پر ایک علمی تحقیقی کتاب)

حضرت علامہ محمد عالم آسی امرتسری

انگوٹھے چوٹے کا مسئلہ

امام احمد رضا قادری

اُطیب البیان

حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

بہارِ شباب

علامہ شاہ عبد العظیم صدیقی

احکامِ رمضان المبارک

علامہ شاہ عبد العظیم صدیقی

مصحفِ بیدم حضرت بیدم شاہ وارثی

مفتی نظام الدین رضوی

عُدۃُ الاصول (فنِ حدیث پر ایک علمی کتاب)

علامہ قاضی غلام محمود ہزاروی

خصائصِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اردو)

مولانا نبین اختر مصباحی

کتاب العقائد (پاکٹ سائز)

حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی

القول الجلی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

حقیقتِ بیعت

امام احمد رضا قادری

بزرگوں کے عقیدے

مفتی جلال الدین احمد اعجد

امام اور مقتدی جماعت کے لیے

مفتی سید شاہد علی قادری

عظمتِ الدین مفتی نظام الدین رضوی

جدید بنکاری اور اسلام

دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ، لاہور

فون: 7225605

مسئلہ کنایوی